

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ  
كَمِ دِينِ بَانَ مَحْتِ اقْتِرَانِ بِلِ

ايزو مٹان تحفہ عجايب و ہدیہ غرات پب الى اللہ اللہ  
مقبول بارگاہ شاہ کونین حضرت محمد رسول اللہ  
مُسکَلِي بِهِ

# صَلَاةُ الرَّسُولِ

مُقَدِّمَةٌ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

حضرت خواجہ نوبگان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور  
صوبہ سرحد پاکستان



The blessed lock to the entrance fo the Roza e Rasool s.a.w





**Brought to you by Qadria Trust Masjid**

**under the guidance of**

**Pir Mohammad Tayyab ur Rehman Qadri**

**قادرية ٹرسٹ**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



حضرت پیر الحاج محبت الرحمن قادری صاحب  
جان شمس قادری دارالافتاء دارالعلوم دیوبند پشاور شریف دیوبند  
08-2005

صاحبزادہ  
پیر طریقت  
محمد طیب الرحمان قادری  
آستان عالیہ محمدیہ قادریہ کراچی





روضه مبارک غوث الزمان نعلیقہ شاہ جیلاں حضرت نوحاجہ محمد عبد الرحمان چھوہروی رحمۃ اللہ علیہ  
دربار عالیہ قادریہ چھوہر شریف



**Darbar Shareef of Hazrat Khawajjah Fazal ul Rehman Qadri r.a**



Darbar Shareef of Hazrat Khawajjah Fazal ul Rehman Qadri r.a





روضہ مبارک قلب زان خواجہ احمد شاہ سرکونی رحیمپور محلیہ عزت الزان حضرت خواجہ عبدالرحمن چیموڑی رحمۃ اللہ علیہ (شتا الو شریف سرکونیٹ)



دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور ہزارہ



مدرسه طیبیہ سنہ چٹاگانگ (اندرونی منظر)



مدرسه طیبیہ اسلامیہ سنہ چٹاگانگ (بیرونی منظر)



مدرسه طیبیہ ودودیہ سیدیہ - چندرگھونا - چٹاگانگ



مدرسه فتوحیہ طیبیہ - محسنپور - ڈھاکہ



بَارِعَا لِعَلَّيْنِ  
On Allah open the doors for Me of your Blessings

## A short treatise on the life The Gawth Hazrat Khawajjah Abdur Rahman Choorvi radiAllahu anhu

**Don't look at those who are endowed with the cloak of the ascetic'  
Should they desire a miracle, a single gesture would be enough**

A great honour was bestowed upon the city of Haripur Hazara, situated in the Khabybar Pakhtunkhwa, Pakistan, for from this small city a great man of Allah, the Gawth Sayyidina Khawajjah Abdur Rahman Choorvi radiAllahu anhu was born. This great man was a true gnostic of Allah, the Pole of Sainthood of his time. He was unique and a true embodiment of Our Master, the Messenger of Allah salAllahu alayhi wa Aalihi wassalam, who's initial guidance and spiritual openings were given through Sayyidina Khidr Alayhis Salaam

Hazrat Abdur Rahman Choorvi r.a was born in Hazara division in the city of Haripur in which, is located in the village of Choor sharif; the birth place of Hazrat Abdur Rahman Choorvi r.a. Hazrat's lineage has an unbroken chain going back to the fourth Khalifa, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiAllahu anhu. In Silsilah (spiritual order), he was Qadri and in Madhab, Hazrat was Hanafi. Coming from a Scholarly family Hazrat's father, Hazrat Kwajjah Khizr r.a was a great gnostic himself who was engrossed in the remembrance of Allah, He was a reflection and true adherent of the law of Islam and the Prophetic Sunnah

Hazrat Abdur Rahman r.a showed great signs of sainthood from an early age, and sure enough in Hazrat's youth he received the spiritual openings of sainthood from Sayyidina Khidr a.s. In his youth, hazrat was once reciting in a melodious voice, at which point a saintly looking person approached him and said 'Oh young one, what is it that you are reciting, let me listen' Hazrat Abdur Rahman, then recited to Sayyidina Khidr a.s who blessed Hazrat with the lights of secrets and wisdom. At this point, Sayyidina Khidr a.s said 'Do you know who I am?' Hazrat replied in the negative, to which Sayyidina Khidr a.s responded 'I am Khidr, and I shall come to visit you again

By the gazes of Sayyidina Khidr a.s, Hazrat received wilayah, and eventually became the Pole of Sainthood and was given the spiritual station the Gawth. After some time had passed, Sayyidina Khidr a.s came to Hazrat again and advised him: 'The foundations of your friendship with Allah have been set, now go and act upon the Majestic Sunnah of the Prophet (s.a.w) and seek out your spiritual guide

Hazrat Abdur Rahman r.a was an Ummi (unlettered), meaning he did not have physical training or education in the sciences of Islam, however due to the countless openings and blessings of Allah Ta'ala, Hazrat received Divinely inspired knowledge, known as ilm e Laduni direct from Allah Ta'ala and The Holy Prophet (s.a.w). Such was the grasp and scoop of the knowledge Hazrat possessed, that those who were experts in the fields of Islamic Doctrine would come to seek guidance on complex matters pertaining to the very subjects they themselves were well versed in

Hazrat r.a was granted such vast and comprehensive knowledge of both the outer and inner sciences of shariah and tariqa that it would shadow and dwarf the knowledge of the senior scholars of the time. Through ilm e Laduni Hazrat was inspired with salawat upon the Holy Prophet (s.a.w), which came to an astonishing 30 juz (parts), covering more than 3000 pages in five extensive vol-

## A short treatise on the life The Gawth Hazrat Khawajjah Abdur Rahman Choorvi RadiAllahu anhu

**Don't look at those who are endowed with the cloak of the ascetic'  
Should they desire a miracle, a single gesture would be enough**

A great honour was bestowed upon the city of Haripur Hazara, situated in the Khabybar Pakhtunkhwa, Pakistan, for from this small city a great man of Allah, the Gawth Sayyidina Khawajjah Abdur Rahman Choorvi radiAllahu anhu was born. This great man was a true gnostic of Allah, the Pole of Sainthood of his time. He was unique and a true embodiment of Our Master, the Messenger of Allah salAllahu alayhi wa Aalihi wassalam, who's initial guidance and spiritual openings were given through Sayyidina Khidr Alayhis Salaam

Hazrat Abdur Rahman Choorvi r.a was born in Hazara division in the city of Haripur in which, is located in the village of Choor Sharif; the birth place of Hazrat Abdur Rahman Choorvi r.a. Hazrat's lineage has an unbroken chain going back to the fourth Khalifa, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiAllahu anhu. In Silsilah (spiritual order), he was Qadri and in Madhab, Hazrat was Hanafi. Coming from a Scholarly family Hazrat's father, Hazrat Kwajjah Khizr r.a was a great gnostic himself who was engrossed in the remembrance of Allah, He was a reflection and true adherent of the law of Islam and the Prophetic Sunnah

Hazrat Abdur Rahman r.a showed great signs of sainthood from an early age, and sure enough in Hazrat's youth he received the spiritual openings of sainthood from Sayyidina Khidr a.s. In his youth, hazrat was once reciting in a melodious voice, at which point a saintly looking person approached him and said 'Oh young one, what is it that you are reciting, let me listen' Hazrat Abdur Rahman, then recited to Sayyidina Khidr a.s who blessed Hazrat with the lights of secrets and wisdom. At this point, Sayyidina Khidr a.s said 'Do you know who I am?' Hazrat replied in the negative, to which Sayyidina Khidr a.s responded 'I am Khidr, and I shall come to visit you again

By the gazes of Sayyidina Khidr a.s, Hazrat received wilayah, and eventually became the Pole of Sainthood and was given the spiritual station the Gawth. After some time had passed, Sayyidina Khidr a.s came to Hazrat again and advised him: 'The foundations of your friendship with Allah have been set, now go and act upon the Majestic Sunnah of the Prophet (s.a.w) and seek out your spiritual guide

Hazrat Abdur Rahman r.a was an Ummi (unlettered), meaning he did not have physical training or education in the sciences of Islam, however due to the countless openings and blessings of Allah Ta'ala, Hazrat received Divinely inspired knowledge, known as ilm e Laduni direct from Allah Ta'ala and The Holy Prophet (s.a.w). Such was the grasp and scoop of the knowledge Hazrat possessed, that those who were experts in the fields of Islamic Doctrine would come to seek guidance on complex matters pertaining to the very subjects they themselves were well versed in

Hazrat r.a was granted such vast and comprehensive knowledge of both the outer and inner sciences of shariah and tariqa that it would shadow and dwarf the knowledge of the senior scholars of the time. Through ilm e Laduni Hazrat was inspired with salawat upon the Holy Prophet (s.a.w), which came to an astonishing 30 juz (parts), covering more than 3000 pages in five extensive vol-

mes. Being a Ummi (unlettered), Hazrat would recite the inspired salawat to their disciple (Khalifa), Hazrat Khawajjah Fazal ul Rehman Qadri r.a, who would pen this down in a book later to be named as the miraculous 'Majmuwa Salawat ar Rasool (s.a.w)' (translated here as 'The Great collection of prayers upon the Prophet (s.a.w)

From this we come to know of the expansion of the spiritual status of Hazrat r.a; who when asked a question would answer it without hesitation, should it be something which needed clarification, hazrat would say 'wait let me ask the Prophet s.a.w and without closing '(their eyes or meditation, Hazrat would say 'Channi, I have the answer from the Prophet (s.a.w

At the age of 8 years Hazrat's father Hazrat Khawajjah Khizir r.a passed away and at this tender age hazrat started his spiritual exercises, which were intense and extremely difficult. Once at such a young age, hazrat was accompanied by a few associates and desired to visit the great man of Allah, Hazrat Akhund Baba r.a. When they arrived in the holy place of Hazrat Akhund r.a there was an vast amount of devotees trying to access the darbar sharif to take a glimpse of Hazrat Akhund Baba r.a

Due to the amount of devotees who had come to visit Hazrat Akhund Baba r.a people were unable to access or see this great man of Allah; due to this those with Hazrat Abdur Rahman r.a said: 'let us go back as we shall not be able to meet the Shaykh' In reply to this, Hazrat said: 'At the time of Chast (after sunrise), Hazrat Akhund r.a would sit on the upper most stair of the Mosque, and we shall be 'able to take a glimpse of him, after this we shall leave

The following day, one of the disciples of Hazrat Akhund Baba r.a opened the door of the private courtiers of Hazrat at which point Hazrat Akhund r.a addressed him and said 'Amongst all these people, there is a child who has come from Haripur Hazara, bring him to me

Hearing this, the disciple of Hazrat Akhund r.a started to call out for this young boy to come forward; however due to the huge numbers of devotees it was becoming extremely difficult to find this boy (Hazrat Abdur Rahman r.a), Hazrat Akhund r.a disciples, after 'much frustration, eventually called out 'why is it, the one who Hazrat wishes to see, is not revealing himself

Those who were with Hazrat Abdur Rahman r.a said to him, 'it is you the Shaykh wishes to see'. However, hazrat replied: 'There are many who are from Haripur, it could be anyone' Eventually one of those whom were accompanying Hazrat informed the disciples that the one they sought was with them. When the disciples saw Hazrat Abdur Rahman, they lifted him and took him in the presence of the great man of Allah, Hazrat Akhund Baba r.a

When Hazrat Akhund r.a saw this child, who was the light of wilayah, he immediately said 'He is the one, he is the one, he is the one. He 'is the one whom i was seeking' At this point Hazrat Akhund r.a said to him 'Oh the Orphaned Pearl! Let us make dua

At this point Hazrat Abdur Rahman r.a said 'when Hazrat Akhund Baba r.a lifted his blessed hands to make dua, i felt as if the weight of the heavens was placed on my head, and when he finished making dua, i felt as if this weight was lifted and felt a total sense of peace and tranquility. Hazrat Akhund r.a then asked him 'what is it, that you saw last night?' Hazrat Abdur Rahman r.a said that he saw his place of seclusion, to which Hazrat Akhund r.a replied 'Go and sit there, your Shaykh shall come to you and give you the oath of allegiance, there at your place of seclusion, for your portion of spiritual mysteries is with him

After some time had passed, a great gnostic of Allah came to Choor Shareef from Kashmir and asked about a child named Muhammad Abdur Rahman r.a. After searching, eventually this gnostic, namely Hazrat Yaqoob shah r.a came to find Khawajja Abdur Rahman Choorvi radi Allahu. Upon hearing of the arrival this great man of Allah, Khawajja Abdur Rahman r.a came out of his room and welcomed Hazrat Yaqoob Shah r.a with a grand welcoming. Hazrat Yaqoob Shah r.a accompanied Hazrat Khawajja Abdur Rahman r.a into his place of seclusion, and initiated him into the esteemed Qadiyaa Silsilah

Hazrat Abdur Rahman Choorvi radi Allahu anhu eventually became the true spiritual inheritor of his father, and at the time of his returning to his Lord, Hazrat was asked, who is the Gawth? Hazrat Abdur Rahman Choorvi r.a replied 'After Gawth al Azam Shaykh Abdul Qadir Jilani r.a nobody has reached this station, for a long time this was left as it is, until after a long period of time it (came to a young child, who was the true spiritual inheritor of the Gawth (Referring to himself

At the darbar of Hazrat r.a fuqara, masakeen and ulama attended in the thousands at all times. A Shaykh and Sufi once mentioned to hazrat, that 'At your darbar many thousands attend on a daily basis and all are fed but you have no physical wealth, let me give you a wazifah (litany) that you shall increase in wealth.' Hazrat r.a, being a great muta wakil (one who trusts in Allah completely), replied: 'I feel shy become my Lord, Allah. That people come to us, the friends of Allah, and wesit here doing wazaif for wealth. I have no need 'for this

In one of the duas of Hazrat Abdur Rahman Choorvi r.a, Hazrat asked Allah Ta'ala to always remain hidden from the world. This dua was accepted such, that despite completing the great 5 volume book of salawat over a period of 12 years, 8 months and 20 days, none knew of it, until the end of Hazrat's physical life; before passing away Hazrat r.a informed the disciples of this book that was inspired to him and ordered for its publication so that the creation of Allah would derive great benefit from it. On the 1st of Dhul Hijjah .1324, The great Gawth returned to His Merciful Lord. May Allah Ta'ala elevate His maqam, and make us benefit in both worlds

#### Online Publication

This unique and powerful book of Salawat 'Majmuwa Salawat ar Rasool' (The Great Collection of Prayers upon the Prophets.s.a.w) has never been available online before. Under the Supervision of Pir Mohammad Tayyab ur Rehman Qadri, this publication has been made available to the masses free of charge. This is like no other salawat book and it is believed to be the only one of its kind, both in size and spiritual blessings. We ask Allah Ta'ala to bless us all and accept this humble eort from us, and to bless all the team of Qadria Trust who have worked tirelessly to bring this to you in the best possible and efficient manner. All good is from Allah Ta'ala and His Rasools.s.a.w and any shortcomings are from us, we seek Allah Ta'ala's lutf and protection at all times and in both worlds

In this day and a ge, where so many have moved away from the true Prophetic way and people are researching for inner peace and tranquility, this most unique and powerful compendium of Salawat is an excellent means of salvation, by which it is hoped one will receive the true love of The Messenger of Allah s.a.w

We would like to thank Mufti Gul Rehman Qadri, Pir Mohammad Tayyab ur Rehman Qadri, Mufti Yaar Mohammed Qadri Mohammed Nasir Khan, Haji Mohammed Aslam, Haji Munir Hussain Adeel Nasar, Mohammed Khalil Yasin



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ لله المتوحدِ بجلال ذاته، وكمال صفاته المتقدِّسِ في نعوتِ الجبروتِ عن شوائبِ النقصِ وسماته. الواجب الوجود بالذات الأزلي لا ابتداءً له، وكما الأبدى لا إنتهاءً له.

والصلاة والسلام على نبيِّه خاتم الأنبياء، والمرسلين رحمة للعالمين.  
أما بعد: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [سورة يونس: ٦٢]

ترجمته: اسموعوا على أن أولياء الله لا خوفَ عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [سورة يونس: ٦٢] الذين آمنوا بالله إيماناً دائماً وورعوا به. ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْقُوْرُ الْعَظِيمُ﴾ [سورة يونس: ٦٤].

ترجمته: احفظوا على أن مؤمن الخالص الذي عارفه الله معرفةً، وعابده عبادةً دائمةً، وابتعوا عن الآثام لذاتهم وشهواتهم (١) والمراد عن الولي ! الشخص العارف بالله الذي عارفه معرفةً دائمةً (٢).

(١)-انظر: شرح المقاصد (٥/٧٢-٧٣).

وقال الآخرون:

١- (الأولياء) هم الأشخاص الذين راضوا بتقدير ربهم.

٢- وهم الأشخاص الذين وافق عملهم الحق.

٣- وهم الأشخاص الذين يحبون عباد الله لرضاء ربهم (٣) .

### صفات الأولياء !

عَرَفَ الْقُرْآنَ الْوَلِيَّ الْقَائِلًا: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ ﴾ [سورة  
يونس: ٦٢].

والمراد عن الإيمان ! من آمن برسول الله وصدق به، والعمل على  
أحكامهم.

والمراد عن الزهد ! الابتعاد الدائم عن الآثام الصغيرة والكبيرة،  
والاجتناب عن المباحات الخلاقية، والعمل على المختارات، وداموا

(٢)- انظر: فتح الباري (٣٤٢/١١).

(٣)- انظر: النكت والعيون (٤٤١/٢).

على أداء الفرائض والواجبات، وعملوا على جميع سنن النبي ﷺ -  
وآدابه، وداموا على العبادة النافلة واستمروا عليها.

وعند ما يقوم للصلاة يخشون ربهم، ويتركون ماسوى ذلك. وأحياناً  
في شوق ذلك ينسون أنفسهم؛ ولكنهم يعرفون الله عزوجل أكثر من  
غيرهم، وقلوبهم مستغرة في ذلك، وعند ما ينظرون لا ينظرون إلا  
في عجائب قدرته، ولا يسمعون إلا كلام ربهم، وأحاديث رسولهم -  
ﷺ - ويتكلمون عنهما. ويقصدون لرضاء الله ورسولهم ﷺ - في  
جميع أعمالهم ويمتثلون فيه. ويقومون في منتصف الليل ويذكرون  
الله تعالى، ويضعون يوم الآخرة وعذاب النار في تصور حالهم،  
وبكثرة بكائهم كأن دموعهم يخرج لوضوئهم، ويقومون في منتصف  
الليل خائفين المتضرئين أمام ربهم، وهو ثابت في كتاب الله  
تعالى (٤).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ  
عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيَحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ  
يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ. فَيَحِبُّهُ أَهْلُ  
السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا

(٤)-انظر: تبيان القرآن لمولانا غلام رسول السعيدى (٤٢٧/٥) الطبعة  
الباكستان.

جَبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أَبْغَضُ فَلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيَبْغِضُهُ جَبْرِيلُ ثُمَّ  
يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيَبْغِضُونَهُ  
ثُمَّ تَوَضَّعَ لَهُ الْبُغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ). (٥) لفظ حديث جرير عند  
مسلم.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ؟ (إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي  
وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا نَقَرَبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا  
افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ،

(٥)- أخرجه مالك في (الموطأ) (٢/ ٩٥٣ / ١٥) ، ومسلم ( ٢٦٣٧ /  
١٥٧ / ١٥٨ ) ، والنسائي في (الكبرى) (٤ / ٤١٦) ، والترمذي ( ٣١٦١ ) ، وأحمد ( ٢ / ٢٦٧ ، ٣٤١ ، ٤١٣ ، ٥٠٩ ) ، والطيالسي ( ٢٤٣٦ ) ، وعبد الرزاق في ( المصنف ) ( ١٩٦٧٣ ) ، وأبو يعلى في ( المسند ) ( ج ١٢ / رقم ٦٦٨٥ ) ، وابن حبان ( ٣٦٥ ) ، وابن أبي حاتم في ( تفسيره ) - كما في ( ابن كثير ) ( ٥ / ٢٦٣ ) - والطبراني في ( الأوسط ) ( ٥٠٠١ ) ، وابن المقرئ في ( المعجم ) ( ج ٨ / ق ١٤٠ / ٢ ) ، وابن بشران في ( الأمالي ) ( ج ٤ / ق ٤٤ / ٢ ) ، والبزار في ( مسنده ) ( ج ٢ / ق ٢١٢ / ١ ) ، وأبو نعيم في ( الحلية ) ( ٣ / ٢٥٨ ، و ٧ / ١٤١ ، و ١٠ / ٣٠٦ ) ، وفي ( أخبار أصبهان ) ( ٢ / ٥٧ ) - وتبيان القرآن لمولانا غلام رسول السعدي ( ٤٢١ / ٥ ) .

فَإِذَا أَحَبَّبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ،  
وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ ،  
وَلَنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِيذَنَّهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي  
عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ(٦).

وأصبح قلبه الذي يفهم به، ولسانه الذي يتكلم به.

ووضحه الإمام الرازي أحسن توضيحاً للإنسان الذي يداوم على  
العبادات حتى يصل إلى المقام الذي قال تعالى عنه:- أصبح  
بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وأذنه الذي يسمع به. وعند ما يصبح نوره  
تعالى أذنأ له؛ فأذ به يسمع من القريب والبعيد، وعند ما يصبح نوره  
تعالى بصرأ له فيبصر به القريب والبعيد، وعند ما يصبح نوره  
تعالى يدا له؛ فيسهل به الصعب، ويتصرف في القريب والبعيد(٧).

وقال تعالى: ﴿ قَلَمًا أَتَاهَا نُودٍ مِّنْ شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي  
الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  
﴿(سورة القصص: ٣٠).

(٦)-أخرجه البخاري، ورقم الحديث(١٥٠٨٥).

(٧)-انظر: تفسير الكبير للرازي(٤٣٤/٧).

كَأَنَّ الشَّجْرَةَ كَانَتْ تَتَكَلَّمُ، ثُمَّ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَجْعَلَ نَسَبَتَهُ إِلَى ذَاتِهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ نَوَّرَ الشَّجْرَةَ بِنُورِهِ، وَجَعَلَ الشَّجْرَةَ وَسِيطَهُمَا؛ فَأَصْبَحَتِ الْمَتَجَلَّى فِي حَكْمِ الْمَتَجَلَّى فِيهِ.

وَالْتَجَلَّى هُوَ عَكْسُ الشَّيْءِ فِي مَكَانٍ مَا، وَيُمْكِنُ رُؤْيَا عَكْسِ الشَّيْءِ فِيهِ، فَاللهُ تَعَالَى لِأَجْلِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَظْهَرَ نُورَ ذَاتِهِ فِي النَّارِ (أَوْ فِي الشَّجْرَةِ) وَإِذَا جَازَ لِلشَّجْرَةِ أَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ الْفِدَاءُ اللهُ، وَمَالِمَانَعُ مِنَ الشَّخْصِ الَّذِي يَحْصُلُ قُرْبَ رَبِّهِ بِالنَّوَافِلِ بَأَنَّ يَكُونُ اللهُ سَمْعًا وَبَصْرًا لَهُ !

عِنْدَ مَا صَحَّ التَّعْبِيرُ لِشَجَرِ مُوسَى بَأَنَّ يَكُونُ مَنْدُوبٌ (مَصْدَرٌ) لِصِفَةِ كَلَامِهِ تَعَالَى، وَمَا بِالْكَمِّ لَوْلِيٍّ مِنْ أَوْلِيَاءِ أُمَّتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ - ﷺ - لِأَنَّ يَظْهَرُ فِيهِ صِفَةُ اللهِ السَّمْعِ وَالْبَصْرِ مِنْهُ !.

وَفِي ضَوْءِ فَضَائِلِ الْمَذْكُورَةِ لِأَوْلِيَاءِ اللهِ - تَعَالَى - لِأَشْكَ وَلا رَيْبَ بَأَنَّ الشَّيْخَ خَوَاجَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَادِرِي شُوْهِدَرِي - رَحِمَهُ اللهُ - كَانَ وَلِيٍّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ وَيَكُونُ مَصْدَاقًا وَمُظْهِرًا لِذَلِكَ.

وَقَرَّبَهُ اللهُ الشَّيْخَ خَوَاجَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَادِرِي شُوْهِدَرِي - رَحِمَهُ اللهُ - بِوَسَايَةِ النَّبِيِّ اللهِ - ﷺ - تَقَرُّبًا خَاصًّا وَحَتَّى غَوَّثَهُ اللهُ لَهُ فِي مَحَبَّتِ بَحْرِ التَّوْحِيدِ، وَاشْتَغَلَ رَحِمَهُ اللهُ فِي ذِكْرِ اللهِ وَفِي فِكْرِهِ، وَحَتَّى

زيارته ورؤيته كان يتوجه إلى ذكر الله، وداوم على اتباع سنة النبي الله -ﷺ- ولم يكن يؤدي الفرائض، والواجبات، وسنن فحسب !! بل كان يصلي صلاة النوافل بالكثرة أيضاً.

وكان يؤدي جميع أنواع العبادة الجسدية، وذلك المالية وحتى أصبحت السخاوة رياضة له، وكان كريماً جداً، وكان على رفيع المستوى للسلوك والخلق، وكان يظهر فيه بأنه عارف بالله ورسوله -ﷺ- وقائم على دينه، وكأنه زين بجميع الفضائل والصفات وعالم الأحكام، وعارف منازل السلوك الصوفية وهب الله له ذلك. وجمع ثلاثين جزءاً لصلاة النبي -ﷺ- وهو برهان على هبة من الله له، ويظهر من هذه المجموعة الشريفة بأنه مغرماً في حب رسول الله -ﷺ-.

وله خلفاء واتباع (مريد) بجمع غفير وكم كبير العدد الذي لا يعد ولا يحصى في شتى أنحاء العالم، واستفاد الخلفاء بمعرفة طرق السلوك الصوفية الشريفة، ومن أبرزهم:

❖ -شيخ المشايخ السيد أحمد القادري-رحمه الله- الشهير ب:خليفة يكوئي الذي أسس المعاهد والمدارس الشرعية. ومن

بعض خلفائه والمريدين الذين أسسوا حركة (جماعة) المسمى  
ب: لشكر الإسلام بنكلاديش.

❖-والخليفة الخاص المجاز الثاني! هو العلامة الشيخ فقيه  
صوفي وولي من أولياء الواصلين مولانا محمد فضل الرحمن  
القادري-رحمه الله- صاحب زاوية (دربار) قادرية عالية  
الشهير-بهيرة شريف- في أرياف مدينة هري بور هزاره ديون  
الباكستان.

وهو كان نموذج التواضع وبحر العلم والعمل. وكان ولي السنة  
وصقرهم، وتشرفني بزيارته، وكأنه مرج البحرين في الكرم والأعطاء  
الظاهر وإصلاح الباطن، واستفدت منه أول مرة معرفة طريقة  
القادرية، وبرعايتهم لقد حضرت على مختلف القادرية، واستفدت  
معرفة السلوك من مختلف المشايخ وحتى مفتي كل رحمن القادري  
الذي دلّ وأخذ الشيخ محمد طيب الرحمن القادري إلى حضرة  
جده-وهو الشيخ محمد فضل الرحمن القادري الذي قدم وأعطي به  
الآمانة لطريقة كاملة كي يصبح مصداق قول الله تعالى- ﴿ هَلْ  
جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ (سورة الرحمن: ٦٠). وفي الأعمال  
الصالحة فيه عز وشرف كبير، والله أسأل أن يزود ويرزق مزيد  
المعرفة والبركات ظاهرة والباطنة (آمين).



## بجاه سيد المرسلين

وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين.

وجمع مجموعة من الأناشيد الدينية في مدح الرسول -ﷺ- وترجمه في اللغة الأردنية على طريقة خاصة وجميلة، ويتضمن فوائد مهمة كشأن أصله والذي يقرؤه لاشك إنه يستفيد بالفوائد الظاهر والباطنة الروحانية. وترجمة لعامة الشيخ الحديث محمد أشرف السيلوي أضاف فيه سيرته الذاتية لخواجه محمد عبد الرحمن القادري وبين فيه فضائل ومعارف الشيخ على طريقة ممتازة-جزاه الله خير الجزاء- وله طبعة خاصة مزخرفة وملونة التي تجتذب القلوب، وكما قال تعالى: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَتَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾ (سورة البقرة: ١٣٨) أظهره الله تعالى في هذه الآيات بأن اللون أي الصبغة أحسن الشئ أي: دينه تعالى - الإسلام.

وعند ما يتنفس الإنسان أحكام الشريعة على ذاته، ويظهر عليه الآثار الطهارة، وهذا هو الصبغة التي قيل عنه في الآية السابقة، وكما قال تعالى أيضاً: ﴿ سِيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مَنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ (سورة الفتح: ٢٩)،

وفي الحديث الشريف أيضاً بأن آثار السجود يظهر على وجوههم،  
عَنْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
يَقُولُ « إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ،  
فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ » (٨)

(٨) - أخرجه البخاري (٣٥/١) ومسلم (١٢٦/١).

للحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث فوائد منها:

قوله: «أمتي»: أي أمة الإجابة وهم المسلمون، وقد تطلق أمة محمد ويراد  
بها أمة الدعوة وليست مرادة هنا.

قوله: «يدعون»: ينادون أو يسمون.

قوله: «غرا»: جمع أعر أي ذو غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في  
جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا  
النور الكائن في وجوه أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وغرا منصوب  
على المفعولية ليدعون أو على الحال، أي أنهم إذا دعوا على رعوس  
الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة.

قوله: «محجلين»: من التحجيل وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم  
الفرس، وأصله من الحجل وهو الخلخال، والمراد به هنا أيضا النور.

واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة،  
وفيه نظر لأنه ثبت عند المصنف في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك  
الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ

وتصلي، وفي قصة جريج الراهب أيضاً أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام، فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء، وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضاً مرفوعاً قال: «سيما ليست لأحد غيركم» وله من حديث حذيفة نحوه. و«سيما»: أي علامة.

وقد اعترض بعضهم على الحليني بحديث «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» وهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لضعفه، ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة. قوله: «من آثار الوضوء»: بضم الواو، ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد.

قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»: أي فليطل الغرة والتحجيل، واقتصر على إحداهما لدلالاتها على الأخرى نحو؟ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ؟ [النحل: ٨١] واقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التحجيل وهو مذكر لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء، وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان. على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين، ولفظه «فليطل غرته وتحجيله».

وقال ابن بطال: كنى أبو هريرة بالغرة عن التحجيل لأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله، وفيما قال نظر لأنه يستلزم قلب اللغة، وما نفاه ممنوع لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلاً.

ونقل الرافعي عن بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل. ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث، لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم وفي آخره: قال نعيم لا أدري قوله من استطاع... الخ من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من قول أبي هريرة، ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم.

واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل فقليل: إلى المنكب والركبة، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا.

وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبه، وأبو عبيد بإسناد حسن، وقيل المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق، وقيل إلى فوق ذلك.

وقال ابن بطل وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من زاد على هذا فقد أساء وظلم» وكلامهم معترض من وجوه، ورواية مسلم صريحة في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال. وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر، وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية.

وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمدامومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدري بمعنى ما روى، كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع - صلى الله عليه وسلم - وفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء، لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب، فكيف الظن

والله أسأل بجاه خواجه خواجغان محمد عبد الرحمن القادري  
جهوهروي أن يرزق الثبات على الإسلام والخاتمة على الإيمان  
(أمين).

بجاه سيد المرسلين

وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين.

٣-٤-٢٠١٣م

---

بالواجب؟ وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره،  
وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد  
أو لمن فيه. والله أعلم.

انظر فتح الباري (١/٢٣٥ - ٢٣٧).

نام کتاب \_\_\_\_\_ مجموعہ صلوات الرسول  
مؤلف \_\_\_\_\_ غوث زمان حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوہروی رحمۃ اللہ علیہ  
مترجم \_\_\_\_\_ شیخ الحدیث مولانا محمد اشرف سیالوی مدظلہ  
پروف ریڈنگ \_\_\_\_\_ ممتاز احمد سدیدی  
طبع \_\_\_\_\_ چہارم ( ۱۳۱۶ھ / ۱۹۹۵ء )

باہتمام

(۱) حضرت سید محمد طاہر شاہ صاحب مدظلہ العالی سجادہ نشین دہلی عالیہ قادریہ  
سرکھوت شریف ہزارہ  
(۲) الحاج صاحبزادہ پیر سید صابر شاہ صاحب مدظلہ العالی سابق وزیر اعلیٰ سرحد

## فہرست مجموعہ صلوات الرسول

- حمد و ثناء..... بقلم حضرت علامہ عصمت اللہ سرکیوٹی... ص ۷
- فضائل درود و سلام..... بقلم شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی... ص ۱۳
- تذکرہ حضرت غوث زمان چھو ہروی..... بقلم شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی... ص ۵۵
- مختصر حالات و کمالات  
حضرت خواجہ عبدالرحمن چھو ہروی  
مقدمہ مجموعہ صلوات الرسول
- ۵۹ ص بقلم علامہ سید عصمت اللہ سرکیوٹی.....
- » ص بقلم علامہ سید عصمت اللہ سرکیوٹی.....
- ۷۵ ص بقلم علامہ سید عصمت اللہ سرکیوٹی.....
- فضائل درود شریف..... بقلم علامہ سید عصمت اللہ سرکیوٹی... ص ۸۷
- حالات شیخ المشائخ حضرت علامہ سید احمد قادری سرکیوٹی (عربی / اردو)..... ص ۸۷
- شجرہ عالیہ قادریہ..... ص ۹۳
- الجزء الاول (پہلا پارہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و ظہور کے بارے میں..... ص ۱۰۳
- الجزء الثانی (دوسرا پارہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بارے میں..... ص ۱۸۷
- الجزء الثالث (تیسرا پارہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اور اعضاء کے بارے میں..... ص ۲۷۱
- الجزء الرابع (چوتھا پارہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں..... ص ۳۳۵
- الجزء الخامس (پانچواں پارہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کے بارے میں... ص ۴۳۹
- الجزء السادس (چھٹا پارہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کے بارے میں... ص ۵۲۳



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## حمد و ثناء

سَبِّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ترجمہ: زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب اللہ سبحانہ کی پاکی بیان کرتی ہے وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ”وَلَنْ يَّخْفِيَ عَلَآ اَيْسِبِحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ“ ترجمہ: جاندار وغیر جاندار موجودات سب کے سب اللہ کی پاکی حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مگر تم ان کے طریقہ عبادت و محبت کو نہیں سمجھتے ہو۔ وَكَوٰنَ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَوْ قَلَمٍ وَّالْبَحْرِ يَمْدًا مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةً اَوْ ثَمَانِيَةً اَوْ كَلِمَاتٍ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ۔ ترجمہ: اگر زمین کے تمام درخت قلم ہوں اور موجودہ دریا سیاہی ہوں جن و انس و ملک کاتب ہوں اور یہ سب لوگ خدا کی خوبیاں اور حمد و ثنا لکھیں پھر موجودہ دریا ختم ہو کر دوسرے ایسے سات دریا تحریرِ حسن و جمالِ محبوب کے لیے مدد کریں۔ غرض ان تمام قلموں اور ساری سیاہیوں سے اللہ کی باتیں لکھی جاویں پھر بھی خدا کی حمد و ثنا کی باتیں خلاص نہ ہوں۔ بلاشک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدًا اَوْ الْكَلِمَاتُ مَرَاتٍ لَّنَفَعْنَا الْبَحْرَ قَبْلَ اَنْ تَنْفَعَا كَلِمَاتُ مَرَاتٍ وَّلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدًا ۝ ترجمہ: اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی ملاحظہ صفاقی و کمال ذاتی کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی سیاہی کی جگہ ہو تو بھی دریا سیاہی کا خلاص ہو جائے قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں خلاص ہوں اگرچہ ہم اس کے مثل دوسرا دریا اس کی مدد کے لیے لادیں۔ ذات واجب الوجود اعلیٰ ہوتی محبت معرا عن الصفات وراء الورا عن الادراک ہے۔ قوت عقلیہ انسانیہ ناسوتیہ و قوت عقلیہ ملکیہ نوریہ و قوت عقلیہ جدیہ ناریہ اس کے کہنے کے اوراک سے عاجز ہے لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَكَانَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ قَدْ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَتَمَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ فَهُوَ تَعَالٰی وَاَدَّ جَمِيعَ الْاَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ وَوَسَّاءَ جَمِيعَ الشُّيُوْنِ وَالْاَعْتِبَارَاتِ وَوَسَّاءَ



الظُهُورِ وَالْبُطُونِ وَوَسَاءِ الْبُرُوزِ وَالْكُمُونِ وَوَسَاءِ التَّجَلِّيَاتِ وَالظُّهُورَاتِ وَوَسَاءِ الْمَشَاهِدَاتِ  
وَالْمَكَاشِفَاتِ وَوَسَاءِ كُلِّ مَحْسُوسٍ وَمَعْقُولٍ وَوَسَاءِ كُلِّ مَوْهُومٍ وَمَتَّخِيلٍ فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَوَسَاءِ  
الْوَسَاءِ تُرْوَسَاءِ الْوَسَاءِ ۛ

اے برادر بے نہایت درگمیت

ہر چہ بروے میری بروے مائیت

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَا فِي وَلَكِن نُنظُرُ إِلَى  
الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا.  
ترجمہ: اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقررہ پر کوہ طور پر آئے اور ان کے پروردگار نے ان سے باتیں کیں تو  
موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار تو اپنے کو دکھا کہ میں تیری طرف ایک نظر دیکھوں تو خداوند نے فرمایا تم ہم  
کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے مگر ہاں اس قوی وسخت طور پہاڑ کو دیکھو اس پر اپنے حسن کا پرتو نمودار کرتا ہوں اگر وہ میری  
ملاحظت کو دیکھ کر ہوش و قرار قائم رکھ سکا تو تم بھی میرے حسن و جمال کو عنقریب دیکھ لو گے۔ پھر جب موسیٰ کے رب  
نے پہاڑ کو اپنے جمال کا جلوہ دکھا دیا تو پہاڑ کو اس نے چکنا چور کر دیا پہاڑ کی بیقرا ری پہاڑ کا وجد و جذبہ عشقیہ  
دیکھ کر موٹے بے قرار و مدہوش ہو کر گر پڑے ۛ

جسم خاک از عشق برفلاک شد      کوہ در رقص آمد و چالاک شد  
عشق جان طور آمد عاشقا      طور مست و خرموسی صاعقا  
کوہ طور از نور موسیٰ شد برقص      صوفی کامل شد و دست او ز نقص  
یا آہی چشم بینائے بدہ      در سرم از عشق سودائے بدہ

آتش انگن در دم مانند طور

شعلہ بر خیزد بگرد زنگ دور

نعت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ  
ترجمہ: اے لوگو خدا کا رسول تم نوع انسان میں سے ہو کر تمہارے پاس آیا جس بات سے تم تکلیف میں پڑو وہ

بات ان کو ناگوار ہے۔ تمہارے وارثینی بھلائیوں کے آرزو مند ہیں۔ خاص کر ایمان والوں پر تو نہایت شفیق و مہربان ہیں : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ترجمہ : ہم نے تیری ذات بابرکات کو اے نبی تمام مخلوق کے لیے اپنی محبت و رحمت کا نمونہ بنا کر ان کی طرف بھیجا ہے : اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ترجمہ : ہم نے تیرے قلب سے جُحُبِ ظلمانی نورانی اٹھا کر آپ کو ایسا انشراح صدر عطا کیا کہ جس سے علوم اولین و آخرین نصیب ہوئے جس ثقالت بشری و کثافت عنصری نے آپ کے کمر ہمت کو تـسـبل از نبوت توڑ دیا تھا، بعد از نبوت ان اوزار و جُحُبِ کو اٹھا کر ایسی نورانیت و ہمت عطا فرمائی کہ جملہ انبیاء و ملائکہ پر سبقت لے گئے یعنی معراج نصیب ہوئی اور ہم نے تیرے جمال ظاہری و کمال باطنی کو باوز بلند تمام عالم میں شہرت دے دی : اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَظِيمًا ترجمہ : اے نبی ہم نے بدریغہ زور و توجید کے ایسی قوت روحانی آپ کو عطا کی ہے کہ زری جسمانی طاقت کو اس نے صاف طور پر مفتوح و مغلوب کر دیا ہے حتیٰ کہ اسی جدید توجید کے ذریعہ قبل از نبوت بشری و عنصری جتنی کمزوریاں آپ میں موجود تھیں اللہ نے سب دور کریں۔ اور اللہ نے اپنی نعمت کو یعنی علوم اولین و آخرین اجمالاً و تفصیلاً کامل طور پر آپ کو عطا کئے۔ صراط شریعت کاملہ جو قوت روحانی و قوت جسمانی ہر دو کا منبع و سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا اور صراط مستقیم کے اتباع کے باعث اللہ پاک نے آپ کو زبردست نصرت و غلبہ عطا کیا : اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلٰی النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ترجمہ : اللہ پاک اور اس کے فرشتے انظار محبت کے لیے تحفہ درود بھیجتے ہیں نبی پر اے ایمان والو تم بھی اکمال ایمان و عقراں معاصی و انظار محبت کے لیے تحفہ درود سلام اس نبی پر ضرور بھیجا کرو : مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِّنْ رَّبِّ جَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَّ ترجمہ : لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر اللہ پاک کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے نمونہ ہیں : وَرَاٰكَ لَكَ لَاجِرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ وَاِنَّكَ لَعَلٰی خَلِقٌ عَظِيْمٌ ترجمہ : اے نبی بیشک آپ کے لیے اس تبلیغ رسالت پر ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں اور بلاشک آپ اخلاقِ حسنہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں : وَكَسُوْنَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ترجمہ : اور عنقریب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو ایسی نعمت عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے : وَعَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ترجمہ : اے نبی نزدیک ہے وہ وقت کہ تیرا رب تجھ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا : وَاَنْزَلَ اللّٰهُ

عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَيْكَ مَا لَمْ نَكُنْ نَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝ ترجمہ: اے بنی اللہ پاک نے آپ پر قرآن حکیم اتارا اور آپ کو وہ وہ علوم سکھائے جن کو آپ قبل از نبوت نہیں جانتے تھے اور اللہ کا فضل و کرم آپ پر بہت زیادہ ہے، نَقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۝ ترجمہ: اے بنی سب لوگوں کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے ساتھ رشتہ محبت کو جوڑنا چاہتے ہو تو میری تابعداری کرو پھر اللہ پاک بھی تم کو پیار کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، نَقُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۝ ترجمہ: اے بنی تمام اولاد آدم کو کہہ دو کہ مجھے اللہ پاک نے تم سب کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا ہے، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ترجمہ: جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کی تعریف کو یہ لوگ اپنے پاس توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں نیک باتوں کا انہیں حکم کرتے ہیں اور بُری باتوں سے انہیں روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلالِ خدایت چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں اور اہل کتاب پر ان کی شریعت میں جو بوجھ اور تکالیف شاقہ لادے گئے تھے یہ نبی ان سے اٹھاتے ہیں تو ایسے موصوف بہ اوصافِ حمیدہ پیغمبر پر جو لوگ ایمان لائے اور ان کی حمایت و مدد کی اور جو نورِ ہدایت قرآن ان پر اتارا گیا اس کی اتباع کی ایسے خوش نصیب لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہی خلق و عادتِ محمدی ہے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عالمِ اجسام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفتِ علیہ الہیہ کا مجسم نمونہ ہیں اہل توحید و معرفت کا بھی یہی مذہب ہے کہ ذاتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظہور کنزِ مخفی و بطن بطون کے لیے من حیث العلم تعینِ اول ہیں۔ آپ مرتبہ امکان میں بشر ہیں آپ عبد ہیں۔ آپ امی ہیں آپ مسکین ہیں آپ صاحبِ حصیر و کارہ تحت و سریر ہیں آپ صاحبِ کلام الْفَقْرُ فَخْرِي ہیں آپ دائرہ انبیاء و رسل و ملائکہ مقربین کے مرکز و قطب ہیں آپ صاحبِ معراج ہیں آپ صاحبِ مقامِ محمود ہیں۔ آپ صاحبِ شفاعتِ کبریٰ ہیں آپ صاحبِ کثر ہیں آپ ہی رحمة للعالمین ہیں آپ قرآنِ ناطق ہیں آپ باعثِ ارسالِ رسل ہیں آپ باعثِ انزالِ قرآنِ توریت و زبور و صحف باقی ہیں۔ آپ عرشِ کرسی

بیت المعمور، مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے افضل ہیں آپ کو باعتبار علم کے جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل پر ایسی فضیلت تزیج ہے جیسے بحر محیط کو قطرہ پر آپ صاحب علوم اولین و آخرین ہیں آپ صاحب فقر و مساکین ہیں آپ استاد دنیا و دین ہیں آپ لَوْلَا اَنْ كَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكُ كَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكُ کے مخاطب ہیں آپ صاحب لیلۃ القدر ہیں آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین ہیں آپ کنواری پردہ داروں سے زیادہ ترغیبین ہیں آپ حوران جنان کے محبوب نازمین ہیں آپ وجوب و امکان کے برزخ ہیں آپ ہویت بحت کے صفت اولے ہیں آپ دائرہ امکان کے ہیولے ہیں ۛ

مرجبا لے فیض بخش کائنات      یافت ترکیب از وجود تو حیات  
لے کہ بودی در حریم لامکان      چوں جدا گشتی بجز راز نہاں  
مرجبا لے بلبیل باغ کمن      از گل رعنا بگو با سخن  
غرق بودی در محیط ذات پاک      از نور روشن شد چرا این تیرہ خاک


در زماں ہفت آسماں راطے کنی

مرکب حرص و ہوا را پے کنی

آپ تم نخل مراد ہیں آپ ہی نخل مراد و مقصود کے پھل ہیں آپ معلول اول واجب تعالیٰ کے ہیں آپ علت تامہ ممکنات ہیں آپ حسن احد کے خال احمد ہیں آپ آئینہ جمال ذات کے محمد ہیں۔ آپ مرکز وجوب کے دائرہ اولیٰ ہیں آپ دائرہ امکان کے قطب اعلیٰ ہیں ۛ

آفریدہ حق ترا از نور ذات      تا شناسم ذات ادرا از صفات  
یا صاحب الجمال و یا سید البشر      من و وجهک البینہ لقد نورا القمرا  
لا یمکن الثناء کما کان حقہ      بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخقر!





## فضائلِ درود شریف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی خُصُوْصًا  
عَلٰی اَفْضَلِ رُسُلِهِ وَسَيِّدِ الْاَنْبِیَاءِ وَعَلٰی اِلٰهِ وَاَصْحَابِهِ الْبَرِّ وَالنَّقِيِّ وَالنُّقِيِّ وَالرَّحْمٰنِ  
لَهُمْ بِالْاِحْسَانِ اِلٰی یَوْمِ الْجَزَاءِ - اَمَّا بَعْدُ ! اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ  
یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا ۝

نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بہت بڑی عبادت بھی ہے اور سعادت بھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب کا ذریعہ و وسیلہ ہے تو بارگاہ رسالت میں حضور و شہود کا بھی۔ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت درجات، محو سینات اور حصولِ حسنات کا موجب ہے تو محمد کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے حصولِ دیدار اور جوابی تسلیمات و دعوات کا اور روزِ محشر اللہ تعالیٰ کے سایہ عرش میں راحت و سکون کے حصول کا باعث ہے تو رحمتِ جمہ کے قرب اور نعلِ عاطفت کے حصول کا بھی ہم سطور ذیل میں صلوٰۃ و سلام کی اہمیت۔ اس کے فضائل و فوائد اور ثمرات و برکات اور تہ پڑھنے کی نحوست اور محرومی۔ اس کے پڑھنے کے موزوں و مناسب مقامات نیز غیر موزوں اور نامناسب مقامات اور اس کے صیغوں کے خصوص و عموم اور تعین یا اذن عام کے متعلق مختصراً عرض کریں گے تاکہ اس عظیم عبادت و سعادت کے ولدا و گان کے لیے مزید ترغیب و تحریص کا سامان مہیا ہو تو اہل غفلت و کسالت اور محروموں کے لیے توبہ و انابت کا موجب ہو۔ مَا ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ بِعَزِیْزٍ وَّمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَالِیَّهِ اُنِیْبُ۔

## صلوٰۃ و سلام کی اہمیت و ضرورت اور وجوہِ فضیلت

اول :

صلوٰۃ و سلام کی اہمیت و ضرورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمادی ہے۔ پہلے اپنا عمل اور اپنے تمام

ملائکہ کا عمل انتہائی تاکیدیں انداز میں بیان فرما کر اور اس پر مداومت اور مواظبت بیان فرما کر پھر اہل اسلام و ایمان کو خطاب کر کے فرمایا کہ میرے نبی پر صلوٰۃ بھیجو اور سلام جیسے کہ سلام بھیجنے کا حق ہے تو اس سے اس امر کی اہمیت اور قدر قیمت روز روشن کی طرح نمایاں ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ان کا خالق و مالک اور معبود و مسجود ہے اور نوری اور معصوم ملائکہ جو بلند و بالا مقامات و مناصب اور درجات و مراتب کے مالک اور آسمان آسمان ہیں وہ درود بھیجتے رہتے ہیں تو تم جو ان سے ایمان و یقین کی خیرات لینے والے ہو اور ان کی غلامی کے صدقے دینی اور اخروی نوز و فلاح حاصل کرنے والے ہو تمہارے لیے ان پر درود و سلام بھیجنا انتہائی اہم فریضہ ہے اور لازمی امر ہے۔

دوم :

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی مربی ہیں اور حیات قلب و روح عطا کرنے والے ہیں بلکہ حیات ابد اور اخروی راحتوں اور نعمتوں کے حصول کے وسیلہ و ذریعہ اور شریعتِ مطہرہ میں جہانی حیات اور بدنی تربیت کرنے والے والدین کے ساتھ احسان و مروت سے پیش آنا اور ان کی خدمت کرنا لازم ہے کَمَا قَالَ تَعَالَى وَرَبِّ الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا اور ان کے لیے دعائیں کرنا کَمَا قَالَ تَعَالَى حِكَايَةَ عَن نُّوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَرَبِّ الْوَالِدَاتِ الْآيَةِ وَقَالَ تَعَالَى أَمْرًا قُلْتُ رَبِّ ارْحَمْنَاهُمَا كَمَا دَرَبْتَنِي صَغِيرًا۔ تو اس عظیم حسن و مہربانی کی خدمت اور آپ کے لیے درود و سلام کی صورت میں دعا کرنا لازم و ضروری ہے تاکہ ان کے عظیم احسانات کا کچھ نہ کچھ شکر یہ ادا ہو جائے۔

سوم :

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ جب عوام الناس کے عام قسم کے احسانات پر ان کا شکر ادا کرنا لازم ہے تو سیدالخلق علی الاطلاق کے عظیم ترین اور ان گنت احسانات کا شکر یہ ادا کرنا بطریقِ اولیٰ لازم و ضروری ٹھہرا اور جب عوام الناس کے احسانات کا شکر ادا کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ کی ادائیگی شکر سے محروم ہے تو اس محسنِ خلاق اور محبوب خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا یقیناً حرام نصیب ہوگا اور آپ کے شکر یہ کی بہترین صورتوں میں سے صلوٰۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا بھی ہے لہذا آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیجنا لازمی اور ضروری ہے۔

چہارم :

درود و سلام اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے کیونکہ اس میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل ہے اور خود اس نے توسل کا حکم دیا کَمَا قَالَ "وَابْتَغُوا إِلَيْهِ التَّوَسُّلَةَ" اور کوئی وسیلہ محبوب

کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر اور اس کے ہاں عظیم تر نہیں ہے۔ مطالع المسرات میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ يَا مُوسَى اَتُرِيدُ اَنْ اَكُوْنَ اَقْرَبَ اِلَيْكَ مِنْ كَلَامِكَ اِلَى لِسَانِكَ وَمِنْ وَسْوَسِ قَلْبِكَ اِلَى قَلْبِكَ وَمِنْ مَوْجِحِكَ اِلَى بَدَنِكَ وَمِنْ نُورِ بَصْرِكَ اِلَى عَيْنِكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَبِّ قَالَ فَكَثِرَ الصَّلٰوةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ اے موسیٰ کیا تمہاری خواہش و آرزو ہے کہ میں تجھ سے زیادہ قریب ہوں بنسبت تمہارے کلام کے تمہاری زبان سے اور بنسبت تمہارے قلبی خیالات کے تمہارے قلب سے اور بنسبت تمہاری روح کے تمہارے بدن سے اور بنسبت تمہارے نور نگاہ کے تمہاری نگاہ و بصر سے تو انہوں نے عرض کیا ہاں اے میرے پروردگار تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و صلوٰۃ بھیجا کرو۔

نیز درود و سلام اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر مقبول و سید ہے کہ جس دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھا جائے وہ فوراً اس کی بارگاہ میں قبولیت پاتی ہے ورنہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اور اوپر جا ہی نہیں سکتی چہ جائیکہ شرف قبولیت پائے جیسے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ دُعَاءٍ اَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ حِجَابٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اَبِي مُحَمَّدٍ فَاِذَا فُعِلَ ذَلِكَ اُنْحَرَتِ الْحِجَابُ وَدَخَلَ الدُّعَاءُ وَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ رَجَعَتِ الدُّعَاءُ اَخْرَجَهُ الْاَصْبَهَانِيُّ (خصوصاً نصح کبزی جلد ثانی ص ۱۵) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعا اور آسمان کے درمیان حجاب مائل ہوتا ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود و صلوٰۃ نہ بھیجی جائے اور جب درود بھیجا جائے تو وہ حجاب پھٹ جاتا ہے اور دعا مقام قبولیت میں داخل ہو جاتی ہے ورنہ واپس لوٹ آتی ہے۔

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ الدُّعَاءُ مُوقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَيَّ اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ حِصَالُ كَبْرَى جلد ثانی ص ۱۵۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے بالکل اوپر نہیں چڑھ سکتی۔ جب تک اے دعا مانگنے والے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اور یہی مضمون قاضی اسماعیل نے حضرت سعید بن مسیب سے نقل کیا ہے۔

سوال: تقرب الی اللہ اس کے حق کے ساتھ ہونا چاہیے نہ کہ حق غیر کے ساتھ جبکہ صلوٰۃ و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم



کافی ہے۔ لہذا اس میں مشغولیت سے تقرب الہی کا حصول کیونکر ہو سکتا ہے۔

### جواب اول :

چونکہ صلوٰۃ و سلام کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اسے ایمان پر معلق فرما کر تقاضائے ایمان قرار دے دیا اور صلوٰۃ بھیجنے اور ملائکہ کے صلوٰۃ بھیجنے کا ذکر کر کے اقتداء و اتباع کی ترغیب دی ہے لہذا اس میں مشغولیت اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل و امتثال ہے اور موجب تقرب جیسے کہ ملائکہ کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا حکم باری تعالیٰ کا امتثال تھا اور موجب تقرب اور ابلیس یعین کا اس سے ابا و امتناع موجب حرمان و حصران کذافی مطالع المرآت

### جواب ثانی :

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں چونکہ اللہ تعالیٰ سے رحمت اور لطف و کرم اور سلامتی و عافیت کی طلب دعا ہوتی ہے اور دعائیں عبادت بلکہ روح اور جان عبادت ہے کہما قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الدُّعَاءُ مَعَهُ الْعِبَادَةُ۔ تو اس طرح صلوٰۃ و سلام میں مشغولیت گریا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغولیت ہے لہذا یہ تقرب حق باری تعالیٰ میں مشغولیت کے ذریعے ہی پایا گیا۔

### جواب ثالث :

درود و سلام میں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ذکر وہی ہوتا ہے جس میں اس کے محبوب کا ذکر بھی اس کے ساتھ کیا جائے جیسے کہ ابن عساکر نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي فَلَا اَذْكُرُنِي مَوْضِعٍ حَتَّى تُذَكِّرَ مَعِي۔ خصائص کبریٰ جلد ثانی ص ۱۹۳۔ میں نے تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے لہذا میں کسی بھی مقام میں ذکر نہیں کیا جاؤں گا حتیٰ کہ تم میرے ساتھ ذکر کئے جاؤ گویا تمہارے ذکر کے بغیر اپنا ذکر قبول ہی نہیں کروں گا۔ اور ابن جریر۔ ابن ابی حاتم۔ ابویعلیٰ۔ ابن حبان اور ابوالنعیم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرئیل امین نے دُرِّقَعَا لَكَ ذِكْرُكَ کی تفسیر و توضیح میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِذَا ذُكِرْتَ ذُكِرْتَ مَعِي۔ جب مجھے یاد کیا جائے گا تو تمہیں میرے ساتھ یاد کیا جائیگا یعنی ہم دونوں کا ذکر اکٹھا ہوگا۔ اور ابوالنعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا لَا اَذْكُرُ اِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي خصائص جلد ثانی ص ۱۹۷ اور ۱۹۸۔ میرا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر تمہارا ذکر میرے ساتھ کیا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر قبول ہی اس وقت کرے گا جب محبوب کا ذکر اس کے ساتھ ہوگا۔

تو اس صورت میں بھی درود و سلام کے ساتھ تقرب کا حصول یقینی ہے اور اسے حق غیر کے ساتھ اشتغال قرار دینا غلط ہے۔

### جواب رابع :

نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر پر بھی مشتمل ہے اور اس کے ارسال اور بعثت انبیاء اور بالخصوص سید انبیاء کی بعثت و ارسال کے انعام عظیم اور احسان عظیم کی معرفت پر مشتمل ہے اور اس کے شکر یہ ہے کہ ان کی بدولت رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی اور اس کے اسماء و صفات کی اور اس کی رضامندی کے اسباب کی اور اخروی اجرو و انعامات کی تو اس طرح صلوٰۃ و درود گویا کل ارکان ایمان کو محیط ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود و جود کا اقرار ہے جس سے دعا کی جا رہی ہے اور اس کے جاننے۔ سُننے کا بھی اور اس کی قدرت اور ارادہ و مشیت کا بھی اور کلام و دیگر صفات کا بھی اور ارسال و ارسال اور ان کی تصدیق کا بھی اور ان سے کمال محبت کا بھی اور یہ سبھی اصول ایمان ہیں اور مدار اسلام تو اس طرح صلوٰۃ و سلام افضل ترین عبادت ہے: "كَذَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي جِلْدَاءِ الْأَفْهَامِ؛ لِهَذَا اس کے ساتھ تقرب حق باری تعالیٰ میں اشتغال و مصروفیت کے ذریعے ہی تقرب ہے۔

### جواب خامس :

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا اور آپ کے لیے درود و سلام کا محرک و باعث اور سبب موجب چونکہ آپ کا منصب نبوت و رسالت ہے اور اس جہت سے آپ کا ذکر اور آپ کی محبت اور تعظیم و توقیر اور اکرام و احترام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس کی محبت اور اسی کی تعظیم و تحکیم اور اسی کی عبادت کما قال تعالیٰ: "وَمَنْ يُعْظِمِ شَعْرًا شَرًّا لَللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ" جو شخص اللہ تعالیٰ کے سنائے کی تعظیم و تحکیم کرے تو وہ دلوں کے تقویٰ اور توحید و ایمان میں سے ہے۔ اور اسی حیثیت میں آپ کا بولنا اللہ تعالیٰ کا بولنا ہے "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ" اور آپ کی بیعت اللہ تعالیٰ کی بیعت ہے اور آپ کا ہاتھ گویا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ قَالَ تَعَالَى: "إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ" اور آپ کا ماننا اللہ تعالیٰ کا ماننا۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى: "وَمَا مَيْتٌ إِذْ مَيَّتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ دَعَىٰ" اور آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى: "وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ" اور آپ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و نافرمانی کی طرح موجب ضلالت و گمراہی ہے "وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا" اور آپ کی اتباع اللہ کے ہاں محبوب بننے اور گناہوں کی میل کھیل سے پاک و صاف ہونے کی ضمانت ہے کَمَا قَالَ تَعَالَى: "فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَغَيْرَ"

ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ“ تو اس لحاظ سے بھی صلوٰۃ و سلام کے ساتھ تقرب کا جواز اور اس کا حصول شک و شبہ اور ریب و تردد سے بالاتر ہے۔

پہنچم :

صلوٰۃ و سلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور جب کسی بہنی کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے تو اس کے ساتھ مناسبت اور قلبی ربط و تعلق اور محبت و الفت پیدا ہوتی ہے اور مناسبت کاملہ اور محبت و الفت تامہ حاصل ہونے پر محبوب کے ساتھ روحانی قرب اور جمعیت حالی حاصل ہو جاتی ہے تو اس طرح درود و صلوات اور تسلیمات کی وجہ سے دنیا و آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص اور ان کی معیت خاصہ کا شرف حاصل ہو جائے گا اور یہ معیت اور قرب عظیم سعادت ہے جیسے کہ حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ جو مانگنا ہے تو انہوں نے عرض کیا اَسْتَلُكَ مَرَّافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ میں آپ سے یہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں اپنی رفاقت کا شرف بخشیں تو آپ نے فرمایا اَوْغَيِّرَ ذَلِكَ قَالَ هُوَ ذَاكَ يَا سَأَلُكَ اللهُ اس سے افضل اور بہتر کوئی شے معلوم ہوتی ہے تو وہ مانگ لو تو انہوں نے عرض کیا نہیں میرا مطلوب و مدعا وہی ہے کہ آپ کی رفاقت و معیت جنت میں بھی حاصل ہو جیسے کہ یہاں حاصل ہے سے

تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے

اور درحقیقت یہی مدعا و مطلوب تمام مطالب و مقاصد سے ارفع و اعلیٰ ہے کیونکہ اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے ان انوار و تجلیات سے بھی بہرہ ور اور مشرف ہو جائے گا جن کی اہلیت و صلاحیت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اور براہ راست کوئی ان کا متحمل نہیں ہو سکتا مگر آپ کی معیت و رفاقت کے حصول سے یہ عظیم شرف اور فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی جیسے کہ حضرت سعدی نے ناچیز مٹی کی زبانی جمال یارس امتیازی مقام پر فائز ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے

گلے تو شبنم سے در حمام روز سے	رسید از دست محبوبے بد تم
بد و گفتم کہ مشک کی یا بمبیری	کہ از بوئے دل آویز سے تو متم
بلقفا من گل ناچیسر بودم	دیکھن مدتے با گل نشستم!
جمال ہمیش در من اثر کرد	وگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم

اسی بلند و بالا مقام و مرتبہ کا مشرکہ سناتے ہوئے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ

بِحَيِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَهُمْ عَلَى صَلَاةٍ“ اخرجہ الترمذی وابن حبان عن ابن مسعود وایضاً اخرجہ احمد عنہ درمنثور ج ۵ ص ۲۱۸ اور خالص کبریٰ جلد ثانی ص ۲۵۹۔ بیشک سب لوگوں سے میرے قریب تر قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود و صلوات بھیجنے والا ہوگا۔

اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ کو مجھ پر بکثرت درود و صلوات پڑھا کرو فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَى صَلَاةٍ كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنَزَلَةً“ اخرجہ البیہقی بسند حسن۔ خصائص ص ۲۶۱ ج ۲۔ کیونکہ میری امت کے درود و صلوات مجھ پر ہر جمعہ کو پیش کئے جاتے ہیں تو جو شخص سب سے زیادہ صلوات پڑھنے والا ہوگا وہ از روئے منزلت و مقام سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔

**فائدہ جلیلہ :**

پہلی روایت میں قیامت کے دن قریب تر ہونے کا ذکر ہے اور دوسری مطلق ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں قرب اور رفاقت و معیت کی دلیل ہے اور پہلی روایت میں قرب کی روز قیامت سے تخصیص کی حکمت ظاہر ہے کہ اس دن یہ قرب اور رفاقت و معیت ہر ایک پر ظاہر ہوگی اور کسی کے لیے شک و تردد کی گنجائش نہیں ہوگی جیسے کہ آپ نے فرمایا أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ حالانکہ آپ اب بھی سب کے سردار اور آقا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لیے اپنے آپ کو هَذَا يَوْمِ الدِّينِ“ فرمایا۔ حالانکہ وہ روز اول سے ہر شئی کا مالک ہے۔ الغرض بکثرت صلوات پڑھنے والے کو دنیا و آخرت دونوں میں یہ معیت اور رفاقت اور قرب معنوی اور روحانی حاصل ہونا لازم ہے کیونکہ آپ تمام صفات الہیہ سے متصف ہیں اور ان کا مظہر اتم اور ان صفات و کمال میں سے یہ صفت بھی ہے أَنَا جَلِيلٌ مِّنْ ذَكَرْتَنِي“ جو مجھے یاد کرے میں اس کا ہمیشہ ہوتا ہوں۔

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت کے نکتہ میں بعض عارفین رغوث کبیر شیخ عبدالمکرم حبلی قدس سرہ العزیز کی زبانی اس ربط و تعلق اور حضور و شہود کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ ص ۲۱۲ ج ۲ مدارج النبوت

ذکر کن اوراد و درود بفرست بروے صلی اللہ علیہ وسلم و باش در حال ذکر گویا حاضر است پیش تو در حالت حیات و می بینی تو اور امتا دب با جلال و تعظیم و ہیبت و حیاء۔ بدانکہ وے صلی اللہ علیہ وسلم مے بند وے شنود کلام ترا زیراکہ وے متصف است بصفات اللہ تعالیٰ ویکے از صفات الہی آنست کہ انا جلیس من ذکرنی و پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم نصیب وافر است ازیں صفت زیراکہ عارف و صف او و وصف معروف او است سجاتہ دوی صلی اللہ علیہ وسلم اعرف الناس باللہ تعالیٰ است۔

ترجمہ: رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو اور ان پر درود بھیجو اور حالت ذکر و صلوٰۃ میں یوں سمجھو کہ آپ تمہارے سامنے اپنی حالت حیات میں موجود ہیں اور تم آپ کی زیارت کر رہے ہو یا ادب ہو کر کامل تعظیم و تحکیم اور آپ کی ہیبت و جلالت کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرم و حیا کے ساتھ یقین جانو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارا کلام سن رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کے ساتھ متصف ہیں اور ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ میں اپنا ذکر کرنے والے کا ہمیشہ ہوتا ہوں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت سے وافر حصہ حاصل ہے کیونکہ آپ کی صفت ہے عارف اور وصف باری تعالیٰ آپ کا معروف و معلوم ہے اور آپ سب لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا عرفان رکھتے ہیں۔

علاوہ ازیں بندہ محبوب کے متعلق زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي سَمِعُوهُ بِهِ وَيَبْصُرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ الْحَدِيثُ "کہ میں بندہ محبوب کے کان آنکھ اور ہاتھ پاؤں اور زبان اور دل و دماغ بن جاتا ہوں اور محدثین کرام اور علماء اعلام نے اس کی تشریح و توضیح میں فرمایا کہ گویا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بندے کے اعضاء و جوارح اور قوائے فاعلہ و موثرہ بنا دیتا ہے۔ فتح الباری ص ۲۹۵۔ اللہ تعالیٰ کا نور اس کے کان اور آنکھ اور ہاتھ بن جاتا ہے تو وہ قریب و بعید کو یکساں دیکھتا اور سنتا ہے اور قریب و بعید اور مشکل و آسان میں تصرف پر قادر ہوتا ہے۔ تفسیر کبیرہ ص ۲۶ اور نقلی قرب کے ثمرات سے یہ ہے کہ "صفات بشریہ سالک سے زائل ہو جاتے ہیں اور صفات حق و ہاں پر جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ امداد السک حجابی امداد اللہ ماجر مکتی ص ۳

الغرض جب غلامی کی وجہ سے منصب محبوبیت حاصل کر کے بندے نورانی بھی ہو جائیں اور صفات الہیہ کا مظہر بھی توجو ہستی پاک محبوب گر ہیں اور تمام محبوبین کے آقا و مولیٰ اور سب انبیاء و رسل اور اخوات و اقطاب اور ابدال و اوتاد وغیر ہم کے واسطہ فیض تو ان کا مقام اس سے بھی ارفع و اعلیٰ ہوگا اور کیوں نہ ہو جبکہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "الَّتِيْ اٰوَّلِيْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ" کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور فرمایا "وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ" محبوب کریم علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور فرمایا "رُحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" میری رحمت ہر شئی کو محیط ہے۔ علی قاری شرح شفاء ص ۲۶ ج ۳۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس اہل اسلام کے گھروں میں موجود ہوتی ہے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو تمام اہل ایمان و اسلام کے ساتھ قرب معنوی اور روحانی و نورانی ثنابت ہے اور ہر لمحہ و ہر آن اور ہر زمان و مکان میں ماحصل ہے البعد اور دوری تھی تو بندوں

کی طرف سے اور اس کے زائل کرنے کی موثر ترین اور زود اثر صورت یہی کثرت ذکر اور کثرت درود و سلام ہے شیخ متفق فرماتے ہیں۔

آیامی بینی تو اور اصلی اللہ علیہ وسلم کہ میگوید و دوسے اصدق القائلین است "اَكْثُرْكُمْ عَلَيَّ صَلَوةً اَقْرَبُكُمْ اِلَيَّ" دایاں بہت آنست کہ مصلی تعلق میگوید و خاطر و سے بجمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پس عاشق میگردد دل و سے بر صورت روحانیہ و سے پس قریب میگردد بوسے پس میباشند نزد و سے و یاد و سے الْمَرْغَمَعَنَّ احَبَّ (مدارج ص ۶۲ ج ۲) ترجمہ کیا دیکھتے نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ سب سے سچے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ درود پڑھنے والا سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ درود بھیجنے والے کا قلبی تعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال با کمال سے ہو جاتا ہے پس اس کا دل آپ کی روحانی صورت پر عاشق ہو جاتا ہے اور بدیں و جو آپ کے قریب ہو جاتا ہے پس آپ کے نزدیک ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ (جیسے کہ حدیث شریف میں ہے) ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔

وصیت میکنم ترا اے برادر بدوام ملاحظہ صورت و معنی او اگرچہ باشی تو متکلف و متحضر پس نزدیک است کہ الفت گیر روح تو بوسے پس حاضر آید ترا و سے صلی اللہ علیہ وسلم عیاناً و یابی اور او حدیث کنی با و سے و جواب و ہد ترا و چوں حدیث گوئی با و و خطاب کند ترا فائز مشوی بدرجہ صحابہ عظام و لاحق مشوی بایشان ان شاء اللہ تعالیٰ (مدارج ص ۶۲ ج ۲) ترجمہ: اے بھائی میں تجھے وصیت کرتا ہوں ہمیشہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و معنی کے ملحوظ خاطر رکھنے کی اگرچہ تو اس ملاحظہ و استحضار میں کلفت و شدت سے ہی دوچار کیوں نہ ہو کیونکہ عنقریب تیری روح آپ کے ساتھ انس اور الفت حاصل کرے گی تو آپ بلا حجاب اور آشکارا طور پر تیرے سامنے حاضر و موجود ہوں گے اور تو آپ کو محسوس کرے گا اور چشم سر سے دیکھے گا اور آپ سے بات کرے گا اور آپ تجھے جواب مرحمت فرمادیں گے اور جب تو آپ سے بات کرے گا اور آپ تجھ سے خطاب فرمائیں گے تو معنوی طور پر تو صحابہ عظام کے درجہ و مرتبہ پر فائز ہو جائے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ لاحق ہو جائے گا۔

شیخ ابو عبد اللہ ساحلی بغیۃ السالک میں فرماتے ہیں اور علامہ محمد مہدی قاسمی مطالع المرآت ۳ پر نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلوات کے عظیم و جلیل ثمرات و فوائد سے یہ فائدہ و ثمرہ بھی ہے۔ اِنْطَبَاغٌ صُوْرَتِهِ الْكَرِيْمَةِ فِي النَّفْسِ اِنْطَبَاغًا كَامِلًا مُتَّصِلًا مُتَّصِلًا وَ ذَلِكْ بِالْمَدَامَةِ عَلَيَّ الصَّلَاةِ عَلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاخْلَاصِ الْقَصْدِ وَ تَحْصِيْلِ الشُّرُوْطِ وَ الْاَدَابِ وَ تَدْبِيْرِ الْمَعَانِي حَتَّى يَتِمَّ كَنْ

حُبُّهُ مِنَ الْبَاطِنِ تَمَكُّنًا خَالِصًا صَادِقًا يَصِلُ بَيْنَ نَفْسِ الدَّاكِرِ وَنَفْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَيُولَفُ بَيْنَهُمَا فِي مَحَلِّ الْقُرْبِ وَالصَّفَا تَالِيْفًا بِحَيْثُ تَمَكُّنُ حُبُّهُ مِنَ النَّفْسِ فَالِدَرُّ مَعَ مَنْ  
أَحَبَّ وَيَجِبُ الْإِتْبَاعُ لِلْمَحْبُوبِ وَالْإِتْبَاعُ يُؤَدِّنُ بِالْوَصَالِ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى " مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ  
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا "   
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَئِكَ يَتَلَفُفُونَ " فَكَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا يَتَلَفُفُ وَمَا تَنَاقَرَتْ مِنْهَا اخْتَلَفَ .

ترجمہ: کہ آپ کی صورت کریمہ درود و صلوات پڑھنے والے کے نفس میں نقش کامل و دائم کی طرح منقش ہو جاتی ہے  
اور اس نعمت عظیمہ کا حصول درود و صلوات پر خلوص نیت کے ساتھ مداومت اور شرائط و آداب کے ملحوظ رکھنے اور معانی میں  
تدبر و تفکر کی بدولت ہوتا ہے جتنی کہ آپ کی محبت اس بندے کے نفس و قلب میں پوری طرح جاگزیں ہو جاتی ہے دراصل ایک  
صاحب ذکر کے نفس و روح اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس و روح کے درمیان وصل و اتصال اور الفت و مناسبت  
پیدا ہو جاتی ہے مقام قرب و اتصال اور صفاء و اخلاص میں تو جب محبت دل و جان میں اس طرح ممکن ہو جائے تو محبوب  
سے محبت حاصل ہو جاتی ہے اور محبت محبوب کی اتباع کی موجب بنتی ہے اور اتباع محبوب وصال محبوب والے  
مقصد سے بہرہ ور ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی  
اطاعت کرے تو وہ ان کی محبت میں ہو گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین  
اور وہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے، ارجس الگ الگ جماعتوں اور گروہوں میں منقسم ہیں  
جن میں باہم تعارف ہو گیا ان میں الفت اور موافقت پیدا ہو جاتی ہے اور جن میں اجنبیت قائم رہتی ہے ان میں باہم  
اختلاف رہتا ہے۔

اقول۔ یہی مقام فنا فی الرسول اور بقا بالرسول کا ہے جس طرح ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ سے فنا فی اللہ اور بقا باللہ  
کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اسی طرح ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فنا فی الرسول اور بقا بالرسول کا مقام حاصل ہو گا بلکہ  
درود و صلوات چونکہ دونوں ذکروں پر مشتمل ہے تو گویا یہ ان دونوں مقامات کی تکمیل کا سبب موجب اور ان عظیم ثمرات و فوائد کے  
صول کا باعث ہے۔ لہذا یہ استثنائی اہم عبادت ہے۔

ششم:

نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلوات جب اللہ تعالیٰ بھی بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی تو بندوں کے  
درود و سلام کی آپ کو ضرورت نہیں ہو سکتی نیز ہماری صلوات کا مطلب طلب رحمت ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام

جہانوں کے لیے سزا پر رحمت بنایا ہے تو اس وجہ سے بھی ہماری صلوات کے آپ محتاج نہیں ہیں تو پھر تمام اہل ایمان کو درود و سلام کا پابند کرنے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ وہ اس کے ثمرات و برکات سے مستفیض و مستفید ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندوں پر یہ انوار منکس ہوں اور وہ خود منزہ و مقدس ہو جائیں تو اسی طرح یہاں بھی مقصود حقیقی یہی ہے کہ صلوات و سلام کی بدولت وہ رحمت و عنایت اور سلامتی اور عافیت کے حقدار ہو جائیں اور یہ بہت اہم اور عظیم مقصود و مطلوب بھی ہے۔ اور فائدہ و ثمرہ بھی۔

(۱) اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ زَكَاةٌ لَكُمْ أَخْرَجَهُ الْقَاضِي إِسْبَعِيلُ وَالْأَصْبَهَانِيُّ فِي التَّرغِيبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہاری طہارت و پاکیزگی کا موجب ہے۔

(۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ كَقَدْرَةِ لَكُمْ (خصائص کبریٰ ص ۱۲) مجھ پر صلوات بھیجو کیونکہ تمہاری صلوات تمہارے لیے کفارۃ رذوب و آثام ہے (۳) اصبحانی نے ترغیب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ أَجْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْلِهَا وَمَا طَبَعْنَا أَكْثَرَكُمْ عَلَيَّ فِي دَارِ الدُّنْيَا صَلَاةً إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي اللَّهِ وَمَلَأَ رُكْبَتَهُ كِفَايَةً وَلَكِنْ خَصَّ الْمُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ لِيُثَبِّتَهُمْ عَلَيْهِ - (خصائص کبریٰ - تفسیر و منشور ص ۱۵) بیشک تم سب سے زیادہ قیامت کی ہولناکیوں اور ان کے مقامات سے نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دار الدنیا میں مجھ پر تم سب سے زیادہ صلوات و درود بھیجا کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ (کا صلوات بھیجنا ہی) کافی تھا لیکن مومنین کو خصوصی حکم اس لیے دیا تاکہ اس صلوات کی بدولت انہیں عظیم اجر و ثواب عطا کرے۔

(۴) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا إِذَا فَرَّخَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَهْرٍ مَرَّاحٍ فَلْيَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَيَّ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَبُحَّتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ أَخْرَجَهُ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي (خصائص کبریٰ) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جو شخص وضو سے فارغ ہو کر لالہ الا للہ اللہ کی شہادت دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت خاصہ اور رسالت کی شہادت دے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلوات بھیجے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دئے جائیں گے۔

(۵) امام احمد نے مسند میں حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَأَ ثُكَّتُهُ بِهَا سَبْعِينَ صَلَاةً فَلْيُقَلِّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ



لِيَكْتُرَ (خصائص کبریٰ)

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام ملائکہ اس کے بدلے اس پر ستر درود و صلوٰۃ بھیجیں گے تو بندے کی مرضی تھوڑا درود پڑھے یا زیادہ۔

ف، یہ موقوف روایت حکم مرفوع میں ہے کیونکہ ایسی تقدیرات و تحدیدات اپنے قیاس اور گمان سے ممکن نہیں ہیں بلکہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی منصب ہے۔

(۶) عَنْ سَعْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَادِقًا مِنْ نَفْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَرَفَعَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ۔

سعد بن عمیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر غلوں میں سے ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس پر دس درود بھیجے گا اور اس کے دس درجے بلند کرے گا اور دس نیکیاں اس کے بدلے اس کے لیے ثبت فرمائے گا۔

(۷) أَخْبَرَنَا الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَكُتِبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَفِي عِنْدِهِ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَهُ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ (خصائص) اس روایت میں دس گناہ معاف کئے

جانے کی تصریح ہے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت میں اس کی تصریح ہے جسے عید الزقاق نے ذکر کیا ہے۔ اور ابن ابی شیبہ۔ احمد۔ عبد بن حمید اور ترمذی نے بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت نقل کی ہے جس میں صحابہ کرام کی طرف سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم آپ کے چہرہ نور میں بڑی فرحت و شادمانی کے اثرات دیکھ رہے ہیں (اس کی وجہ کیا ہے؟) تو آپ نے فرمایا میرے پاس رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا ہے اور اس نے کہا ہے۔ جس امتی نے تم پر ایک مرتبہ درود و صلوٰۃ بھیجی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا اور دس گناہ معاف فرمائے گا اور دس درجے بلند فرمائے گا اور اس پر دس درود بھیجے گا۔ (در منثور ص ۲۱۹ ج ۵)

قائدہ جلیلیہ :

جس بد بخت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک عیب کی نسبت کی تھی اور آپ کو مجنون کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے دس عیب بیان کئے کما قال تعالیٰ وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا لِحَبْلٍ رَافٍ (الی) بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ سَنَسِيحُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔  
تو جب اس بارگاہ والا جاہ میں اسامت دے ادبی کا بدلہ دس گناہ سے جبکہ عام قاعدہ کے مطابق دَمْنٌ جَاءَ بِالسَّبِيحَةِ

فَلَا يَجْزِي إِلَّا مِثْلَهَا بِرَأْيِ كِي جَزَاءِ اس كِي مَانْدِهے تولا محالہ اس محبوب كے ليے كلمہ خیر اور ادب و نیاز اور خلوص و وفا پر مشتمل كلمات كی جَزَاءِ بھی عام قاعدہ ”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا“ یعنی ایک كے بدلے دس سے زائد ہوگی جیسے كہ روایاتِ عدیدہ كی رو سے ستر مرتبہ درودِ مخلوۃ ستر مرتبوں دس نیكیوں كے حصول اور دل درجات كی بندی اور دس گنا ہوں كی معافی سے واضح ہے گویا سو گنا اجرا اور نیكی حاصل ہوگی۔ وَاللَّهُ بِضَاعِفٍ لِمَنْ يَشَاءُ

الغرض درودِ سلام كے لزوم و وجوب كا بنیادی مقصد نبی رحمت كے طفیل ان كے غلاموں كو ان رحمتوں اور خیرات و بركات سے نوازنا ہے اور یہ امر صلوٰۃ و سلام كے اہم اور افضل ترین مقاصد سے ہونے كا روشن برہان ہے۔

ہفتم :

درود و سلام میں چونکہ اللہ تعالیٰ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم كے شایان شان رحمت بھینے كی دعا ہے اور آپ كے ليے گویا سفارش ہے اور ہر نیكی اور خیر خواہی كا بدلہ اس كی مانند ہوتا ہے ”كُلُّ جَزَاءٍ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ“ تو اس كا لازمی ثمرہ و نتیجہ اور فائدہ یہ ہوگا كہ اس بندے كو محبوبِ کریم علیہ الصلوٰۃ و التسليم كی شفاعت نصیب ہوگی کیونکہ آپ سے بڑھ كر بچاں اور کریم كوئی نہیں تولا محالہ آپ كی طرف سے عظیم شفاعت اور کمال شفقت و عنایت نصیب عید ہوگی اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں كو یہ مزوہ خود سنایا ہے۔

(۱۱) أَخْبَرَ الطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَيَمَسِّي عَشْرًا أَدْرَكَ كِتَابَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے كہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح كے وقت مجھ پر دس مرتبہ درود پڑھے اور شام كے وقت دس مرتبہ تو قیامت كے دن میری شفاعت اس كو حاصل ہوگی اور اس كا احاطہ كئے ہوئے ہوگی۔

(۱۲) أَخْبَرَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ عَنِ النَّسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَكَأَنَّ الْجُمُعَةَ فَنَنْ فَعَلْ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے كہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جمعہ كے دن اور اس كی رات بكثرت درود بھیجا كرا اور جو شخص بكثرت درود و صلوٰۃ بھیجے گا تو میں اس كے ليے قیامت كے دن گواہ ہوں گا اور شفاعت كروں گا۔

(۱۳) طبرانی نے عبد الرحمن بن عمرہ نے نبی اكرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل كیا ہے كہ آپ نے خواب میں دیکھا ان رجلاً مِنْ أُمَّتِي يَرُدُّ عَلَيَّ الصِّرَاطَ كَمَا تَرُدُّ السَّعْفَةَ فَبَجَّاءَتْهُ صَلَوَاتُهُ عَلَيَّ فَسَكَنْتُ رَأْسِي عَلَيْهِ. كہ میری

امت سے ایک شخص پل صراط پر کھڑا لرز رہا ہے جیسے کھجور کی شاخ لرزتی ہے تو اس نے جو سلوۃ مجھ پر بھیجی تھی وہ اس کے پاس پہنچ گئی تو اس کا لرزہ ختم ہو گیا اور اسے سکون و قرار نصیب ہو گیا۔

(۴) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قریب عرش کے ساتھ کشادہ مقام پر کھڑے ہوں گے اور سبز حلقہ اور لپوشاک زیب تن کئے ہوں گے۔ ان کی بند زین کھجور کی مانند بلند و بالا قامت ہوگی ان کی اولاد سے جو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اسے بھی دیکھتے ہوں گے اسی دوران ان کی نظر اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اُمتی پر پڑے گی جسے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو آپ کو پکار کر کہیں گے اے احمد اے احمد آپ کہیں گے لیک اے ابوالبشر تو وہ کہیں گے۔ یہ آپ کا اُمتی ہے جس کو دوزخ میں پھینکتے کے لیے لے جایا جا رہا ہے آپ فرماتے ہیں۔

فَأَشَدُّ الْمَيْزِرَ وَأَهْرَمُ فِي أَشْرِ الْمَلَائِكَةِ وَأَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قِفُوا فَيَقُولُونَ نَحْنُ الْغَلَظُ الشَّدَادُ الَّذِينَ لَا نَعِصِي اللَّهَ مَا أَمَرَنَا وَنَفَعَلُ مَا نُوْمَرُ۔ میں اپنی چادر مضبوطی سے باندھوں گا اور ملائکہ کے پیچھے دوزخنگا اور کہوں گا اے میرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ملائکہ ٹھہرا جاؤ، تو وہ کہیں ہم وہ سخت طبع اور قوی و توانا ہیں جو امر الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور جو حکم ہوتا ہے پورا کرتے ہیں۔

جب آپ ان سے مایوس ہوں گے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنی ڈاڑھی مبارک پر رکھیں گے اور چہرہ انور عرش اعظم کی طرف کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے مَا رَبِّ قَدَّ وَعَدَّ تَنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي فِي أُمَّتِي اے میرے رب تو نے میرے ساتھ پختہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ مجھے امت کے معاملہ میں پریشان اور شرمندہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرمائے گا "أَطِيعُوا مُحَمَّدًا وَقُرْبَانَ هَذَا الْعَبْدَ إِلَى التَّقَامِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ" اس بندے کو سابقہ قیامگاہ کی طرف لوٹا دو۔ فَأَخْرِجْ مِنْ حَجَزِي بِلِطَاقَةٍ بَيْضَاءَ كَالْأَنْبَلَةِ فَالْقِيَمَانِ كَفَّةِ الْمِيزَانِ الْيَمْنِيِّ وَأَنَا أَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ فَتَرْجِعُ الْحَسَنَاتِ عَلَى السَّيِّئَاتِ فَيُنَادِي سَعْدًا جَدًّا وَثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ۔ تو میں اپنے کمر بند سے انگلی کے پرے کی مانند ایک سفید کاغذ نکالوں گا اور اسے میزان کے دائیں پلڑے میں بسم اللہ پڑھ کر رکھ دوں گا تو اس کی نیکیاں برائیوں پر بھاری ہو جائیں گی تو نداد دی جائے گی یہ بندہ نیک نجت ہو گیا اور اس کی محنت بار آور ہو گئی اور اس کا پلڑا نیکیوں والا وزنی ہو گیا ہے لہذا اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔

تو وہ بندہ کے گامے اللہ کے رسولؐ میں اللہ تعالیٰ کے ماں مکرم و معظم ترین اس بہتی سے ایک سوال کر لوں تب وہ کہے گا یٰ اَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ مَا اَحْسَنَ وَجْهَكَ وَاَحْسَنَ خُلُقَكَ مَنْ اَنْتَ فَقَدْ اَقْلَتْنِيْ عَنِّيْ وَرَحِمْتِ عِبْرَتِيْ۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے اور اخلاق کتنے حسین ہیں آپ کون ہیں؟ آپ نے میری لغزشوں سے درگزر کرائی ہے اور میرے بہتے آنسوؤں پر ترس کھایا ہے۔ تو آپ فرمائیں گے۔ اَنَا يَا بَنِيَّ مُحَمَّدٌ وَهَذِهِ صَلَوَاتُكَ الَّتِي كُنْتَ تَصَلِّي عَلَيَّ وَافْتِكَ اَحْوَجَ مَا تَكُونُ اِلَيْهَا \_\_\_\_\_ نِصَالُص ۲۶۱

میں تیرا بیٹا محمد ہوں اور سفید نورانی کاغذ کا پرزہ تیری صلوات تھی جو مجھ پر پڑھتا تھا اس نے تجھے پایا اور تیرے ساتھ وفا کی جگہ تو اس کی امداد و اعانت کی طرف بہت محتاج تھا۔

(۵) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مومن کو اذان دیتے سنو تو وہ کلمات دہراؤ جو وہ کتاب ہے۔ تَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا۔ پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا تَصَلُّوا اللَّهُ إِلَى الْوَسِيلَةِ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَارْتَجُوا أَن أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ إِلَى الْوَسِيلَةِ حَكَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ۔ (رواہ مسلم مشکوٰۃ باب الاذان)

پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت میں ایک منزل و مقام ہے جو بندگان خداوند تعالیٰ میں سے صرف ایک بندہ کے شایان شان ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں ہی وہ عبد خاص ہوں گا تو جو شخص میرے لیے وسیلہ والے مقام کا سوال کرے گا تو اس کے حق میں مجھ پر شفاعت لازم ہوگی۔

قائد کا: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام وسیلہ پر فائز ہونے کو بصورت رجاہ اور امید ظاہر فرمایا ہے اور یہ محض بارگاہ خداوندی میں ادب و نیاز اور تواضع کا اظہار ہے اور درحقیقت جزم اور یقین کے ساتھ اس کے حصول کا بیان ہے۔ چہر جائے حبیب در حضرت مجیب ہرگز نجیب پذیرد۔ اشعہ اللمعات جلد اول ص ۳۲۶۔ کیونکہ حبیب مکرم کی بارگاہ مجیب الدعوات جل و علیٰ میں رجاہ و امید ہرگز ناتمام اور تشنہ تکمیل نہیں رہ سکتی۔ اقول۔ اور اس جزم و یقین کی وجہ سے حدیث ہابر رضی اللہ عنہ میں اس مقام کے حصول کو وعدہ سے تعبیر کیا اور فرمایا وَابْعَثَهُ مُقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَلْتَهُ اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے انہیں وعدہ دیا ہے اور باری تعالیٰ کے وعدہ کا خلاف محال ہے۔

الغرض جب وعدہ ہو چکا اور اس کا خلاف بھی محال ہے تو پھر اُمت کو اس کے متعلق دعا کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرنے کا حکم دینا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آپ کی طرف سے اظہارِ عبدیت ہو جائے اور اُمت اس

دُعا اور سوال کی بدولت اور تیر خواہی و اخلاص کی بدولت اس مقام وسیلہ اور مقام محمود کے برکات اور فیوضات سے مشرف ہو جائے اور اگرچہ ہر امتی آپ کی شفاعت سے بہرہ ور ہوگا مگر ایسے مخلصین خصوصی شفاعت کے حقدار ہونگے اور اپنے لیے خصوصی استحقاق اور اہلیت ثابت کر لیں گے۔ اور اسی سے ہمارا مدعا و مقصود روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ جب آپ خود مجھ رحمت ہیں اور سب عالمین کو آپ کی رحمت محیط ہے اور اللہ تعالیٰ اور ملائکہ آپ پر صلوات بھیجتے رہتے ہوں اور بھیجتے رہیں گے تو پھر اُمت کو اس کا حکم اور اس کی مختلف اسالیب اور عناوین سے زغیب صرف اسی لیے ہے کہ وہ ان صلوات کے ثمرات اور فوائد اور ان کے لوازم برکات سے مستفید ہوں اور اس خلوص و تیر خواہی کے عوض شفاعت کے حق دار بن جائیں۔ یہ پوستانہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

### ہشتم :

اللہ تعالیٰ نے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةِ آخِيهِ - (مشکوٰۃ شریف) اللہ تعالیٰ بندے کی امداد و اعانت میں رہے گا جب تک بندہ اپنے بھائی کی امداد و اعانت اور اس کے معاملات سدھارنے میں مصروف رہے گا۔ جب عام بندے کے ساتھ ہمدردی اور تیر خواہی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے معاملات کا کفیل و ضامن بن جائے اور اپنی قدرتِ قاہرہ سے اس کی امداد و اعانت کرے تو اس کا کوئی مدعا و مقصود اور غرض و مطلب تشہہ تکمیل نہیں رہ سکتا تو اس پس منظر میں اس بندے کو اپنے معاملات اور مقاصد میں ناکامی اور نامرادی کیونکر ہو سکتی ہے جو اپنے تمام امور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و صلوات اور سلام نیاز کو ترجیح دے اور اپنے تمام اوقات عزیز کو اس محبوب مکرم اور محمود خلایق اور محمود الہی کی تیر خواہی اور آپ کے لیے طلبِ رحمت اور دعائے رفعت میں صرف کر دے اور اسی حقیقت کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کرتے ہوئے فرمایا جیسے کہ

(۱) قاضی اسماعیل نے فضل الصلوٰۃ میں یعقوب بن زید بن طلحہ تمیمی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس پر دس درود بھیجے گا تو ایک صحابی نے اٹھ کر عرض کیا يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ نِصْفَ دُعَائِي لَكَ قَالَ اِنْ شِئْتَ قَالَ اَلَا اجْعَلْ نِصْفِي دُعَائِي لَكَ قَالَ اِنْ شِئْتَ قَالَ اجْعَلْ دُعَائِي لَكَ كُلَّهُ قَالَ اِذَا يَكْفِيكَ اللهُ هَمَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ \_\_\_\_\_ خصائص کبریٰ ص ۲۵۹ ج ۲ درمنثور ص ۲۱۸ ج ۵

بروایت عبد الرزاق۔ یا رسول اللہ کیا میں اپنی ذات کے لیے مختص اوقات دُعا میں سے نصف وقت آپ (پر صلوات)

کے لیے نہ مختص کر دوں آپ نے فرمایا اگر چاہے تو اس طرح کرے۔ تو اس نے عرض کیا کہ دو تہائی وقت دعا کے اوقات سے آپ کے لیے مختص کر دوں؟ آپ نے فرمایا تیری مرضی اگر اس سے زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا کیا میں اپنے تمام اوقات دعا آپ کی صلوات کے لیے مختص نہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا تب تو اللہ تعالیٰ تیری دنیاوی اور اخروی تمام مہمات میں کفایت فرمائے گا۔

(۲) ترمذی اور حاکم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر بکثرت درود پڑھتا ہوں تو کتنا وقت آپ پر صلوات بھیجنے میں صرف کروں آپ نے فرمایا جتنا قدر تو چاہے میں نے عرض کیا چوتھائی حصہ اوقات اور دو وظائف سے؟ آپ نے فرمایا جتنا قدر تو مناسب سمجھے لیکن زیادہ کرنے تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا وقت اس میں صرف کروں تو آپ نے فرمایا جتنا قدر تیری مرضی ہو اگر اس سے زیادہ وقت درود و صلوات میں صرف کرے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی وقت تو آپ نے فرمایا تیری مرضی مگر زیادہ کرے تو بہتر ہے تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا أَجْعَلُ لَكَ صَلَواتِي كُلَّهَا قَالَ إِذَا تَكْفَيْ هَمَّكَ وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ. خصائص ص ۲۵۹ ج ۲۔ میں اپنے تمام اوقات دعا اور اور دو وظائف کی سماعت آپ پر صلوات پڑھنے میں صرف کروں گا تو آپ نے فرمایا تب یہ صلوات تیری ہر مہم اور مشکل میں کفایت کریں گی اور تمہارا ہر گناہ بخش دیا جائے گا۔

(۳) اصہبانی نے حضرت خالد بن طہمان سے روایت نقل کی ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَوةً وَاحِدَةً قُضِيَتْ لَهُ مِائَةٌ حَاجَةٍ. خصائص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اس کی سو حاجات پوری کی جائیں گی۔

(۴) بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن عساکر اور ابن منذر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ أَكْتَرَكُمْ عَلَيَّ صَلَوةً فِي الدُّنْيَا، مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ مِائَةً مَرَّةً قَضَى اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِينَ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ وَثَلَاثِينَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا ثُمَّ يُوَكَّلُ اللَّهُ بِذَلِكَ مَدْكَ يُدْخِلُهُ فِي قَبْرِي كَمَا يُدْخِلُ عَلَيَّ الْهَدَايَا يُبْرِئُنِي مِنْ صَلَاتِي عَلَيَّ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَى عَشْرَةٍ فَأَثَبْتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ. (درمنثور ص ۲۱۹) ترجمہ: بیشک تم میں سے میرے قریب تر قیامت کے دن ہر مقام میں وہی شخص ہو گا جو دنیا میں مجھ پر بکثرت درود و صلوات بھیجتا رہا ہو گا جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن اور اس کی رات سو مرتبہ درود و صلوات بھیجے گا اللہ تعالیٰ

اس کی سو حاجتیں بر لائے گا ستر خردی حاجات اور تیس دنیوی پھر اللہ رب العزت ان صلوات پر ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو انہیں میری قبر میں مجھ پر پیش کرتا ہے جیسے کہ تم پر ہدیے اور تحفے پیش کئے جاتے ہیں۔ جس نے مجھ پر وہ درود پڑھا ہوتا ہے اس کا نام بتلاتا ہے اور دس پشتوں تک اس کا نسب بھی تو میں اس درود و صلوات کو اور اس کے نام و نسب کی تفصیل کو اپنے ہاں سفید اور نورانی صحیفہ اور کاغذ پر لکھ لیتا ہوں اور محفوظ کر لیتا ہوں۔

نہم :

درود و صلوات بندہ کی طرف سے بہترین ہدیہ اور تحفہ ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے اور ہدیہ و تحفہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے - فَإِذَا أُحْتَبْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنِّ مِمَّا أُودِدُوْهَا جَب تہیں کوئی ہدیہ پیش کیا جائے تو اس سے بہتر تحفہ دو یا اسی کو واپس کر دو یعنی اگر بہتر دینے کی گنجائش نہیں ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت مجم اور روف و رحیم نبی کے متعلق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا و آخرت کے خزانے پر تصرف میں مختار و ماذون محبوب کے متعلق یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ بہتر بدلہ دینے سے قاصر ہوں یا بہتر بدلہ دینے پر قدرت کے باوجود اس سے اقتباب فرماویں تو لامحالہ وہ کریم و بچال اور اُمت کا ہمدرد و غمخوار نبی انہیں اپنی شان کے لائق بہترین تحفہ اور ہدیہ سے نوازے گا۔ جس کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے حق میں شفاعت فرما کر دوزخ کی دہکتی آگ سے بچالیں اور دوزخ کے ملائکہ سے اسے واپس لے لیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسے اپنے ساتھ رکھیں گے اور اپنے نعلِ ماطفت میں جگہ دیں گے جیسے کہ اس مضمون کی روایات ذکر کی جا چکی ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس بندے نے چونکہ حکم خداوند تعالیٰ کی تعمیل میں درود و سلام پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیوی و اخروی حاجات بر لائے، اس پر درود بھیجے، اس کے درجے بلند فرمائے اور گناہ معاف فرمائے جن کی تفصیل نظر نواز ہو چکی اور یہ سب عنایت و کمنازی محبوب کریم علیہ الصلوٰۃ کے صدقہ میں ہوتی ہے تو یہ بھی گویا ان کی طرف سے ہی جو ابی تحفہ اور ہدیہ ٹھہرا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جب بندہ بطور خطاب درود و سلام عرض کرے تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب عطا فرماتے ہیں جیسے کہ ابوداؤد شریف میں حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے "مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَيًّا أَسَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ"۔ جو مسلمان بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو لوٹاتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں (مشکوٰۃ باب الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم) محبِ مخلص اور نیاز کیش غلام کے لیے یہ کتنا بڑا اثر وہ ہے اور عظیم بشارت ہے کہ محبوب خدا، سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زبان اقدس سے جواب مرحمت فرمادیں اور وہ بھی ہر سلام کا اور اس زبان حقیقت ترجمان سے جس سے سرزد ہونے والا ہر لفظ کن کی کنجی اور



تیرا قضا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے پرانے تڑپ کر عرض کرتے ہیں سہ  
یہ سلام مکن رنجہ در جواب آل لب - کہ صد سلام مرا بس یکے جواب از تو  
یا رسول اللہ ہر سلام کے جواب میں ہونٹوں کو جواب میں جنبش کی زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارے سینکڑوں  
سلاموں کے جواب میں ایک مرتبہ ہی آپ کا وعلیک السلام فرما دینا کافی ہے۔

بلکہ ان سوختگانِ محبت کے لیے تو نقطہ پر مشرودہ ہی آپ حیات ہے اور نئی زندگی کا موجب کہ اس بارگاہ والا جاہ  
میں اس کا نام لیا جائے اور اس کا نسب بیان کیا جائے اور اس کے درود و سلام پیش کرنے کا تذکرہ ہی ہو جائے جیسے  
کہ حدیث پاک میں ذکر ہو چکا ہے لَكَ الْبَشَارَةُ فَاخْلَعْ مَا عَلَيْكَ فَقَدْ ذُكِرَتْ قَمَّةٌ عَلٰی مَا فِيكَ مِنْ عَوْجٍ تِيرَے لیے  
بشارت اور مشرودہ جانقرا ہے اپنے اوپر سے ہر گرانی کو اتار چھینک کیونکہ تمام تر کج رویوں اور کوتاہیوں کے باوجود اس  
بارگاہ عرش آستان میں تیرا ذکر کیا گیا ہے سہ

جاں میدہم در آرزوئے قاصداً تر بازگو و مجلس آل نازنین حرفے کہ از ما میرود  
چہ جائیکہ جواب میں سلام بھی مرحمت ہو اور وہ بھی ہر سلام کے جواب میں جو یقیناً مقبول اور موجب فلاح ہے۔  
از بیجا میتوان دانست کہ سلام بر آنحضرت چہ فضیلت دارد و سلام گویندہ بر آنحضرت خصوصاً ببارگاہ گویندہ را چہ شرف  
است، اگر سلام تمام عمر ایک جواب آید سعادت است چہ جائے آنکہ ہر سلام را جواب شنود (اشعۃ اللمعات جلد اول  
ص ۲۴۱ و ۲۴۲)

بس بود جاہ واحترام مرا

(علامہ سحی۔ روح البیان)

یک علیک از تو صد سلام مرا

### فائدہ جلیلہ :

جب بندہ نماز میں دست بستہ قیام کرنا ہے پھر بارگاہ کے نیچے دو تالپشت ہونے کا شروع کی صورت میں عملی  
اظہار کرتا ہے اور پھر تواضع اور انکساری کی انتہا کرتے ہوئے اشرف الاعضاء کو ارفل الاشیاء پر رکھ دیتا ہے تو  
اللہ تعالیٰ اپنے حرمِ ناز میں داخل ہونے کا اسے اذن بخشا ہے اور وہ مستدرک امت پر بٹھاٹے جانے کے بعد  
ہدیہ پیش کرنے لگتا ہے۔ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ۔ اور مناجات و ہکلامی سے اس کی آنکھیں  
ٹھنڈی ہوتی ہیں تو اسے متنبہ کیا جاتا ہے کہ اس مقام بالا اور منصب عالی تک رسائی نبی رحمت کی برکت متابعت اور  
ان کے طفیل حاصل ہوئی ہے تو وہ ادھر متوجہ ہوتا ہے اِذْ الْجَبِيْبُ فِي حَرَمِ الْجَبِيْبِ حَاضِرًا فَاقْبَلُوْا عَلَيْهِ قَائِلِيْنَ السَّلَامِ  
عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ فتح الباری جلد ثانی ص ۲۵۰ عمدۃ القاری ص ۱۱۰ و کذا فی مدارج النبوة جلد اول



ناگاہ کیا دیکھتا ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب جل وعلیٰ کے حریم قدس میں حاضر ہیں تو وہ ادھر متوجہ ہوتے ہیں اور بطور خطاب وبالشفاعہ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عرض کرتے ہیں نیز اہل عرفان کی بیان کی ہوئی اس وجہ خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں پیش کیا ہوا بندوں کا تحفہ بھی اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہٴ اخلاص و نیاز پیش نہ کریں اسی لیے نماز کے درمیانی اور آخری تشہد میں اپنے تجلیات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام اور صلوٰۃ کو ملا دیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جس طرح اللہ تعالیٰ کے حریم ناز تک رسائی کا ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ تک رسائی کا ذریعہ بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دونوں کی بارگاہ دراصل ایک ہی ہے اور دونوں اکٹھے ہوتے ہیں فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ۔

دہم :

علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان ص ۲۲ پر فرمایا کہ نفس انسانی بدنی علائق اور طبعی موانع و عوائق میں ڈوبا رہتا ہے اوصاف ذمیرہ اور اخلاق ردیہ میں غرق رہتا ہے اور فیاض اقدس جل وعلیٰ انتہائی منزہ و مقدس ہے تو نفس انسانی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی مناسبت نہ ہوئی جبکہ فیض رسائی اور حصول فیض کے لیے عادت جاریہ اور قانون قدرت یہی ہے کہ باہم مناسبت و موافقت ہو تو اللہ تعالیٰ سے فیض کا حصول انسانوں کے لیے صرف اسی واسطہ و وسیلہ کے ذریعے ممکن ہوگا جو دوہری صلاحیت و استعداد کا مالک و حامل ہو یعنی تجربہ و نورانیت سے موصوف ہو اور اس میں مادیت اور بشریت بھی ہو جیسے آگ اور ترائیندھن کے درمیان خشک کلڑی اور ٹہڑی اور گوشت کے درمیان غضروف یعنی ہڈیوں کے سرے جو زمی میں گوشت کے مناسب اور شکل میں ہڈی کے موافق ہوتے ہیں وَتِلْكَ الْوَاسِطَةُ حَضْرَةُ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْثُ يُسْتَفِيضُ مِنْ جَهَةِ تَجَرُّدِهِ وَيُفِيضُ مِنْ جَهَةِ تَعَلُّقِهِ اور وہ واسطہ وسیلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے جو اپنے تجربہ و نورانیت کی رو سے اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرتے ہیں اور تعلق یعنی بشریت کی رو سے ہمیں فیض پہنچاتے ہیں فَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ عَقْلًا كَمَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ شَرْعًا أَيْ بِهَذِهِ الْأَيْتَةِ۔ لہذا آپ پر درود و صلوٰۃ بھیجنا از روئے عقل بھی واجب و لازم ہے جیسے کہ اس آیت کریمہ کی رو سے شرعاً واجب و لازم ہے یعنی درود و صلوٰۃ وسیلہ بن جاتا ہے اس ذات مقدسہ کے ساتھ رابطہ و تعلق کا اور وہ وسیلہ ہیں اللہ کے فیض کا تو اس طرح درود و صلوٰۃ اس فیض قدس کے حصول کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے واجب و لازم ٹھہرا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدًا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ۔

## درود و سلام نہ پڑھنے کی مذمت

جتنا قدر درود و سلام پڑھنا اہم اور ضروری ہے اور فضائل و کمالات کا موجب ہے اتنا قدر ہی اس کا نہ پڑھنا محرومی اور بد نصیبی کا موجب ہوگا کیونکہ اتنی کریم و رحیم اور محسن و مہربان ہستی کے لیے صرف زبان ہلاتا بھی گوارا نہ ہو تو اس سے زیادہ حرمان نصیبی اور سیاہ بختی کیا ہو سکتی ہے جبکہ اس میں سراسر اپنی بھلائی اور بہتری ہو اور فلاح و کامرانی اور سرخروئی اور فائز المرامی ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غافل و کاہلی اور ناپاسی اور احسان ناشناسی سے دور رکھنے کے لیے مختلف اسالیب اور طرق سے ڈرایا اور متنبہ فرمایا۔

۱- مستدام احمد اور ترمذی میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **الْبَحِيلُ مَنْ ذَكَرْتُ عَنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ** بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا پس اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔

۲- ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ سَمِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ اَخْطَا طَرِيقَ الْجَنَّةِ** جو مجھ پر درود و صلوٰۃ کو بھول گیا (اور اس کا تارک ہو گیا) تو وہ راہِ جنت سے بھٹک گیا۔

۳- امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بسند حسن نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَا جَلَسَ قَوْمٌ مُّجَلِّسًا لَمْ يَنْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَيَّ نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَدُّدٌ فَاِنْ نَشَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ** نہیں بیٹھی کوئی قوم ایسی مجلس میں کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں مگر ان کا وہاں بیٹھنا سراسر حسرت ہوگا (قیامت کے دن) پھر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو بخش دے۔

۴- امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ وَصَلْوَةِ عَلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا قَامُوا عَنْ اَنْتَنٍ جَيْفَةٍ** نہیں جمع ہوتی کوئی قوم اور پھر منتشر ہوتی بغیر اللہ کے ذکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے مگر (گویا) وہ اٹھتے ہیں اتھائی بدل و دار مردار پر سے یعنی وہ اسلام و ایمان بلکہ انسانیت کے تقاضوں سے

دور رہے اور گدھوں کے ساتھ لاحق ہو گئے۔

۵۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا يَجْلِسُ قَوْمٌ مَّجْلِسًا لَا يَصَلُّونَ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لَمَّا يَرَوْنَ مِنَ الثَّوَابِ - أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَأَبُو بَكْرِ فِي الْغَيْلَةِ نَبَاتٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ - جو قوم ایک جگہ مل بیٹھے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ نہ بھیجے تو یہ امر ان کے لیے قیامت کے دن سراسر حسرت و ارمان کا موجب ہو گا خواہ جنت میں داخل ہو بھی جائیں جبکہ وہ اس صلوٰۃ (اجتماعیہ) کے ثواب کو دیکھیں گے۔

۶۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ رَغِمَ أَنْفُ أَمْرِي ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ - أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس تمہارا ذکر کیا گیا مگر اس نے آپ پر درود نہ بھیجا۔

۷۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَفَىٰ بِهٖ شُحْحًا أَنْ يَذْكُرَنِي قَوْمٌ فَلَا يُصَلُّونَ عَلَيَّ - أَخْرَجَهُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ -

بخیلی کی انتہا کو پہنچنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک قوم میرا ذکر کرے مگر مجھ پر درود و صلوٰۃ نہ بھیجے۔

۸۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک ہی مضمون کی دو روایتیں

نقل کی ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف کی تین سیڑھیوں میں سے ہر ایک پر قدم مبارک رکھے وقت

آمین آمین آمین کہی جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو

جبرئیل نے کہا۔ بد بخت و نامراد ہو وہ شخص جس نے رمضان کو پایا مگر وہ گزر گیا اور اس کی مغفرت کا سامان نہ

ہو سکا میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا بد بخت و نامراد ہو وہ شخص جس نے والدین کو یا ان میں سے ایک کو

پایا مگر انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کیا میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا شقی عبتاً ذُكِرَتْ

عِنْدَهُ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ آمِينَ بد بخت و نامراد ہو وہ شخص جس کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا

اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا تو میں نے کہا آمین۔

(تفسیر درمنثور ۲۱۶ و ۲۱۸ ج ۱۵)

## صلوٰۃ و سلام کا فقہی حکم

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرما کر صلوٰۃ و سلام کا امر فرمایا اور از روئے اصول فقہ اور قواعد شرعیہ امر واجب کے لیے ہوتا ہے اور جمہور علماء اسلام اور ائمہ اسلام نے بھی وجوب کا قول کیا ہے، جیسے کہ علامہ آلوسی نے فرمایا۔ *الْأَمْرُ فِي الْإِيْتَرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِلْوَجُوبِ بَلْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ إِجْمَاعَ الْأَيْمَنَةِ وَالْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ*۔ کہ اکثرین نے اس امر و حکم کو وجوب و فرضیت پر محمول کیا ہے بلکہ بعض نے اس پر ائمہ و علماء کا اجماع ذکر کیا ہے ماسوائے محمد بن جریر طبری کے جو اس کو استحباب پر محمول کرتے ہیں مگر ان کا قول مؤول ہے یا پھر مردود۔

لیکن اس میں پھر اختلاف ہے کہ عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض و واجب ہے کیونکہ مطلق امر تکرار کو نہیں چاہتا اور مامور بہ کی نفس ماہریت فرد واحد کے ضمن میں متحقق ہو جاتی ہے۔ جمہور علماء اُمت بیع امام ابوحنیفہ اور امام مالک اسی کے قائل ہیں اور بعض نے کہا تشہد میں واجب ہے خواہ فرائض و واجبات ہوں یا سنن و نوافل اور بعض نے بکثرت صلوٰۃ و سلام پڑھنے کو واجب کہا بغیر کسی عدد کی تعیین و تخصیص کے اور یہی قاضی ابویکرین بکیر کا مختار ہے اور بعض نے کہا کہ ہر مجلس میں ایک مرتبہ واجب ہے خواہ آپ کا ذکر مبارک بار بار ہوتا ہے اور بعض حضرات نے کہا کہ جب بھی آپ کا ذکر کیا جائے درود و سلام واجب و لازم ہے اور علماء احناف کی ایک جماعت اسی کی قائل ہے جن میں امام طحاوی بھی شامل ہیں جیسے کہ فرمایا *تَجِبُ كُلَّمَا سَمِعَ ذِكْرَكَ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ تَذْكُرَكَ بِنَفْسِهِ* اور علماء مالکیہ میں سے طرطوشی۔ ابن عربی اور فاکھانی وغیرہم اس کے قائل ہیں اور شوافع حضرات میں امام حلیبی۔ استاذ ابو اسحاق اسفرائینی اور شیخ ابو حامد اسفرائینی وغیرہم اسی کے قائل ہیں اور اس قول کی تائید و تقویت کے لیے وہ احادیث مبارکہ کافی ہیں جن میں ذکر حبیب کے بعد درود و سلام ذکر نہ کرنے پر مختلف وعیدات ذکر کی گئی ہیں اور کسی فعل کے ترک پر وعید کا ذکر اس کے وجوب کی علامت ہے۔ کہا ہو مختار اکثر العلماء والتفصیل فی روح المعانی صفحہ ۶۹، جلد ۲۲

اقول وجوب فرض کے معنی میں آتا ہے اور فرض و سنت کے درمیانی مرتبہ پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے یعنی جس کا انکار کفر تو نہ ہو لیکن ترک عمل پر عذاب ترک فرض کی مانند ہو۔ تو ایسی صورت میں عمر بھر میں ایک دفعہ اس کا پڑھا فرض ہوگا مانند کلمہ توحید کے اور تشہد صلوات میں اور مجالس میں ذکر پاک آنے پر واجب ہو گا نہ کہ فرض ہذا واللہ ورسولہ العلم

## افضل الصلوات التسلیات

علماء اسلام کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ سب سے افضل درود کونسا ہے بعض نے نماز میں پڑھے جانے والے درود کو افضل قرار دیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی اور ظاہر ہے کہ آپ نے افضل و اعلیٰ کیفیت ہی اپنے لیے اختیار فرمائی ہوگی۔ اسی لیے نووی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر کوئی حلف اٹھائے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر افضل ترین درود پڑھوں گا تو اس کی قسم صرف اسی درود کے پڑھنے سے پوری ہوگی لیکن دوسرے علماء اسلام نے ان سے اختلاف کیا ہے۔

۱۔ رافعی نے مروزی سے نقل کیا ہے کہ قسم اس درود کے پڑھنے سے پوری ہوگی۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَكَلَّمَا عَظَلَ الْعَاظِلُونَ

اے اللہ صلوات نازل فرما محمد کریم اور آل محمد پر ہر بار کہ اہل ذکر تیرا ذکر کریں اور ہر بار کہ ان سے اہل غفلت غفلت برتیں۔

۲۔ قاضی حسین فرماتے ہیں قسم پوری ہونے کی صورت یہ ہے کہ یہ درود پڑھے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهُ وَمَسْتَحِقُّهُ اے اللہ محمد کریم پر درود بھیج جیسے کہ وہ اس کے لائق اور مستحق ہیں

۳۔ علامہ یاززی نے کہا کہ افضل ترین درود یہ ہے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدَ مَمْلُوءَاتِكَ اے اللہ محمد و آل محمد پر افضل ترین

درود بھیج اپنے (الامداد) معلومات کے مطابق۔

۴۔ علامہ کمال بن الہمام حنفی نے فرمایا کہ درود شریف کے متعلق منقول تمام کیفیات اور صیغے اس درود میں آجاتے ہیں

لہذا یہ سب سے افضل ہے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ اَبَدًا اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَلٰی سَيِّدِنَا عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ تَسْلِيْمًا وَاَزِدْهُ شَرَفًا وَتَكْوِيْمًا وَاَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اے اللہ ہمیشہ اپنا افضل ترین درود

بھیج ہمارے سردار اپنے عبد خاص اور نبی و رسول محمد پر اور آپ کی آل پر اور سلام بھیج اور ان کے شرف و کرامت

میں اضافہ فرما اور قیامت کے دن انھیں اپنے قریب ترین منزل میں جگہ عطا فرما۔

۵۔ صحابہ کرام اور تابعین بالاحسان کی عظیم جماعت سے یہی منقول ہے کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے میں

منصوص کیفیت پر انحصار و توقف نہیں ہے بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت سے نوازا ہو اور وہ ان معانی و مطالب کو فصیح اور صریح عبارات سے ادا کر سکتا ہو جو ان حضور کے کمال شرف اور عظمتِ حرمت پر مشتمل ہوں تو اسے یہ حق حاصل ہے اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جسے عبدالرزاق - عبد بن حمید - ابن ماجہ اور ابن مردویہ نے آپ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلوٰۃ بھیجے تو اچھی سے اچھی صلوٰۃ بھیجو کیونکہ تمہیں کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے وہ آپ پر پیش کی جائے تو عرض کیا گیا کہ آپ ہی ہمیں ایسی عمدہ صلوٰۃ سکھلاؤ تو آپ نے فرمایا اس طرح عرض کیا کرو۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ اَبْعَثْ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغِيْطُهُ بِهِ الْاَوْلَادُ وَالْاٰخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اے اللہ اپنی صلوات اور رحمت و برکات نازل فرما سید المرسلین - امام المتقین اور آخر الزمان نبی محمد پر جو تیرے عید خاص ہیں اور خیر و بھلائی کی طرف رہبر و قائد ہیں اور سرِ بارِ رحمت رسول ہیں۔ اے اللہ ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کی وجہ سے اولین و آخرین ان کے ساتھ رشک کریں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما محمد و آل محمد پر جیسے تو نے صلوٰۃ نازل فرمائی ابراہیم و آل ابراہیم پر بیشک تو ہمیشہ کے لیے سراہا ہوا ہے اور بزرگ و برتر ہے

(روح المعانی ص ۲۲ جلد ۲۲)

۴۔ دارقطنی نے افراد میں اور ابن نجار نے تاریخ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ میں بارگاہ نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں حاضر تھا کہ ایک آدمی حاضر خدمت ہوا، اس نے سلام پیش کیا اور آپ نے اس کا جواب عنایت فرمایا بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئے اور اپنے پہلو میں بٹھایا جب وہ اپنا مدعا پورا کر کے نصرت ہوا تو آپ نے فرمایا، اے ابو بکر یہ وہ شخص ہے کہ جس کا ہر روز تمام روئے زمین والوں کے برابر عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ کیسے اور کیونکر ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی یہ صبح کرتا ہے تو دس مرتبہ تمام مخلوق کے برابر درود بھیجتا ہے میں نے عرض کیا وہ کیسے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کتاب ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ كَمَا يُبْعَثُ لَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ كَمَا أَمَرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ۔ (در منثور ص ۲۱۶ ج ۵)

اے اللہ صلوٰۃ و رحمت کاملہ نازل فرمائی محمد پر مطابق تعداد اپنی مخلوق میں سے صلوٰۃ بھیجتے والوں کے اور

صلوٰۃ نازل فرمائی محمد پر جیسے کہ ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم ان پر درود و صلوٰۃ بھیجیں اور اپنے نبی محمد پر درود و صلوٰۃ بھیج جیسے کہ تو نے ہمیں ان پر صلوٰۃ کا حکم دیا۔

۷۔ ابن عدی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اور ابو داؤد۔ ابن مردویہ اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ امر خوشی و مسرت عطا کرے کہ اسے کامل و اکمل پیمانہ کے ساتھ پوری پوری جزاء دی جائے جبکہ وہ ہم اہل بیت پر درود و صلوٰۃ بھیجے تو چاہیے کہ وہ یوں کہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ **اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ إِبرَاهِيمَ أَنْكَ حَمِيدًا مَجِيدًا.**

حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ کلمات ہیں۔ **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ إِبرَاهِيمَ أَنْكَ حَمِيدًا مَجِيدًا.** درمنثور ص ۲۱۵ ج ۵ اور یہ امر واضح ہے کہ اگر یہ درود افضل ترین نہ ہوتا تو کامل و اکمل پیمانہ کے ساتھ پوری پوری جزاء کا موجب نہ ہوتا۔

۸۔ عبدالرزاق اور عبد بن حمید نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ آپ جب درود و صلوٰۃ پڑھتے تو یوں کہتے۔ **اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى كَمَا أَنْتَ إِبرَاهِيمَ وَمُوسَى.** اے اللہ محمد کریم کی شفاعت کبریٰ قبول فرما اور ان کا درجہ عالیہ بلند فرما۔ اور ان کا مطلوب و مدعا دنیا و آخرت میں عطا فرما جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کو ان کا مطلوب اور مدعا عطا فرمایا۔

۹۔ علامہ آرمی نے فرمایا **رَفِي عِدَّةٍ طُرُقٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَلَّمَنَا اللَّهُ فَكَلَّمَنَا اللَّهُ عَلَيْكَ.** متعدد اسانید سے مختلف صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہے کہ وہ جب عرض کرتے یا رسول اللہ تو ساتھ ہی عرض کرتے **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ.**

اقول نیز تمام محدثین و مفسرین اور فقہاء و اصولیین اپنی تصانیف میں لکھتے ہیں اور دوران تقریر و تکلم ہر مقرر اور متکلم کتابہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی آئے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر خدمت ہوتے وقت السلام علیک یا رسول اللہ عرض کرتے تھے اور تشہد میں منقول و منصوص الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے تو صرف درود ابراہیمی کو افضل ترین صلوٰۃ ماننے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عمد سے لے کر آج تک تمام امت کا ترک افضل پر اجماع لازم آئے گا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف



سے افضل ترین صلوٰۃ کی قوی اور تقریری طور پر مخالفت بھی لازم آئے گی جس کا بطلان واضح ہے۔ لہذا یہ امر تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ سلام کے وہ مخصوص الفاظ اور صلوٰۃ کی وہ مخصوص کیفیت صرف نماز سے متعلق ہے عام نہیں ہے اور روایات سے بھی یہی تخصیص ثابت ہے لہذا اس کی انصیبت نماز تک محدود ہے۔

۱۰۔ ابن خزیمہ حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو سعید عقبہ بن عمرو سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَا فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا۔ لیکن سلام پیش کرنے کا طریقہ تو ہم نے جان لیا تو درود و صلوٰۃ کس طرح بھیجیں جب ہم آپ پر نماز میں صلوٰۃ بھیجیں یہ سوال سن کر آپ خاموش رہے پھر فرمایا جب صلوٰۃ بھیجتے ہیں تو یوں کہو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔ (در منثور ص ۲۱)

علامہ ابن قیم نے جلاء الانعام میں ذکر کیا کہ :- اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا وَالْمَعْنَى اِضَافَةُ كَوَامِلِ اِمَامِ اَحْمَدَ نَقَلَ كَمَا هُوَ اور اس کو ابن خزیمہ اور حاکم نے اپنی اپنی صحیح میں اسی اضافہ کے ساتھ نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کو علی شرط مسلم تسلیم کیا ہے۔ اور اس سند میں محمد بن اسحاق کی وجہ سے جو جرح کی جاتی ہے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا اَنَّ ابْنَ اسْحَاقٍ ثَقَاتٌ لَمْ يُجْرَحْ بِمَا يُجِبُ تَرْكُ الْاِحْتِجَاجِ بِهٖ وَقَدْ وَثَّقَهُ كِبَارُ الْاَبْنَةِ وَاتَّخَذُوْا عَلَيْهِ بِالْحِفْظِ وَالْعَدَالَةِ الَّذِيْنَ هُمَا رُكْنَا الرَّوَايَةِ ۵

ابن اسحاق ثقہ ہے اس پر ایسی جرح نہیں کی گئی جس سے اس کی روایت کے ساتھ استدلال کا ترک لازم ہو جائے جبکہ اکابر ائمہ نے اس کی توثیق کی ہے اور حفظ و عدالت کے ساتھ اس کی ثناء کی ہے جو روایت کے رکن ہیں نیز محمد بن اسحاق کی روایت میں تدلیس کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس روایت میں اس کی طرف سے سماع کی تصریح موجود ہے لہذا یہ اندیشہ اور توہم بھی ختم ہو گیا۔

نیز علامہ موصوف نے ہی دوسرے مقام پر فرمایا "قَدْ صَحَّحَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحَفَاطِ مِنْهُمْ ابْنُ حَزِيْمَةَ وَابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالذَّارِقُطِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ" یعنی صحابی رسول حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے استفسار اور

ابو سعید انصاری بدری صحابی کی روایت میں مذکور اس اضافہ کی "کہ جب ہم نماز میں آپ پر صلوٰۃ بھیجیں تو کس طرح بھیجیں کی توثیق حفاظ حدیث کی جماعت نے فرمائی ہے جن میں ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم، دارقطنی اور بیہقی رحمہم اللہ تعالیٰ شامل ہیں۔ وکنانی فتح الباری المستقلانی ص ۸ ج ۸



علاوہ ازیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا "ہذا السلام علیک قد عرفناہ  
فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ"۔ یہ مامور بہ سلام تو ہم پیش کرنے کا طریقہ جان چکے فرمائیں صلوٰۃ پیش  
کرنے کی کیفیت کیا ہے وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ السَّلَامَ الَّذِي عَلَيْهِ هُوَ قَوْلُهُمْ فِي الصَّلَاةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا  
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَوَجِبَ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ الْمَقْرُودَةَ هِيَ فِي الصَّلَاةِ - جلاء الافہام ص ۱۹۹  
اور یہ امر معلوم و مسلم ہے کہ جو سلام انہیں معلوم تھا وہ یہی نماز میں ان کا۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ  
کناہی تھا لہذا ضروری ٹھہرا کہ اس استفسار پر جو صلوٰۃ کی کیفیت سکھائی گئی اس کا تعلق بھی نماز سے ہی ہو۔

علامہ ابن القیم حنبلی نے ہی جلاء الافہام ص ۲۰۸ پر فرمایا

مزید وضاحت اس دعویٰ کی اس امر سے ہوجاتی ہے کہ اگر اس صلوٰۃ اور سلام سے مراد نماز سے باہر کی کیفیت  
کا بیان ہوتا تو ہر صحابی بوقت سلام ہی عرض کرتا۔۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ " وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُمْ لَمْ  
يَكُونُوا يَتَّقِدُونَ فِي السَّلَامِ عَلَيْكَ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ - اور یہ سبھی کو معلوم ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم  
سلام پیش کرتے وقت اس کیفیت خاصہ کی پابندی نہیں کرتے تھے بلکہ کوئی حاضر خدمت ہوتا تو سلام علیکم عرض کرتا اور  
بعض "السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ" کہتے اور کچھ "السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ" عرض کرتے نیز صحابہ کرام ابتداء  
اسلام سے آپ کو سلام پیش کرتے چلے آ رہے تھے جو اسلام میں ان کو سکھلایا گیا تھا اور بعد ازاں ان کو جو سکھلایا  
گیا وہ نماز کا سلام تھا۔

الغرض یہ حقیقت مہر نیمروز کی طرح روشن ہوگئی کہ یہ طریقہ صلوٰۃ بیہیجے کا نماز سے مخصوص ہے اور صلوٰۃ کو  
علی الاطلاق اس کیفیت مخصوصہ میں مقید ٹھہرانا نص قطعی کے اطلاق کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے جبکہ قطعی روایت  
اور خبر واحد کے ساتھ قطعی کا نسخ بالکل جائز نہیں ہے۔

نیز اس خبر واحد میں کوئی حصر اور تخصیص کا کلمہ بھی نہیں کہ فقط یہی الفاظ ادا کئے جائیں دوسرے الفاظ سے صلوٰۃ  
کی ادائیگی درست نہیں۔ پھر تمام صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین کے عہد سے آج تک اس درود و سلام پر بھی عمل چلا  
آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف معنی مروی و منقول ہیں اور صحابہ کرام نے اپنے  
طور پر بھی مختلف انداز سے درود و سلام پڑھے اور پڑھنے کا حکم دیا اور مشائخ کرام نے درود و سلام کے معنیوں پر مشتمل  
کتابیں تصنیف فرمائیں جو ہزاروں درودوں اور سلاموں پر مشتمل ہیں اور سلاسل اربعہ میں ان کا بڑھتا مروج اور معمول ہے  
اور مشائخ اپنے متعلقین کو بھی ان کے پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں اور مولوی حسین احمد مدنی دیوبندی نے بھی شہاب ثاقب



ص ۶۲ پر دلائل الخیرات شریف وغیرہ کے متعلق علماء دیوبند کے معمولات میں سے ہونے اور اپنے متعلقین کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کی تھیں کی ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ ”وہابیہ خبیثہ کثرت صلوات و سلام و درود بر خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام اور قراءت دلائل الخیرات و قصیدہ بردہ و قصیدہ ہمزیرہ وغیرہ اور اس کے پڑھنے اور استعمال کرنے اور دینانے کو سخت قبیح و مکروہ جانتے ہیں زتا حالانکہ ہمارے مقدس بزرگان دین اپنے متعلقین کو دلائل الخیرات وغیرہ کی سند دیتے رہے ہیں اور ان کو کثرت درود و سلام و تحریب و قراءت دلائل الخیرات وغیرہ کا امر فرماتے رہے ہیں۔ ہزاروں کو مولانا گنگوہی و مولانا نائیزی نے اجازت فرمائی اور مدقول خود بھی پڑھتے رہے۔ شہاب ثاقب ص ۶۹ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے روح البیان جلد ۳ ص ۳۳۳ پر فرمایا۔

وَأَعْلَمَنَّ الصَّلَوَاتِ مُتَنَوِّعَةً إِلَى أَرْبَعَةِ الْآلِافِ وَفِيهَا وَآيَةٌ إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ الْفَأَعْلَى مَا نَقَلَ عَنِ الشَّيْخِ سَعْدِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَمَوِيِّ قَدَّسَ سِرُّهُ كُلُّ مَنْهَا مُخْتَارٌ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ بِحَسَبِ مَا وَجَدُوهُ رَاطِبَةَ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمُ الْخَوَاصُّ وَالْمَنَافِعُ.

آپ کو معلوم ہوتا چاہیے کہ درود و صلوات چار ہزار انواع و اقسام ہیں اور ایک روایت کے مطابق بارہ ہزار اقسام جیسے کہ شیخ سعد الدین محمد حموی قدس سرہ سے منقول ہے جن میں سے ہر ایک درود شرق و غرب کے انبیا و اصفیاء اور کاملین کی ایک جماعت کا مختار ہے جس کی بنائے اختیار اس درود و صلوات کی بدولت ان کے اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قائم ہونے والے ربط اور روحانی تعلق پر ہے اور ان خواص اور متعنتوں پر جو انہیں ان درودوں اور صلوات میں معلوم ہوئیں اپنے نور فرست اور کشف کے ذریعے اور اپنے تجربات و مشاہدات کی بدولت

منہا قوله ”الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ - الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيلَ اللَّهِ (الی) الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَحْمَدَ - الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدَ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرٌ شِبْهُ وَحَمْدٌ عَشْرٌ شِبْهُ وَحَمْدٌ عَشْرٌ شِبْهُ وَعَلَى أَيْكَ وَأَصْحَابِكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ ایں صلوات و صلوات فتح گویند چہل کلمہ است صلوات نے مبارکت و نزد علماء معروف و مشہور و بہر ماوسے کہ خوانندہ حاصل گردد، ہر کہ چہل با ملا بعد از ادائے فرض بخوید کار بستہ او بکشا بدو بر دشمن ظفر یا بدو اگر در جس بود حق تعالی سبحانہ اور راہائی بخشہ خواص او بسیار است ص ۳۳۶ ج ۴۔ ان درودوں اور صلوات میں سے یہ درود و صلوات بھی ہے۔ اس کو صلوات فتح کہتے ہیں جو چالیس کلمات (نڈائیہ) پر مشتمل ہے۔ بہت بابرکت درود ہے اور علماء کرام کے نزدیک مشہور و معروف اور جس مرام و مقصد کے لیے اسے پڑھیں وہ ضرور حاصل ہوگا جو شخص چالیس روز صبح کی نماز فرض ادا کرنے کے بعد یہ درود

پڑھے تو اس کی شکل حل ہو جائے گی اور اسے دشمن پر ظفر و کامیابی حاصل ہوگی اور اگر قید و حبس میں ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رہائی اور خلاصی بخشنے کا اور علاوہ ازیں بھی بہت خواص ہیں۔ منہا قولہ "السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْحَرَمَيْنِ۔ اَلْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْخَافَقَيْنِ (الی) وَعَلَى عِثْرَتِكَ وَأُسْرَتِكَ وَأَوْلَادِكَ وَأَحْفَادِكَ وَأَزْوَاجِكَ وَأَنْوَاجِكَ وَخَلْفَائِكَ وَنُجَبَائِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَحْزَابِكَ وَأَتْبَاعِكَ وَأَشْيَاعِكَ سَلَامٌ اَللّٰهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ اَجْمَعِينَ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔" این تسلیمات سب سے گویند کہ ہفت روزہ است ہر کہ بکارے در ماند و مہمات اور فر و بستر با شد ہفت روزے بعد از ادائے نمازے یا زودہ بار صلوات فرستد پس این تسلیمات را ہفت بار بخواند ہم کفایت شود و حاجت روا گردد ص ۲۳۶

انہیں تسلیمات سب سے کہتے ہیں کیونکہ سات (یعنی) اسلام کے ہیں جو شخص کسی کام میں عاجز آجائے اور اس کے اہم معاملات میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو سات دن نماز ادا کرنے کے بعد گیارہ مرتبہ درود پڑھے پھر یہ سات سلام سات مرتبہ پڑھے تو اس کی مشکل دور ہو جائے گی اور حاجت روا ہو جائے گی۔

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی چشتی صابری قدس سرہ العزیز نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے جو درود و صلوات تلقین فرمائی ہیں وہ بھی صیغہ نما پر ہی مشتمل ہیں۔ فرماتے ہیں "طریق زیارت صلی اللہ علیہ وسلم"

بعد نمازِ عشا یا طہارت کامل و جامہ نوز و استعمال خوشبو بادب تمام رو بسوئے مدینہ منورہ بشیند و ملتی از جناب اقدس حقیقت محمدی بلئے حصول زیارت جمال مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شود دل را از جمیع خطرات خالی کردہ صورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلیاس بسیار سفید و عمامہ سبز و چہرہ منور مثل بدر بر کسی تصور کند و الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ راست۔ الصلوٰۃ والسلام علیک یا نبی اللہ چپ، الصلوٰۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ در دل خود ضرب کند این درود شریف را ہر قدر کہ تواند پیے در پیے تکرار کند بعد ازاں این ہر سہ درود۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهُ۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى كُ۔ ہر قدر کہ تواند بعد دطاق بخواند بوقت نختن بست و یکبار سورہ اذا جاء نصر اللہ خواند تصور جمال مبارک درود گویاں سر بسوئے قطب و رو بقبیلہ و بردست راست بخشد الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خواندہ رکعت راست دمیدہ وزیر سر تہادہ بخشد این عمل شب جمعہ یا شب دوشنبہ کند چند بار بعمل آرد ان شاء اللہ تعالیٰ بطلب خواهد رسید (صیبا، انقلب ص ۱۰)

نماز عشاء کے بعد کامل طہارت کے بعد نئے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر کامل ادب کے ساتھ منہ مدینہ منورہ کی طرف کر کے بیٹھے اور حقیقت محمدیہ کی بارگاہ اقدس میں جمال مبارک کی زیارت کی التجاہ کرے اور دل کو تمام خیالات و ماسوس سے خالی کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک کا تصور اس طرح کرے کہ آپ بہت سفید لباس زیب تن فرمائے، سبز عمامہ سرانور پر باندھے چودھویں کے چاند جیسے چمکتے چہرہ اور کے ساتھ میرے سامنے کرسی پر جلوہ افروز ہیں اور پھر الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دائیں جانب متوجہ ہو کر۔ الصلوٰۃ والسلام علیک یا نبی اللہ بائیں جانب متوجہ ہو کر اور الصلوٰۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ دل کی طرف متوجہ ہو کر پڑھے اور اس درود کو پے درپے جس قدر بھی استطاعت و قدرت ہو بار بار پڑھے۔ اس کے بعد یہ تین درود جتنا قدر ممکن ہو اس قدر زیادہ تعداد میں طاق مرتبہ پڑھے اور سوتے وقت اکیس مرتبہ سورۃ اذ جاء نصر اللہ پڑھے اور جمال مبارک کا تصور کرتے ہوئے درود پڑھتے پڑھتے ستر قطب شمال کی طرف اور منہ قبلہ کی طرف کر کے لیٹے اور الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ پر دم کر کے اسے سر کے نیچے رکھ کر سوجائے اور یہ عمل جمعہ کی رات یا سوموار کی رات کرے اگر کئی مرتبہ اس پر عمل پیرا ہو گا تو انشاء مطلوب حاصل ہو جائے گا۔

اور دوسرے مقام پر اسی سادات کے حصول کا حصول کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”ذکر کشف روح مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“

صورت مثالیہ آنحضرت را تصور نموده درود خواند و بطرف راست یا احمد و چپ یا محمد درود یا رسول اللہ ضرب کند ہزار بار بجز بدعلائیہ یا در خواب از دولت دیدار مبارک مشرف شود (ضیاء القلوب ص ۵)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مثالیہ کا تصور کرتے ہوئے درود پڑھے اور دائیں جانب یا احمد (الصلوٰۃ والسلام علیک یا احمد) اور بائیں جانب (الصلوٰۃ والسلام علیک) یا محمد اور دل پر ضرب لگاتے ہوئے (الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہزار مرتبہ کہے۔ بیداری میں یا خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو جائے گا۔

علامہ ابن القیم نے جلاء الافہام ص ۲۵۸ اور علامہ حافظ شمس الدین سخاوی نے القول البدیع ص ۱۶۳ پر حضرت شبلی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبولیت اور آپ کی ان پر نظر التفات اور نگاہ لطف و کرم کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ اور پھر تین مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔

چنانچہ جب حضرت شبلی حضرت ابوبکر بن مجاہد کے پاس ان کی مسجد میں تشریف لائے تو وہ ان کے استقبال کو اٹھے اور انہیں گلے لگایا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تو ابوبکر محمد بن عمر نے ان سے عرض کیا "يَا سَيِّدِي نَفَعَلُ هَذَا بِالشَّيْبَلِيِّ اَنْتَ وَجَمِيعٍ مِّنْ يَّبَعْدَاذِ يَتَصَوَّبُوْنَا اِنَّهُمْ مَجْنُونًا؟ فَقَالَ فَعَلْتُ بِهِ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلْتُ بِهِ۔ اے میرے مخدوم و مولیٰ تم شبلی کے ساتھ اس طرح تعظیم و تکریم سے پیش آرہے ہو حالانکہ تم خود اور تمام اہل بغداد ان کو مجنون سمجھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا میں نے ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا ہے۔

پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوا اور دیکھا کہ شبلی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں تو آپ ان کے لیے اُٹھے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جب میں نے عرض کیا کہ آپ ان سے یہ مہربانی کیوں فرما رہے ہو تو فرمایا یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھا ہے اور اس کے بعد یہ تین مرتبہ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ" پڑھا ہے چنانچہ جب شبلی میرے پاس تشریف لائے تو میں نے ان کے نماز کے بعد دلے و ورد و وظیفہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اس وقت بھی وہی کیفیت بیان کی۔

اور علامہ سخاوی نے مزید کہا کہ امام ابوبکر بن مجاہد نے کہا "اَلَا اَقُوْمُ لِمَنْ يُّعَظِّمُهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" کیا میں اس کے لیے قیام کیوں نہ کروں جس کی رسول پاک تعظیم کریں پھر فرمایا کہ مجھے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیدار سے مشرف فرمانے کے بعد کہا کہ کل تیرے پاس ایک جنتی شخص آئے گا لہذا اس کے آنے پر اس کی تعظیم و تکریم کرنا۔ جب میں نے تعمیل ارشاد میں حضرت شبلی کی تعظیم و تکریم کی تو دو تین رات بعد پھر آپ نے دولت دیدار سے مشرف فرمایا "اَلرَّمْلُ الَّذِي كَمَا اَكْرَمْتَ رَجُلًا مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اللہ تعالیٰ تجھے بزرگی و برتری بخشے جیسے کہ تو نے ایک جنتی آدمی کی تعظیم و تکریم کی ہے جب میں نے اس کو منوازی اور بندہ پروردی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جو اسی سال سے ہر نماز کے بعد یہ عمل کرتا چلا آ رہا ہے "اَفْلَا اَكْرَمُ مَنْ يَّفْعَلُ هَذَا؟" تو کیا ایسے پاکیزہ عمل والے شخص کی میں تعظیم نہ کروں۔

اگر یہ درود کسی فضیلت و برتری کا حامل نہ ہوتا تو اس کا پڑھنے والا اس قدر تعظیم و تکریم اور جنت کی بشارات کا مستحق کیونکر ہوتا؟ گویا یہ درود اس قدر مقبول بارگاہ رسالت اور مقبول بارگاہ خداوند تعالیٰ ہے کہ ہر مرد و برآتی ہے ہر شکل صل ہوتی ہے اور دولت دیدار جیسی عظیم نعمت بھی اس کی بدولت حاصل ہوتی ہے اور چشمِ جنت وا ہو جاتی ہے اور دل کی میل وصل جاتی ہے اور آئینہ قلب اس قدر صاف اور اجلا ہو جاتا ہے کہ آفتاب حقیقت محمدیہ کے جلوے اس میں جھلکنے

لگتے ہیں اور دیدہ بصیرت اور دیدہ بصر حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے دیدار والی نعمت عظمیٰ سے مشرف ہو جاتے ہیں اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایسے درود پڑھنے والوں کی خود بھی تعظیم و تکریم فرماتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے ہیں۔ اگر یہ درود اور صلوٰۃ ہی نہ ہوتے اور ان کا پڑھنا بدعت اور ناجائز ہوتا تو یہ فوائد عظیم کیونکر ان کی بدولت حاصل ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم کو یہ سب درود و سلام پسند ہیں تو پھر کسی دوسرے سے اس کے جواز کی سند حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہو سکتی ہے۔

## ”کیا الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سپیکری درود ہے“

آج کل بعض بے باک اور گستاخ لوگ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو سپیکری درود اور بریلی کے درود سے تعبیر کر کے اس کی اہمیت کو کم کرنے بلکہ اس کو ناجائز ثابت کرنے کی سعی ناپاک کرتے ہیں تو ان کی توجہ کے لیے عرض ہے کہ ان اقوال کو غور سے پڑھیں تاکہ حقیقت حال واضح ہو جائے اور اس درود و سلام کے فوائد عظیمہ اور اس کی شان قبولیت کھل کر سامنے آجائے اور یہ تو ہم بیخ و بن سے اکھڑ جائے۔ نیز مزید توضیح بھی پیش خدمت ہے ہو سکتا ہے باعث ہدایت اور موجب امانت ہو۔

علامہ حافظ شمس الدین سخاوی فرماتے ہیں ”ذَهَبَ الْجَمْعُ مِمَّا إِلَى الْأَجْزَاءِ بِكُلِّ لَفْظٍ أَدَّى الْمُرَادَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ قَالَ فِي أَشْنَاءِ التَّشْهِيدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ أَجْزَأُ“ — جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ کے مقصد کو پورا کرے وہ کافی ہے حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ اگر تشہد کے دوران ”الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ“ کہہ دے تو یہ نمازی کے لیے کافی ہے یعنی صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا بِرَأْسِ صَوْتٍ فِي عَمَلٍ هُوَ كَمَا فِي تَعْمِيلِ فَرْمَانِ هُوَ كَمَا فِي۔

اور علامہ حسین احمد دیوبندی شہاب ثاقب میں تصریح کرتے ہیں کہ درود کے ضمن میں ندائے یا رسول اللہ جائز ہے یعنی الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ چنانچہ فرماتے ہیں۔ وہابیہ خبیثہ یہ صورت نہیں نکالتے اور جملہ انواع کو منع کرتے ہیں چنانچہ وہابیہ عرب کی زبان سے بارہا سنا گیا کہ وہ ”الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ“ کو سخت منع کرتے ہیں اور اہل حرمین پر سخت نفرتی اس نداء اور خطاب پر کرتے ہیں اور ان کا استہزاء اڑاتے ہیں اور کلمات ناشائستہ استعمال کرتے ہیں حالانکہ ہمارے مقدس بزرگان دین اس صورت اور جملہ صورت درود شریف کو اگرچہ بصیغہ نداء و خطاب کیوں نہ ہوں مستحب اور مستحسن جانتے ہیں اور اپنے متعلقین کو اس کا امر کرتے ہیں۔ شہاب ثاقب ۶۵

اس اقتباس سے واضح ہو گیا کہ یہ صرف بریلی کا درد نہیں بلکہ دراصل اہل حرمین کا ہے اور صدیوں پہلے کے اکابر نے اس کو جائز بھی کہا اور اس پر عمل پیرا بھی رہے اور علمائے دیوبند بھی کل تک ان اہل حرمین سے متفق تھے اور اس درد کے منکروں کو خبیث اور پلید سمجھتے تھے مگر اب وہی خبیث اسی روش و کردار اور نظریہ و عقیدہ پر ہوتے ہوئے طیب اور پاک ہو گئے ہیں تو اس کا سبب موجب اور باعث بیان کرنا اختلافِ دیوبند کی ذمہ داری ہے؛

اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ شَهِيدٌ۔

نیز اس فرق کا بطلان بھی واضح ہو گیا کہ روضۃ اقدس پر تو الصلوٰۃ والسلام عینک یا رسول اللہ جائز ہے مگر دوسرے جائز نہیں کیونکہ حسین احمد مدنی صاحب نے خود بھی دور سے پڑھنے کو جائز رکھا اور اہل مکہ کا بڑھنا بھی تسلیم کیا اور ظاہر ہے کہ وہ دوری اور نداءِ خانہ تہ کی صورت ہی ہے اور السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا قَوْلَ بَعْضِ عُلَمَاءِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ جو تشدد میں پڑھتے ہیں وہ بعید سے بھی پڑھا جاتا ہے لہذا یہ تفرقہ بھی غلط ہے۔

## ”مقاماتِ کرامتِ صلوٰۃ و سلام“

اگرچہ صلوٰۃ و سلام کا حکم مطلق ہے اور از روئے قواعد و اصول مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھا جانا لازم ہے تا وقتیکہ تقیید و تخصیص پر کوئی دلیل اسی پائے کی موجود نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسليم کی تعظیم و توقیر اور اجلال و تکریم کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: **لَتَتَّوَمَّنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُعَزِّمُوْا وَتُوقِرُوْا وَتُسَبِّحُوْا بِكُوْنِكُمْ وَاَصِيْلًا** تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس رسول کی تکریم و توقیر کرو اور صبح و شام ان کی طہارت و تقدیس بیان کرو اور فرمایا: **وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ۔** اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ دلوں کے تقویٰ و طہارت سے ہیں اور اس آیت کریمہ کے انداز بیان سے واضح ہے کہ ان کی تعظیم و تکریم کا خلاف تقویٰ و ایمان داری کے منافی ہے لہذا کسی ایسے مقام پر درود و سلام پڑھنا جو عظمت رسالت اور آداب نبوت کے مطابق اور شایانِ شان نہ ہو تو وہ درست نہیں ہو گا علمائے اسلام نے ایسے مقامات کی تصریح کرتے ہوئے فرمایا:

(۱) **اِنَّمَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ وَالْإِحْتِسَابِ وَقَصْدِ التَّعْظِيمِ وَرَجَاءِ الثَّوَابِ وَلِهَذَا كَرِهَ الْعُلَمَاءُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَحَاجَةُ الْإِنْسَانِ وَشَهْرَةُ الْمَبِيعِ وَالْعَثْرَةُ وَالتَّعْجِبُ وَالذَّبْحُ وَالْعَطَاسُ عَلَى خِلَافٍ فِي الثَّلَاثَةِ الْآخِرَةِ وَذَكَرُوا**

الشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ عَمَّالٍ بَدَلَ شَهْمَةَ الْمَيْبَعِ وَمَا إِذَا الرِّصَاعَ مَا يَصْدُرُ مِنَ الْعَوَامِ فِي الْأَعْرَاسِ وَ  
غَيْرِهَا مِنْ اِسْتِهَارِهِمْ أَفْعَالَهُمْ لِلنَّظَرِ إِلَيْهَا بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ زِيَادَةِ  
عَدَمِ الْوَقَارِ وَالْإِحْتِرَامِ بَلْ يَضْحَكُ وَلَعِبٍ تُعَدُّ كَرَمٌ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نُهِىَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِيهَا  
الْأَمَاكِنَ الْقَدِيرَةَ وَأَمَاكِنَ التَّجَاسُّتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔  
(مطالع المرات ۲۷)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عبادت اور رضا الہی کے حصول، تعظیم و تحکیم کے ارادہ اور حصول ثواب کی امید و رجاء پر بھیجا جائے اور اسی لیے علماء کرام نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم پر سات مقامات میں درود و صلوٰۃ کو مکروہ قرار دیا ہے۔ جماع کے وقت، قضا، حاجت کے دوران قابل فروخت شئی کی تشہیر کے لیے اور لغزش کھانے پر اور بوقت تعجب اور ذبح اور چھینک کے اگرچہ ان آخری تین کی کراہت میں علماء کا باہم اختلاف ہے اور شیخ یوسف بن عمر نے قابل فروخت چیز کی تشہیر کی جگہ کھانے کا ذکر کیا ہے اور صلوات نے ان پر اضافہ کرتے ہوئے اس صلوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے جو عوام شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر اپنے افعال کو لعوب کی تشہیر اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں جس میں بہت بے توقیری اور ترک احترام ہوتا ہے بلکہ ہنسی مزاح اور کھیل کود کی صورت ہوتی ہے۔ پھر مزید برآں ان مقامات میں سے جن میں درود و صلوٰۃ مکروہ و ممنوع ہے ان مقامات کو بھی شمار کیا جن میں پلیدی اور نجاست موجود ہو واللہ اعلم۔

(۲) علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں فرماتے ہیں اور چھینک آتے پر بعض کے نزدیک درود و شریف پڑھے اور اکثر علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے جیسے کہ شریعت اور اس کی شرح میں مذکور ہے کہ چھینک کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کرے بلکہ الحمد للہ کہے اور نہ ذبح کے وقت حتیٰ کہ اگر بوقت ذبح بسم اللہ و اسم محمد کہے گا تو وہ جائز و طلال نہیں ہوگا کیونکہ یہ ذبح خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہے گی اور اگر بسم اللہ و صلی اللہ علی محمد کہے تو یہ مکروہ ہے اور نہ تعجب کے وقت درود بھیجے کیونکہ تعجب کے وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ص ۲۳۲ ج ۷۔

## درود و سلام کے جائز مقامات

قبل ازیں عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا“ مطلق ہے اور وہ اپنے اطلاق کے لحاظ سے تمام اوقات اور احوال کو شامل ہے جس طرح کہ صلوٰۃ و سلام کے معنی پر مشتمل ہر صیغہ کو لہذا کسی مقام میں اس کی ممنوعیت اور عدم جواز محتاج ثبوت ہے نہ کہ اس کا جواز اور اباحت یا استحباب لہذا جس جگہ علماء اسلام



نے عدم جواز کی تصریح کی ہو اور اس کا دار و مدار بھی کسی قطعی دلیل پر ہو تو وہ قول قابل قبول ہوگا اور حجت و سند جس طرح قبل ازیں عرض کیا گیا ہے کہ جو مقامات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور اجملال و تکریم کے منافی ہیں وہاں مکروہ ہے اور جہاں یہ امر مانع متحقق نہ ہوگا وہاں پر جائز ہوگا جن میں بعض میں واجب، بعض میں سنت اور بعض میں مستحب و مستحسن ہوگا علامہ ابن القیم نے چالیس سے زیادہ مقامات کا ذکر کیا ہے جن میں صلوٰۃ و سلام واجب ہے یا تاکید مستحب و مستحسن اور علامہ سخاوی نے اٹھاسی سے زیادہ ایسے مقامات کی تصریح کی ہے لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام کے حق میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشرکہ سنایا اور بشارت دی کہ پھر تو تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور سب حاجات پوری ہو جائیں گی جب انہوں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنا تمام وقت دیگر اوراد و وظائف کی بجائے صرف آپ پر درود و صلوٰۃ پڑھنے میں ہی صرف کریں گے تو اس سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ صلوٰۃ و سلام کا حکم اپنے اطلاق اور عموم پر ہے اور فرائض و واجبات کے بعد تمام اوقات عزیزان میں صرف کرنا بہت بڑی عبادت اور سعادت ہے۔ لہذا ان حضرات نے جو مقامات ذکر کئے ہیں وہ وجوب یا استحباب مولود کے مقامات ہیں نہ یہ کہ جواز و اباحت ان میں ہی منحصر ہے اور ان کے علاوہ مقامات میں جائز ہی نہیں۔

## اذان سے پہلے اور اس کے بعد درود و صلوٰۃ کا حکم

بدقسمتی سے آج کل یہ مسئلہ انتہائی اختلافی بن چکا ہے اور ایک فریق شب و روز اس کی حرمت اور عدم جواز کو بیان کرنا اور اس سے لوگوں کو دور رکھنا اپنا فرض اولین سمجھنے لگا ہے اور پڑھنے والوں پر بڑے سخت الفاظ میں تنقید کرنے لگے ہیں۔ حالانکہ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی حدیث جو قبل ازیں ذکر ہو چکی ہے اس میں اذان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درود و صلوٰۃ پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی یہ مشرکہ بھی سنایا کہ تمہارے ایک درود کے بدلے اللہ تعالیٰ تم پر دس درود بھیجے گا اور یہی حدیث بروایت مسلم مشکوٰۃ شریف میں بھی مذکور ہے لہذا اذان کے بعد درود و صلوٰۃ سے منع کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو رد کرنے کے مترادف ہے اور امت کو اللہ تعالیٰ کی صلوات سے محروم کرنے کا موجب بھی جو کسی مسلمان کے بھی شایان شان نہیں چہ جائیکہ علماء اعلام و ارشاد انبیاء کے۔

سوال۔ وہ حکم تو صرف سامعین کے لیے ہے نہ کہ اذان کہنے والے کے لیے جبکہ کلام مؤذنون کے صلوٰۃ پڑھنے میں ہے؟  
جواب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ مؤذن ہم سے اجر و ثواب میں بڑھ گئے اور ہم اس ثواب اور فضیلت سے محروم رہ گئے جو مؤذن کو حاصل ہوتی ہے تو اس کے تدارک اور اسی قدر اجر و ثواب حاصل کرنے کا طریقہ بیان کرتے

ہوئے آپ نے فرمایا کہ مؤذن کے ساتھ ساتھ اذان کے کلمات دہراتے چلے جاؤ (ما سوائے سحیٰ عَلَى الصَّلَاةِ اور سحیٰ عَلَى الْفَلَاحِ کے کیونکہ یہاں پر "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" کہنے کا حکم ہے تو تمہیں بھی وہ اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا لیکن درود اور دعائے وسیلہ کا حکم یہ سب کو شامل ہے۔ ورنہ یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ مؤذن کے لیے دعائے وسیلہ مانگنا بھی منع ہے حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس دُعا پر استحقاق شفاعت کا شہدہ ہے اور اسے مؤذن کے حق میں ممنوع ٹھہرا کر اسے استحقاق شفاعت سے محروم کرنا لازم آئے گا اور اسی طرح درود و صلوات پڑھنے سے روکنا بھی اللہ تعالیٰ کے دس گنا درود و صلوات سے محروم کرنے کو مستلزم ہے اور علمی اصطلاح میں اس انداز بیان کو صنعتِ استخدا م سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی قَوْلُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ کی ضمیر سے سامعین مراد ہیں اور دوبارہ اعادہ کی صورت میں مؤذن اور سامع سبھی مرادیتے ہوئے تَشْرَعُوا عَلَيَّ اور تَسَلُّوا اللہَ لِی السَّوْسِيكَةَ فرمادیا نیز درود و صلوات دُعا سے قبل مسنون ہے اور دُعا مؤذن کے لیے مسنون تو درود بھی مسنون۔

اسی طرح اذان سے قبل درود و صلوات کہنے کا حکم مخصوص اگرچہ وارد نہیں لیکن عموماً و اطلاقاتِ نصوص اس کو بھی شامل ہیں اور اس میں کوئی بے ادبی اور بے توقیری بھی نہیں بلکہ مؤذن پاک جگہ میں بدن پاک اور لباس پاک کے ساتھ درود پڑھتا ہے لہذا اس کو ناجائز اور ممنوع ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

سوال۔ اس طرح اذان میں اضافہ لازم آتا ہے اور وہ جائز نہیں ہے۔

جواب۔ اضافہ تو آخر میں پڑھنے سے بھی لازم آجاتا ہے لیکن وہ سنت ہے لہذا اضافہ کا بہانہ مشترک ہے مگر آخر میں اس دلیل کا مدلول اور نتیجہ مختلف ہے اور اس حکم یعنی عدم جواز کا دعویٰ باطل ہے لہذا اس شبہ کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں ہے علی الخصوص جبکہ اذان کا لب و لہجہ اور انداز الگ ہوتا ہے اور درود شریف کا اس سے بالکل مختلف۔

نیز حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق ابوداؤد شریف "باب الاذان فوق المنارة" کے تحت حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بنو النجار کی صحابی انصاری عورت سے مروی و منقول ہے کہ میرا مکان مسجد نبوی کے اطراف میں سب مکانوں سے بلند تر تھا لہذا حضرت بلال فجر کی اذان اس پر دیتے تھے چنانچہ آپ پہلی رات اگر مکان کی چھت پر بیٹھ جاتے اور طلوع فجر کا انتظار کرنے لگتے۔ جو نہی فجر طلوع ہوتی تو اٹھ کھڑے ہوتے پھر کہتے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَحْمَدُکَ وَ اَسْتَعِيْنُکَ عَلٰی فَرْشِیْ اَنْ یَّقِيْمُوْا دِيْنَکَ۔ فَالْتُمْ تَشْرَعُوْا دِيْنِکَ وَ اَلْتُمْ مَا عَلَيْتُمْ وَ کَانَ تَرَكْهَا لِيْکَلَّةً وَ اَحَدًا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ۔

(ابوداؤد شریف جلد اول ص ۷۷)

لے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تجھ سے تزیین پر مدد طلب کرتا ہوں کہ وہ تیرے دین کو قائم کریں۔ انصاریہ

فرماتی ہیں کہ پھر اذان کہتے اور بخدا ان کا ان کلمات کو کسی بھی رات میں نرک کرنا میرے علم میں نہیں ہے یعنی ہمیشہ یہ کلمات فجر کی اذان سے پہلے کہا کرتے تھے ...

قائدہ عظیمہ: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ روزمرہ کا معمول تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں موجود تھے ان کے علم میں تھا لیکن نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذان میں اضافہ معلوم ہوا اور نہ صحابہ کرام کو اور نہ خود حضرت بلال کو اور نہ ہی کسی نے ان کو منع فرمایا تو گویا ان کا یہ عمل حدیث تقریری اور اجماع صحابہ اور اجماع اہل مدینہ اور اجماع عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیل سے ٹھہرا جس کے بعد کسی مسلمان کے لیے اس قسم کے کلمات حمد اور دعا کے جواز میں شک و شبہ اور تردد و تذبذب کی گنجائش نہیں ہو سکتی تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اگر حمد خداوند تعالیٰ اور قریش کی ہدایت اور ان کے لیے خدمت اسلام کی توفیق کی دعا جائز ہے اور یقیناً جائز ہے تو درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر ناجائز اور ممنوع ہو سکتا ہے؟ اور اسے اذان میں اضافے کے بہانے ناجائز کیونکر کہا جا سکتا ہے۔

## اذان کے درمیان درود و صلوات

فقہائے کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ جب موزن۔ "اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" پہلی مرتبہ کہے تو سامعین کہیں "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ" اور دوسری دفعہ کہے تو قُرْءَةُ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ" کے علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں فرمایا "ثُمَّ اِنَّ لِلصَّلٰوٰتِ وَالتَّسْلِيْمٰتِ مَوَاطِنَ . مِنْهَا اَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ سَمَاعِ السَّبِّ الشَّرِيفِ فِي الْاَذَانِ" قَالَ الْقَهْطَنَانِي فِي شَرْحِهِ الْكَبِيْرِ نَقْلًا عَنْ كُنْزِ الْعِبَادَةِ اَعْلَمُ اَنَّهُ يَسْتَحَبُّ اَنْ يُقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْاَوَّلِي مِنَ الشَّهَادَةِ .. صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعِنْدَ سَمَاعِ الثَّانِيَةِ . قُرْءَةُ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ يُقَالَ .. اللّٰهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ ، بَعْدَ وَضْعِ ظَفْرِ الْاَيْدِيَّامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَاِنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ قَائِدًا لَّهُ اِلَى الْجَنَّةِ اَنْتَهَى . (مروحة البیان جلد ۱ ص ۲۳۸)

خلاصہ مفہوم یہ کہ صلوات و تسلیمات کے بہت سے مقام ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اذان میں آپ کا نام مبارک سنتے پر صلوات پڑھے علامہ قہستانی نے شرح کبیر میں کنز العباد سے نقل کیا ہے کہ جان لو کہ مستحب یہ ہے کہ شہادت رسالت کا کلمہ پہلی مرتبہ سننے پر "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ" کہے اور دوسری مرتبہ سننے پر دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر رکھ کر کہے "قُرْءَةُ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ"؛ یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کی بدولت ہے اے رسول باری تعالیٰ کیونکہ اس طرح کہنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت تک رسائی کے لیے اس کی قیادت اور

دستگیری فرمادیں گے۔ اور یہی مضمون طحاوی علی مراتب الفلاح میں موجود ہے۔ ملاحظہ ہو ص ۱۲۲  
علامہ شامی نے ردالمحتار حاشیہ درمختار میں ذکر فرمایا ہے ملاحظہ ہو جلد اول ص ۳۷

## اذان اور اقامت کے درمیان صلوٰۃ و سلام

جماعت کے قیام کا قرب بیان کرنے کے لیے جو کلمات استعمال کئے جاتے ہیں انہیں تثنویہ کہتے ہیں اور اس میں کسی خاص علامات کو معین کر لینا جائز ہے مثلاً تَحْ (گھنگھورنا) اقامت قائمات (نماز شروع ہو رہی ہے) الصَّلٰوۃُ الصَّلٰوۃُ نماز کی طرف آؤ، وَلَوْ اَحَدٌ تَوَّأ اَعْلَامًا مُّخَالَفًا لِذٰلِكَ جَائِزٌ اور اس کے علاوہ علامات مقرر کر لیں تو بھی جائز ہے۔ کذا فی التہر عن المجتہب شامی جلد اول ص ۳۶ لٰمَّا اُكْرِى صَلٰوۃ و سلام کو بطور تثنویہ اور اطلاع کی نیت سے پڑھا جائے تو بھی جائز ہوگا۔

سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں امراء و سلاطین پر مروج سلام کو تزک کر کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا اور علماء کرام نے اسی کو اختیار کیا درمختار میں فرمایا "التَّسْلِيْمُ بَعْدَ الْاَذَانِ حَدَّثَ فِي رِبْعِ الْاٰخِرِ سَنَةِ سَبْعِ مِائَةٍ وَاِحْدَى وَاِحْدَى وَاِحْدَى وَاِحْدَى وَتَمَانِيْنِ فِي عَشَاءٍ لَيْلَةِ اِثْنَيْنِ تَمَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ بَعْدَ عَشْرِ سِنِيْنَ حَدَّثَ فِي الْكَلِّ اِلَّا فِي الْمَغْرِبِ ثُمَّ فِيْهَا مَرَّتَيْنِ وَهُوَ بَدِئُ عَمَلٍ حَسَنَةٍ" یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اذان کے بعد سلام پیش کرنے کا طریقہ ۱۷۰ھ ربيع الثانی میں شروع ہوا پہلے پہل صرف ہولوار کی عشاء کو سلام پیش کیا جاتا تھا پھر جمعہ کے دن بھی یہ سلام مروج ہو گیا اور دس سال بعد ۱۸۰ھ میں مغرب کے علاوہ تمام نمازوں میں اذان کے بعد (اور جماعت سے قبل) رواج پذیر ہو گیا پھر نماز مغرب میں بھی دو دفعہ کہا جانے لگا اور یہ بدعت حسنہ ہے۔ اور علامہ شامی نے فرمایا کہ جو تاریخ صاحب درمختار نے ذکر کی ہے وہی نہر فائق میں سیوطی کی کتاب حسن الحاضرہ سے منقول ہے ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الْقَوْلِ الْبَدِيْعِ لِلْسَّخَاوِيْ اَنَّهُ فِي سَنَةِ ۱۸۰ھ وَ اَنَّ اِبْتِدَاءَهُ كَانَ فِي اَيَّامِ السُّلْطَانِ النَّاصِرِ صِلَاحِ الدِّيْنِ بِأَمْرِهِ، پھر علامہ سخاوی کی کتاب القول البدیع سے نقل فرمایا کہ اس کا آغاز ۱۸۰ھ میں ہوا اور اس کی ابتداء سلطان ناصر صلاح الدین کے حکم سے ہوئی۔ اگرچہ سو سال سے زائد عرصہ کے علماء اعلام شوافع اور احناف کے نزدیک وہ بدعت حسنہ ہے اور کاذب اور ممنوع و مکروہ نہیں ہے تو اب اس کے خلاف شور و شر اور نزاع و خلاف قطعاً زیبا نہیں ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کرنا دین میں مداخلت کے مترادف ہے کیونکہ بدعت شرعیہ صرف بدعت سیئہ ہے یعنی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو اور اس کے عموم و اطلاق اور دلالت النص یا اشارة النص اور

افتضاء النفس سے ثابت نہ ہو وہ ناجائز ہے اور جو عموم و اطلاق میں داخل ہو یا دلالت و اشارت اور افتضاء کے طور پر ثابت ہو تو اس پر عمل قرآن و حدیث پر عمل ہے اور اسے بدعت کہنا محض لغوی لحاظ سے ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زاویح کی نماز یا جماعت ایک امام کے پیچھے بدعت حسہ قرار دیتے ہوئے فرمایا "نِعِمَّتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ" یہ اچھی اور بہترین بدعت ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "قَدْ أَحَدَثَ الْمُؤَدِّثُونَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" القول البديع ۱۹۱ یعنی مؤدثوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام کو اذان کے بعد جاری کر دیا۔ پانچوں فرض کی اذانوں میں ماسوائے فجر اور جمعہ کے کہ ان میں اذان سے پہلے صلوات و سلام کہتے ہیں اور ماسوائے مغرب کے کہ اس کو وقت کی تنگی کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں (تا) اذ قد اختلفت في ذلك هل هو مستحب أو مكروه أو بدعة أو مشروء واستدل للقول بقوله تعالى وأفعلوا الخير ومعلوم أن الصلوة والسلام من أجل القرب لا سيما وقد توارثت الأخبار على الحديث على ذلك (الحی) والصواب أنه بدعة حسنة يوجب فاعله بحسن نيته ۱۹۱ اور اس میں اختلاف کیا گیا ہے کہ آیا وہ مستحب ہے یا مکروه یا بدعت یا جائز اور مستحب ہونے پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا گیا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کام کرو اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ صلوات و سلام عظیم و علیل عبادات کے قبیل سے ہے خصوصاً جبکہ روایات کثیرہ میں اس کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے (تا) اور صواب و صحیح یہی ہے کہ وہ بدعت حسہ مستحبہ ہے اس پر کاربند شخص کو اس کے حسن نیت کی وجہ سے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ وکذا في النهر الفائق ورد المختار ص ۳۶۲ جلد ۱

تنبیہ: اگرچہ صلوات و سلام بعض مقامات میں مباح بلکہ مستحب ہوتا ہے مگر جب اس کی اباحت اور استحباب کا انکار کیا جائے اور حرمت و کراہت کا قول کیا جائے تو اس کی اباحت اور استحباب کو برقرار رکھنے کے لیے وہ مؤکد ہو جاتا ہے جیسے وضو حوض سے کرنا مباح ہے لیکن معتزلہ نے جب اسے ناجائز قرار دیا تو علمائے اہل سنت نے اس کو مستحب مؤکد قرار دے دیا تاکہ ترک عمل کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں عدم جواز اور ممنوعیت راسخ نہ ہو جائے۔ والتوضی من الحوض افضل من النهی دغما للمعتزلة ای لان المعتزلة لا یجیزونہ من الحیاض فتزعّمہم بالوضوء منها قال فی الفتیح وهذا إنما یفید الأفضلیة لهذا العارض فی مکان لا یتحقق یتحقق النہر افضل (در مختار مع شامی ص ۱۶۱) ترجمہ: اور وضو حوض سے کرنا نہر کی نسبت افضل ہے معتزلہ کی تدلیل کے لیے یعنی اس لیے کہ معتزلہ اس کو حوضوں سے جائز نہیں رکھتے لہذا تم حوض سے وضو کے ذریعے ان کی تدلیل اور مقصد میں ناکامی کا سامان کیا کرو۔ علامہ ابن ہمام نے فتح القدر میں فرمایا کہ حوض کو نہر پر افضلیت اس امر عارض کی وجہ سے ہے لہذا جمال پر یہ امر عارض موجود نہیں ہو گا تو وہاں پر نہر سے


وضو کرنا نیتِ حوض کے افضل ہوگا۔

اور اس قاعدہ کو علمائے دیوبند نے اس طرح بے دریغ استعمال کیا کہ زراغ معروفہ کا کھانا جہاں برا سمجھا جاتا ہو وہاں اس کے کھانے کو مستحب اور کارِ ثواب بنا دیا ملاحظہ ہو فتاویٰ رشیدیہ از شیخ رشید احمد گنگوہی ص ۱۶ جلد ۲۔ لہذا اس منابطہ اور قاعدہ کے تحت جہاں اذان کے بعد اور دعائے وسید سے قبل اسے ناجائز کہا جائے تو اس کی نیت زیادہ مؤکد ہو کر درجہ و جوب تک پہنچ جائے گی کیونکہ وہ صریح حدیث کا انکار ہے اور بطورِ ثویب پڑھنے یا اذان سے پہلے پڑھنے سے مطلقاً منع کیا جاتا ہو تو وہاں بھی اس کا پڑھنا مستحب مؤکد ہو جائے گا کیونکہ کالا کھانا اگر بذاتِ خود علمائے دیوبند کے نزدیک مباح تھا مگر اہل سنت کی مخالفت میں کارِ ثواب بن گیا تو صلوات و سلام تو پہلے ہی اہم عبادت اور قربت تھا اور موجب سعادت اور باعث ترقی درجات اور حصول شفاعت تو اس کا استحباب مزید مؤکد ہو جائے گا اور یہ مقدر کی بات کہ کوئی صلوات و سلام بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر کے ثواب و درجات حاصل کرتا ہے اور کوئی کالے کوٹے کھا کر ہے

گلیہ نخت کسے کہ بافند سیاہ باب زمزم کو کثر سفید نتواں کرد

هَذَا مَا تَيْسَّرَ لِهَذَا الْعَبْدِ الضَّعِيفِ عَلَى سَبِيلِ الْإِرْتِجَالِ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْهُ الْكِرْمَاءُ وَأَهْلِيهِ الْبِرْمَاءُ التَّقِيُّ وَالنَّقِيُّ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِالْإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الْجَزَاءِ۔

ابوالحسنات محمد اشرف سیالوی



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب چھوہروی قدس سرہ العزیز کی صلوٰۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل عظیم ترین کتاب کے پڑھنے اور مطالعہ کرنے کا شرف حاصل ہوا اور ساتھ ہی ترجمہ کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔

یہ مقدس کتاب درود و صلوٰۃ پر مشتمل تمام تر کتابوں کا نسخہ جامعہ ہے اور ہر کتاب میں متفرق طور پر مذکور صلوٰۃ کو محیط ہے اور مؤلف مصروف نے صرف صلوٰۃ کے جمع کرتے پر ہی اکتفاء نہیں فرمایا بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول الخلق ہونے اور وجود لولہی کے لحاظ سے اول الموجودات ہونے کو انوکھے انداز میں بیان فرمایا، ولادت با سعادت کے روح پرور کیفیات اور حالات، اخلاق عالیہ اور صنعتیات کاملہ، اختصاصات و امتیازات، معجزات اور خوارق عادات، معراج شریف اور دیگر مدارج عالیہ کے بیانات سے بھی مزین فرما کر اس کو کتب سیرت اور کتب خصائص کا مجموعہ بنا دیا ہے۔

سید عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام شرع سے متعلق ارشادات کو اس میں درج کر کے اسے کتب کلامیہ اور کتب فقہ کا خلاصہ بنا دیا ہے۔ زہد اور فقر اختیار پر مشتمل فرمودات کو اس میں شامل فرما کر اسے کتب تصوف و خلاصہ بنا دیا ہے۔ انتہائی مشکل اور پیچیدہ عبارات اور عجیب و غریب تشبیہات اور استعارات درج فرما کر عربی ادب کا انقدر خزانہ بنا دیا ہے۔ مسائل تصوف کی باریکیوں اور اصطلاحی پیچیدگیوں کو دیکھ کر حضرت ابن عربی کا زنگ ڈھنگ نظر آتا ہے اور فلسفہ منطقی اور ریاضی کی اصطلاحات کے بے تکلف استعمال سے حکماء و فلاسفہ کا عقل دنگ معلوم ہوتا ہے۔

بایں ہمہ یہ معلوم کر کے کہ حضرت خواجہ محمد عبدالرحمن قدس سرہ العزیز اُمی تھے اور ایک دن بھی مدرسہ گئے نہ کسی کے سامنے زانوئے تلمذ نہ کیا زبان سے، بیباختہ اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔

دل چوں روشن شد کتاب و دفترے در کار نیست

آپ کی ذات اقدس میں عطاءِ اعلام اور ارباب حقیقت کے اس دعویٰ کی صداقت و حقانیت کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ تحصیل علم کے محتاج صرف وہ لوگ ہیں جو قوت قدسیہ سے محروم ہیں۔ جنہیں قیاض اقدس جل و علیٰ نے قدسی نفوس اور قوی سے بہرہ ور فرمادیا ہو اور اس نعمت سے مالا مال کر دیا ہو علوم اکتسابی ان کے سامنے دست بستہ حاضر رہتے ہیں اور معارف و حقائق ان کے سامنے محسوسات و مشاہدات کی صورت میں آ موجود ہونے ہیں اور معانی و مطالب اور اسرار و رموز جسمانی شکل و صورت میں ان کے پیش نظر ہوتے ہیں۔



حضرت علامہ محمد عبدالکبیر سیالکوٹی المعروف فاضل لاہوری نے اسی لیے فرمایا :

فان ما عرفه علماء الظواهر منها بافكاره قليل بالنسبة الى ما عرفه الاولياء - ماشية بضيادي  
صلا یعنی علمائے ظاہر کے علوم کی علامتیں باطن اور ارباب روحانیت کے علوم کے مقابل کوئی حیثیت نہیں بلکہ وہ اقل قلیل ہیں۔  
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رسمی علوم میں کامل دسترس حاصل کئے بغیر ولایت حاصل نہیں ہو سکتی، ان کی دلیل  
شہد کا ازالہ یہ ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " مَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا " اللہ تعالیٰ نے کسی

جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا اور غالباً اسی لیے حضرت سعدیؒ نے فرمایا ہے

پئے علم چون شمع باید گداخت

کہ بے علم نتوان خدا را شناخت

یعنی علم کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو شمع کی طرح پگھلانا چاہیے کیونکہ بے علم شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتا۔ لیکن اس کا مطلب  
یہ نہیں ہے کہ محض رسمی علوم پر اللہ تعالیٰ کا عرفان اور ولایت کا حصول موقوف ہے اور اس کے بعد ہی روح کی جلاہ اور آیتتہ  
قلب کی صفائی حاصل ہوتی ہے بلکہ جب عنایت ازلی شامل ہوتی ہے۔ اور میدہ فیاض کا بحر وجود کم جوش پر آتا ہے تو  
خوش بخت اور سعادتمند بندوں کے دل و دماغ اور قلوب و ارواح انوار الہیہ سے منور کر دئے جاتے ہیں اور انہیں خدائی علوم و  
ادراکات کا مظہر بنا دیا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے تقصیر الوہیت سے مجب العلوم و المعارف بنا کر جنات و ملائکہ پر  
علم میں قائل بنا دیا اور امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمّی ہونے کے باوجود ولی گر بنایا بلکہ انبیاء و رسل کا استاد اور مربی  
اور مرشد و رہبر بنایا اور ان کی شریعتوں پر نخط نسخ کھینچنے والا اور ان کی کتابوں کو منسوخ فرمانے والا ہے

یتیمے کہ ناکردہ قرآن درست

کتب خانہ چند ملت بشت

آپ صرف اپنی اُمت کے لیے کتاب و حکمت کے معلم نہ بنے بلکہ تمام انبیاء و رسل کے لیے بھی معلم حقائق و معارف بنے  
اور استاذ الاساتذہ اور استاذ الکل قرار پائے

نگار من کہ بکتاب زلفت و نخط نوشنت

بنمزمہ سئلہ آموز صد مدرس شد

لہذا اس میں تعجب اور اچھیے کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ عالم اسباب اور معمول و عادت جاریہ سے ہٹ کر کشمیر قدرت کا اظہار  
کرتے ہوئے اللہ رب العزت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل رسمی علوم کی تحصیل کے بغیر ہی بعض ازلی سعادتمندوں اور جہاں  
بختوں کو علم و حکمت اور عرفان کے خزانے عطا فرمائے اور انہیں حقائق آگاہ اور معارف پناہ اولیاء بناوے یعنی ولایت کا  
حصول ان علوم رسمہ کے حصول کے بعد ہو لیکن طریقہ حصول رسمی نہ ہو۔



آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری فیض صحبت سے جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فیوض و برکات اور معارف و حقائق کے خزانے حاصل کئے اور امی ہونے کے باوجود خلائق کے امام اور ہادی و رہبر بن گئے اور ولایت کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہو گئے اسی طرح آپ کے باطنی اور روحانی فیض صحبت سے اب تک اور قیام قیامت تک فیوض و برکات اور معارف و حقائق کے خزانے تقسیم ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اور کئی خوش نصیب اور جواں نجت آپ کی صفت اُمت کے مظہر بن کر خزان علوم و معارف اور مصدر فیوض و برکات بنے اور بنتے رہیں گے۔


حضرت خواجہ محمد عبدالرحمان صاحب قدس سرہ العزیز بھی انہیں مقدس طہنت، منزہ فطرت اور ارباب قولائے قدسہ میں سے ہیں اور آپ کی یہ عظیم کتاب آپ کے فیضانِ قدسی کا مظہر اتم ہے اور اُمت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لیے عظیم خزانہ فیض ہے اور سامانِ رشد و ہدایت۔ بلاشبہ یہ کتاب جہاں ہزاروں درودوں اور صلوات کا ذخیرہ و خزانہ ہے وہیں عقائد و اعمال اور اخلاق و عادات کی اصلاح کے لیے کتابِ رشد و ہدایت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ عالیہ اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب مقدسہ میں شرف قبولیت بخشے، مسترشدین و مستفیدین کو بالخصوص اور جملہ اہل اسلام کو بالعموم اس سے استفادہ و استفاضہ کی سعادت بخشے۔

وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ و ذریتہ و اولیاء امتہ اجمعین ط

احقر الخلائق

ابوالحنات محمد اشرف سیالوی کان اللہ





## مختصر حالات و کمالات

شہسوار عاشقان و سالار قافلہ محبوبان خواجہ نواجگان حضرت خواجہ عبدالرحمن  
صاحب چھوڑوی قدس اللہ سرہ العزیز

مصنف و مؤلف کتاب محیر العقول فی بیان اوصاف عقل العقول المسطی بہ

### مجموعہ صلوات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم

من چہ گویم وصف آن عالی جناب نیت پیمبر دے دار کتاب  
من چہ گویم شرح وصف آن جناب آفتاب است آفتاب است آفتاب

منبع معارف لدنیہ مخزن علوم البیہ واقف علوم شریعت مرشد طریقت کاشف اسرار حقیقت استاذ علوم تفصیلیہ  
امکانیہ و معلم حقائق و جوہرہ قدیمیہ ازلیہ اجمالیہ و مفسر معارف توحیدیہ و مبتین رموز حروف مقطعات قرآنیہ صاحب قوت  
روحانی عالم ربانی عارف لائمانی صاحب حکمت لیمان آصف ہذا الزمان خلیفہ شاہ جیلان فخر متاخرین بقیہ سلف صالحین متخلق  
باخلاق اللہ منصف باوصاف رسول اللہ نمونہ اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم مرکز عالم مولانا و مرشدنا  
دوسیلتنا فی الدارین خواجہ نواجگان جناب حضرت خواجہ عبدالرحمن صاحب چھوڑوی قدس اللہ سرہ العزیز۔ آپ علوی  
ہیں نسباً حقیقی ہیں مذہباً قادری ہیں مشرباً جائے ولادت موضع چھوڑ شریف ہے جو شہر ہری پور کے قریب ضلع ہزارہ  
صوبہ سرحد میں واقع ہے آپ کی عمر شریف تقریباً اسی سال کی تھی۔ حضور پرنور کا وصال نیم ذی الحج ۱۲۲۲ھ میں بروز  
شنبہ بعد نماز مغرب ہوا۔ حضور پرنور کے والد بزرگوار عالی تبار اپنے زمانہ کے فرائے انیار و اولیائے کبار میں سے تھے  
نوجوانی کی عمر میں رات کے وقت تنہائی میں کچھ گارہے تھے کہ یکایک ایک نہایت خوبصورت شخص عمدہ لباس پہنے ہوئے  
آپ کے پاس موجود ہوئے اور فرمانے لگے گانا سناؤ جب آپ گانا سنا چکے تو وہ شخص کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو

میں کون ہوں آپ نے عرض کیا میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں وہ فرمانے لگے میں حضرت ہوں تمہاری خوش آوازی کے سبب تمہارے پاس آیا ہوں۔ آئندہ بھی آیا کروں گا اس کے بعد حضرت حضرت علیہ السلام کے خاص ترجمہ و محبت کے سبب آپ مراجع فقر کو طے کر کے مقام غوثیت کبریٰ و ولایتِ عظمیٰ کے عالی مقام پر متمکن ہوئے حضرت حضرت علیہ السلام نے آپ کو حکم فرمایا کہ میں نے آپ کی تکمیل کر دی ہے مگر بیعت سنت ہے کسی بزرگ سے جا کر بیعت ہو جاؤ جب آپ اپنے ہادی طریقت سے بیعت ہو گئے تو وہ ہیں قیام پذیر ہوئے اپنے مرشد کے ساتھ جب کبھی آپ تفریح کے واسطے بوقتِ عصر یا بوقتِ صبح نکلتے تو دونوں برابر ہو کر چلتے ایک دن کسی نے پیر و مرشد قدس اللہ سرہ العزیز سے پوچھا کہ حضرت ضلع ہزارہ کے درویش کے ساتھ جب آپ سیر کو نکلتے ہیں تو دونوں برابر چلتے ہیں نہ وہ آگے ہوتے ہیں نہ آپ آگے ہوتے ہیں حضور والا نے فرمایا کہ یہ درویش اس وقت کا غوثِ اعظم ہے اس واسطے ادا میں ان کے آگے نہیں چل سکتا ہوں اور یہ اس واسطے آگے نہیں ہوتے ہیں کہ خوش قسمتی سے میں ان کا پیر بن گیا ہوں اس لیے آپ کا لقب حضرتی تھا۔ آپ کے درویش کا یہ حال تھا کہ سینہ تلے کینہ میں سات زخم ہو گئے تھے روزانہ ہلدی کو گھی میں تل کر ان زخموں پر پھایا لگایا جاتا ہر باری کے ایام میں عشا کی نماز پڑھ کر اپنے نہایت نرم و گرم بسترے میں آپ آرام فرماتے اور ہمیشہ عشاء کے وقت سے صبح کی نماز ادا فرماتے خدا جانے کیا چیز تھی جو نیند سے مانع تھی۔

اے مرغِ سحر عشق ز پر و اندہ بیاموز      کاں سوختہ را جاں شد و آواز نیامد  
این مدعیان در طلبش بیخیر اند      کاں را کہ خبر شد خبرش باز نیامد

آپ اُمّی تھے جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا اگر معلوم ہوتا بتا دیتے اگر نہ معلوم ہوتا فرماتے تھوڑا صبر کرو میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے جواب دہل گا آنکھیں بند نہ کرتے مراقب نہ ہوتے تھوڑی دیر کے بعد فرماتے میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کر لیا ہے ایسا نہیں ایسا ہے جب حضور کے فرزند ارجمند حضرت خواجہ عبدالرحمان صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی عمر شریف آٹھ سال کی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ایک میان میں دو ٹواریں نہیں آسکتیں اب اپنا وقت آگیا۔ آپ کے کمالات ظاہری و باطنی اور کرامات و خرق عادات لا تعداد و حد شمار سے باہر ہیں مشتمل نمونہ از خرد اس تھوڑے سے بیان حال شیریں مقال پر اتفا کر کے اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جب حضور پر نور حضرت خواجہ عبدالرحمان صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی عمر شریف تقریباً آٹھ سال کی ہوئی آپ کے والد بزرگوار عالی مقدار حضرت خواجہ حضرتی قدس اللہ سرہ العزیز دار فانی سے تشریف فرمائے عالم جاودانی ہوئے تو اسی خرد سالی دنیا باطنی کی حالت میں آپ نے چلہ کا ارادہ فرمایا آپ نے مکان میں دریافت فرمایا

کہ میری خدمت کون کرے گا قریبی رشتہ داروں میں سے کسی نے وعدہ کیا کہ آپ کی خدمت میں کروں گا آپ نے فرمایا میرے پاس ایک برتن رکھ دو چنانچہ روزانہ وقت مقررہ پر آپ اپنے منہ مبارک کو اس برتن کی طرف جھکا کر خون نئے کر لیتے کھانا پینا بند تھا ہر روز آلائشاتِ عناصر لبعہ و مکدرات قرآسیہ و ثقالت و کثافت جسمانی کا اخراج بذریعہ خون تھے کے فرماتے کچھ ایام تک خون آتا رہا جب بدن مبارک میں خون خلاص ہو گیا تو تھے میں پانی آنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ چالیس دن پورے ہو گئے یوں بھی آپ گناہوں سے پاک نابالغ و معصوم بچے تھے اسپر اس غضب کا چلہ کہ اولیاء اللہ میں نہ کسی نے ایسا چلہ کیا نہ سنا اس ریاضتِ شاقہ کے ذریعہ سے جسمِ عنصری کی ثقالت و کثافت و اخلاقِ بہیمیہ کے ظلمات من کل الوجوه مستملک و محو ہو کر لطافتِ کلی و روحانیتِ تامہ نصیب ہوئی:

اس چلہ کے بعد جب بدن مبارک میں قوت آئی تو آپ حضرت انون صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سوات تشریف لے گئے حضرت انون صاحب قدس اللہ سرہ العزیز اپنے زمانہ میں خاندانِ قادریہ کے اولیائے کبار میں سے تھے جب آپ بمعیت چند رفقا سید و شریف حضرت انون صاحب کے دربار گئے میں پیچھے خلق اللہ کا ہجوم و ازدحام دیکھ کر آپ کے رفقاء طریقی کہنے لگے کہ اس محبوب کی ملاقات غیر ممکن ہے پٹھان لوگ اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں مگر مار کھا کھا کر محروم واپس کئے جاتے ہیں جب یہ لوگ اس محبوب کے دیدار سے محروم ہیں تو ہم لوگ کس گنتی میں ہیں بہتر یہ ہے کہ صبح سویرے بلا ملاقات و دیدار محروم واپس مکان چلے جاویں حضور پر نور نے اپنے ہمراہیوں کے مشورہ کو قبول فرمایا رات گزر گئی بوقت صبح ان سب نے تقاضا شروع کیا کہ صاحب زادہ صاحب اپنے وعدہ کو پورا فرمائیے اور چلئے واپس مکان چلیں۔

دور سے آئے تھے ساتی سن کے میخانے کو ہم

بس ترستے ہی چلے افسوس پیمانے کو ہم

حضور پر نور نے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا کہ تھوڑا صبر کرو حضرت انون صاحب چاشت کے وقت اپنی مسجد کی اونچی بیڑھی پر بیٹھ کر دور سے اپنا دیدار خلق اللہ کو دکھائیے گے ہم لوگ بھی دور سے اس محبوب کو ایک نظر دیکھ کر چلے جائیں گے بوقت چاشت حضرت انون صاحب کے خادم نے آپ کے خلوت خانہ کا دروازہ کھولا آپ نے اس کو حکم فرمایا کہ باہر جا کر ان مسافروں میں ضلع ہزارہ کا ایک شخص ہوگا تلاش کر کے اس کو میرے پاس لے آؤ اس خادم نے باہر جا کر باؤاز بلند پکارا کہ ضلع ہزارہ کا کوئی شخص ہے صاحب نے یاد فرمایا ہے چونکہ خلق اللہ کا ہجوم تھا۔ خادمانِ انون صاحب ہر چہا طرف شور مچانے لگے اس درّتیہم کے ہمراہیوں نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آپ فرمادیں کہ میں

ہوں ضلع ہزارہ کا باشندہ حضور پر نور نے فرمایا ضلع ہزارہ کے بہت لوگ یہاں ہوں گے ہم کس گنتی میں ہیں جس کو حضرت انون صاحب طلب کرتے ہیں آپ ڈھونڈ لیں گے ہم اپنے منہ سے کچھ نہ کہیں گے..... تلاش کرتے کرتے خادمان انون صاحب قدس اللہ سرہ العزیز غصہ ہونے لگے کہ جس شخص کو صاحب نے یاد فرمایا ہے وہ اپنے کو ظاہر کیوں نہیں کرتے حضور پر نور کے رفقاء میں سے ایک نے اشارہ سے بتایا کہ یہ بچہ ضلع ہزارہ کا باشندہ ہے خادمان انون صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور پر نور قدس اللہ سرہ العزیز کو گود میں اٹھا کر حضرت انون صاحب کے خلوت خانہ میں لے گئے حضرت انون صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس آفتابِ ولایت کو دیکھا تو ہوش میں آ کر فرمانے لگے دغہ دی دغہ دی دغہ دی اپنی پشتوزبان میں تین بار فرمایا یہی ہے یہی ہے یہی ہے جس کو میں تلاش کرتا ہوں جب ہمارا دریکتا نوٹ ہر دوسرا یتیم بچہ حضرت انون صاحب کے روبرو رونق افروز ہوئے تو حضرت انون صاحب نے فرمایا کہ اے یتیم دعا کرو حضور فرماتے ہیں کہ جب انون صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھائے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ساتوں آسمان کا بوجھ میرے اوپر آ گیا ہے اور جب دعا سے فارغ ہوئے تو وہ بوجھ وسعت و فرحت انساٹ کے ساتھ بدل دیا گیا ہے

یک زمانہ صحبتے با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا  
گر تو خواہی ہمیشہ بینی باندا گونشین اندر حضور اولیاء  
چشم روشن کن ز خاک اولیاء تا بہ بینی ترا ابتداء تا انتہا

حضرت انون صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ رات کو خواب میں کچھ دیکھا ہے آپ نے فرمایا جس مقام پر چلے کیا کرتا ہوں وہ جگہ دیکھی ہے حضرت انون صاحب نے فرمایا کہ اسی جگہ میں جا کر قیام پذیر ہو جائے کہیں مت جائیئے آپ کے پیر صاحب آپ کے مکان پر آکر مرید فرمائیں گے پھر آپ حضرت انون صاحب رخصت ہو کر اپنے مکان پر تشریف لائے اور اپنے خلوت خانہ میں بیٹھ کر یادِ خدا میں مشغول ہوئے کچھ ایام کے بعد حضور پر نور شہنشاہِ ولایت مرشد برحق نور مطلق جناب مولانا دوسیلتنا فی الدارین حضرت یعقوب شاہ صاحب گن چھتری قدس اللہ سرہ العزیز ملک کشمیر سے ضلع ہزارہ رونق افروز ہوئے خاص مقام چھوہر میں تشریف لاکر وہاں کے باشندے سے دریافت فرمایا کہ تمہارے گاؤں میں کوئی کم سن بچہ عبدالرحمن نام ہے لوگ آپ کو آپ کے فرزند ارجمند کے عبادت خانہ میں لے گئے آپ کو جب خبر ہوئی اپنے ہادی اپنے مرشد کے استقبال کے لیے آگے بڑھے بعد اس کے حضرت شاہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز آپ کو آپ کے خلوت خانہ میں لے جا کر بیعت فرمائی اور حضور نے بے حد مہربانیاں

اپنے دیکنا و گوہر بے بہا فرزند ارجند کے حال پر مبذول فرمائی۔ حضور پرنور حضرت خواجہ عبدالرحمن صاحب قدس اللہ سرہ العزیز اُمّی تھے فقط قرآن پاک آپ نے اُستاد سے پڑھا تھا باقی علوم مروجہ علم حدیث تفسیر فقہ اصول منطق وغیرہ علوم آپ نے کسی اُستاد سے نہیں سیکھے نہ خطا آپ نے کسی سے سیکھا تھا آپ نابالغ کم عمر تھے کہ اپنے والد بزرگوار حضرت خواجہ حضری صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے جانشین ہو کر مقام غوثیت کبریٰ و قطبیت علیا پر متمکن ہوئے حضرت خواجہ عبدالرحمن صاحب قدس اللہ سرہ العزیز سے آپ کے مرض الموت میں کسی شخص نے دریافت کیا کہ قطب عالم یعنی غوث اعظم اس وقت کا کون شخص ہے آپ نے فرمایا حضور پرنور شاہ جیلان رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی شخص اس مرتبہ علیا کا دنیا میں نہیں آیا آپ کی جگہ خالی رہی زمانہ دراز کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا کم سنی میں وہ لڑکا یتیم ہو گیا وہ اسی حالت یتیمی و کم سنی میں شاہنشاہ اکوان شاہ جیلان سیدنا و سید کل حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا حقیقی جانشین ہوا اور ابھی تک وہی شخص مدبر و منصرف و غوث عالم ہے۔ حضور پرنور نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا کہ غوثیت کبریٰ خاندان قادریہ کے ساتھ مخصوص ہے اگر خاندان قادریہ میں کوئی شخص اس لائق نہ نکلتا تو دوسرے خاندان میں سے غوث اعظم لیا جاتا ہے حضور پرنور نے یہ بھی فرمایا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہماری نالائقی کے سبب ہمارے گھر کی چیز دوسروں کو دی جائے۔

ایک مجلس پاک میں حضور پرنور نے فرمایا کہ میں نے اللہ پاک سے دُعا مانگی ہے کہ جب تک میں دنیا میں رہوں مجھے کوئی نہ پہچانے نیز جو لوگ میرے پاس آویں مساکین، فقراء و علمائے دین ہوں امراد و اہلبیاء پر میرے یہاں کا دروازہ بند ہو پھر حضور پرنور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری دُعا کو قبول فرمایا ہے ایک صاحب طریقت نے ایک مرتبہ حضور پرنور کو فرمایا کہ آپ کے ہمان زیادہ آئے ہیں اور آمدنی کم ہے میں آپ کو فلاں وظیفہ کی اجازت دیتا ہوں اس کے پڑھنے سے آمدنی زیادہ ہوگی آپ چپ رہے حضرت پیر صاحب نے مکرر کہہ کر اپنے خیال کا اظہار فرمایا تو حضور پرنور نے فرمایا کہ پیر صاحب خدا سے شرم آتی ہے کہ باہر سے لوگ پیر خیال کر کے آویں اور اندر بیسیوں کے لیے وظیفہ پڑھا جاوے حضور پرنور کم سخن تھے لاف زنی و اظہار مشینت اور کثرت کلام سے متنفر تھے مگر جب کچھ کلام فرماتے مخاطب کا خیال کر کے نہایت شیریں و لذیذ پیرایہ میں سلسلہ کلام کو جاری رکھتے۔ اثنائے کلام میں تضحیح و مبالغہ نہ فرماتے مدعیان فقر کی طرح جوش و خروش کے کلمات زبان پاک پر کبھی نہ لاتے منطق و فلسفہ کے پیچیدہ مسائل میں ایک عالم پریشان تھے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ان مسائل کا حل فرمایا جائے حضور پرنور نے نہایت سادہ و سہل طریقہ سے ان کے شکوک کو رفع فرمایا اور مولوی صاحب کو کہہ دیا کہ میری تقریر کا حال کسی کو نہ کہتا۔ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ



مرید جب خواب میں اپنے مرشد کو اس طور پر دیکھے کہ وہ مجھے کچھ ہدایت فرما رہے ہیں تو پیر کو بھی اس خواب کی خبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی حضور نے فرمایا ہر پیر کو نہیں ہوتی بلکہ اس پیر کو خبر ہوتی ہے جس کو اللہ پاک علوم اولین و آخرین عطا کر دیتا ہے حضور پر نورؐ نماز اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس پاک میں ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ مشہور ہے اولیاء اللہؑ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہمیشہ بیت اللہ میں نماز ادا کرتے ہیں یہ بات صحیح ہے آپ نے فرمایا جہانِ حاضری کمال ہے نہ کہ روحانی حضور آپ کی مراد یہ تھی کہ جسم عنصری کا حضور بوقت صلوات خمسہ اماکن مقدسہ میں قابلِ اختیار ہے صرف روحانی حاضری معمولی بات ہے حضور پر نورؐ متصرف و مدبرِ عالم تھے کتاب "مُحِبُّ الْعُقُولِ فِي بَيَانِ كَمَالَاتِ عَقْلِ الْعُقُولِ الْمُسْتَمْتَعَةِ بِجَمْعِهِ صَلَوَاتُ الرَّسُولِ" میں آپ نے اپنے تصرفات و تدابیرِ عالم اجسام و عالم ارواح کو مختلف طرق سے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے علمائے حقانی و فرائی ربانی جب اس کتاب کو نظر غور سے مطالعہ فرمائیں تو حضور والا کے کمالات خود ان پر ظاہر ہو جائیں گے آپ کے تصرفات میں بڑی خوبی یہ ہے کہ فطرت اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہیں جذبات و جلالیت سے محفوظ ہیں ربوبیت و رحمانیت کے رنگ میں آپ کے تصرفات مصبوغ ہیں "صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً" آپ کے تصرفات میں فیومیتِ تامہ کا فرما ہے میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ ولی کا آخری درجہ "تَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ" ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ولی کا آخری مقام قدرت کا ملکہ ہے مَا يَزِيدُنِي عِلْمًا ۛ

اے برادر بے نہایت درگہدیت

ہر چہ بروسی بروسی مالیت

یہ بات میں سابق ہی عرض کر چکا حضور پر نورؐ شاہنشاہ چھوڑی اپنے کمالات کو چھپاتے تھے اس بارہ میں اللہ پاک نے آپ کو ایسا ملکہ عطا کیا تھا کہ آپ کا ورد آپ کا عشق آپ کا عرفان آپ کے کمالات ظاہری و باطنی میں من کل الوجہ پردہ اخفایں رہے اپنی زبان مبارک سے کبھی نہیں فرمایا کہ میں کچھ جانتا ہوں اولیاء اللہ کی عادت ہوتی ہے کہ احیانا جذبہ میں آکر کچھ نہ کچھ زبان سے کہہ دیتے ہیں دُعا یا بد دُعا کر دیتے ہیں جس سے ان کے جذبات و کمالات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور مخلوق ان کی معتقد ہو جاتی ہے۔ مگر حضور پر نورؐ اپنے افعال اپنے صفات اپنے جذبات اور اپنے تمام کمالات کے اظہار و عدم اظہار پر قدرتِ تامہ رکھتے تھے ۛ

تو مباح اصل کمال این است و بس تو دروگم شود وصال این است و بس

تا توئی کے یار گردد یار تو چون نباشی یار باشد یار تو

گشت واصل چون بدربا آب جو آب جو راباز از دریا مجھے  
اکثر اوقات آپ فرماتے میں اُمی ہوں جب ہر کوئی شخص آپ سے مسئلہ دریافت کرتا آپ مسکراتے ہوئے  
فرماتے میں نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں کسی عالم سے دریافت کر لو۔ یہ کتاب محیر العقول فی بیان اوصاف عقل العقول برسوں  
سے تیار ہو چکی تھی مگر حضور نے اپنی زندگی میں اس کو چھپانے رکھا ایام وصال آپ کے جب قریب پہنچے تو مجھے بذریعہ  
خط کے حکم فرمایا کہ میں نے ایک کتاب مجموعہ صلوات الرسول تالیف کی ہے جو بخاری کے طرز پر تیس پاروں پر مشتمل ہے  
ہر پارہ قرآن شریف کے پاروں سے کچھ بڑا ہے اگر ممکن ہو تو تم وہاں کے لوگوں سے چندہ کر کے اس کتاب کو چھپوا دو  
تاکہ خلق اللہ کو اس سے فائدہ ہو مخلصہ یہ کہ آپ نے اپنے کمالات کوتا حین حیات پوشیدہ رکھا اور اس اخفائے راز  
میں کمال فراست سے کام لیا لوگ انہما کمالات کے لیے طرح طرح کے مروفن کرتے ہیں اور میرے محبوب نے  
اپنے حسن و جمال اور اپنے کمالات کے ارتقا کے لیے طرح طرح کے مروفیلے ایجاد فرمائے وَمَكْرُودًا وَمَكْرًا لِّلَّهِ وَ  
اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۝

من چہ گویم یک رگم ہشیا ز نیست شرح آل یاسے کا اور یا ز نیست  
شرح ایں ہجر ایں خون بگر ایں زماں بگذارتا وقت دگر

آپ کے اخلاق نمونہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نشست و برخاست اکل و شرب لباس وغیرہ  
تمام امور میں پوری اتباع سنت ملحوظ رہتی حدیث کی کتابیں زیر مطالعہ ہوتیں جو جو کام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے  
کئے ہیں وہ تمام مستحبات آپ نے ادا کئے ہیں ایک مرتبہ آپ کتاب دیکھ رہے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم  
نے مسجد کی چٹائی سیکر درست فرمائی ہے آپ بھی کتاب چھوڑ کر اپنی مسجد کی چٹائی سی رہے تھے کہ اوپر سے ایک  
بزرگ شاہ ولی بابا تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اٹھو ہمیں اندر سے مکھن لا دو حضور نے چٹائی سینے میں کچھ دیر  
لگائی تر شاہ ولی بابا بر جستمہ فرمانے لگے کہ تمام چٹائی کا سینا سنت نہیں ہے سنت ادا ہو گئی اٹھو مکھن لا دو مجھے  
دیر ہوتی ہے حضور نے فرمایا مجھے شاہ ولی بابا کی صفائی پر نہیں آگئی اور اندر جا کر ان کے لیے مکھن لے آیا حضور پر نور  
شاہنشاہ ولایت کے رہنے کا مکان کچا تھا۔ جس کی دیواریں جا بجا گرمی ہوئی تھیں چھت کا یہ حال تھا کہ ایام بارش  
میں باہر پانی کم ہوتا اور اندر مکان پانی سے بھر جانارات کو گھر کے لوگ سوئے رہتے اور آپ اندر کا پانی برتن میں بھر  
بھر کر باہر پھینکتے۔

علماء فقراء اور اپنے ممانوں کی خدمت اپنے دست مبارک سے کیا کرتے تھے جب گھر میں روٹی تیار ہو جاتی

مسجد سے گھر میں جا کر مہمانوں کے لیے ایک دست مبارک میں تزکاری کا برتن اور دوسرے میں روٹی اٹھا کر لے آتے اور جو تزکاری روٹی مسافر کھاتے خود بھی تناول فرماتے رات کی بچی ہوئی روٹی اگر مل جاتی تو نہایت خوشی کے ساتھ تناول فرمایلتے اور تازہ روٹی کی طرف التفات نہ فرماتے اور جو کچھ تیار ہوتا مہمانوں کے سامنے رکھ دیتے جیسا اس وقت کے پیر لوگ اپنے لنگہ کو نہایت دھوم دھام اور تکلیف کے ساتھ دیا کرتے ہیں حضور پر نور کے یہاں ان باتوں کا نام و نشان بھی نہ تھا شہرت طلبی سے آپ بیزار تھے۔ الْفَقْرُ فَخْرِي كَابُورٍ لِّوَرَامُونَ تَحْتِي رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَبِمُرَشِدِي هَادِيًّا مَهْدِيًّا طالب علموں کے ساتھ آپ کو دلی محبت تھی حضور پر نور قدس اللہ سرہ العزیز کے مدرسہ اسلامیہ ہری پور کے طلباء کے لیے لنگر سے روٹی جایا کرتی تھی ایک مرتبہ عشاء کے وقت ایسی زور کی بارش برسے گی کہ گھر سے باہر نکلنا دشوار تھا خانقاہ شریف میں جو لوگ موجود تھے آپ نے ان کو فرمایا کہ مدرسہ میں روٹی لے جاؤ مگر کسی کو ہمت نہیں ہوئی آپ نے جب دیکھا کہ مدرسہ میں طلباء بھوکے ہوں گے یہ لوگ بھی نہیں جاتے ہیں تو خود روٹی تزکاری لے کر مدرسہ شریف لے چلے مدرسہ اسلامیہ خانقاہ شریف سے ایک میل سے زیادہ فاصلہ پر ہے رات اندھیری بارش نہایت زوروں پر تھی راستہ میں ایک گہرا نالہ پانی کا آتا ہے جو نہایت دشوار گزار جگہ ہے جب حضور پر نور وہاں پر پہنچے اوپر سے نالے کے اندر گر پڑے تمام کپڑے پانی اور کچھڑ میں خراب ہو گئے روٹی تزکاری پانی میں بہ گئی آپ اس حالت میں واپس تشریف لائے اس زمانہ کے پیروں مریدوں میں جو بدعات و خرافات مروج ہو گئی ہیں حضور پر نور کے یہاں ان مختصر عادت خلاف شرع کا نام و نشان تک نہ تھا وہاں کے غیر مقلدین امتحاناً حضور کے یہاں ہفتہ ہفتہ تک اس خیال سے مقیم رہتے کہ دیکھیں پر شخص سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ کا پاجامہ نصف ساق تک ہوتا کرتا لمباٹن کھلا ہوتا عموماً موٹا کھدر پہنتے

حضور پر نور نے دو چیزوں سے توبہ کر لی تھی ایک کشف سے دوسری اپنی ضروریات زندگی کے خیال سے ایک مرتبہ حضور پر نور مَتَوَكَّلْ بِاللّٰهِ نے گھر میں کہہ دیا کہ میرے واسطے دوہری چادر سیاہ رنگ کی بنا دو یہ فرما کر گھر سے باہر تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد پھر گھر میں تشریف لائے اور گھر میں منع فرما دیا کہ میرے واسطے چادر مت بناؤ دوسرے دن ایک شخص آیا اُس نے سوت لاکر دیارنگائی اور بنوائی کے پیسے بھی حضور کو دیئے اور عرض کرنے لگا کہ میں کہیں باہر جاتا ہوں آپ اپنے لیے دوہری چادر تیار کروا لیجئے کہ سردی کے دن قریب آگئے ہیں حضور فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی ہے کہ اپنے لیے کسی چیز کا خیال بھی نہ کروں گا اس روز سے

اللہ پاک سرما کے کپڑے موسم سرد میں اور گرما کے کپڑے موسم گرم میں بلا خیال و طلب عنایت کر دیتا ہے حضور فرماتے ہیں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ایک شخص آیا اور غسل کیا جب فارغ ہوا تو میں نے اس کو کہا تم نے زنا کیا ہے اول تو منکر ہوا جب میں نے اس کو پکڑا تو زنا کا اقرار کیا اور معافی مانگنے لگا میں نے دل میں خیال کیا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہ دیکھ کر پردہ پوشی فرماتا ہے اور میں صاحب کشف ہوا تو خلق اللہ کی پردہ دری کرتا ہوں اس روز سے کشف سے بھی توبہ کر لی ہے

آپ متواضع تھے نہایت خلیق و حلیم اور نہایت درجہ کے بردبار و خاکسار تھے محب و جلیس فقراء تھے علماء و فقراء جب آپ کے مجلس پاک میں حاضر ہوتے تعظیماً کھڑے ہو جاتے آپ کی نشست گاہ میں کوئی فرش فروش کا سامان نہ تھا نہ آپ کے ملاقات کے لیے کوئی وقت مقرر تھا نہ آپ کے یہاں کوئی پر تکلف مکان تھا اکثر آپ کا قیام مسجد میں ہوتا ضرورت کے وقت مکان میں بھی تشریف لے جاتے خلق اللہ کے ہجوم سے یا خلاف طبع کوئی بات ہو جاتی تھا نہ ہوتے مگر ایک مرتبہ بہت تھا ہوئے حضرت صاحبزادہ ذی شان جناب حاجی محمد فضل سبحان صاحب نے کسی کے سکھانے سے حضور پر نور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آپ کے بعد آپ کا گدی نشین کون ہو گا حضور پر نور نہایت غضب ناک ہو کر فرمانے لگے گدی پر تو گدھے بیٹھے ہیں ہم چٹائی پر بیٹھنے والے ہیں۔ آپ کا قدم مبارک قدرے چھوٹا تھا دست و قدم مبارک اور ان پر انگلیاں چھوٹی چھوٹی تھیں سینہ پاک از کینہ وسیع و مضبوط تھا چہرہ مبارک خوبصورت تھا بالکل بے نمک سفید اور نہ سانولا تھا بلکہ گندم گوں و ملاحظت آمیز تھا آنکھیں بہت خوبصورت تھیں ہر وقت مست اور رخسار بھری ہوئی لال ڈوریوں سے مزین رہا کرتی تھیں داڑھی مبارک نہایت گھنی و گنجان اور گول تھی سفید اور نہایت خوبصورت تھی ۷

قامت است ای یا الف یا سر و یا نخل مراد یا مگر گلدستہ باغ جناں آراست این

چشم تو جادوست یا آہوست یا صیاد خلق یا دو بادام سیر یا زگرش شہلاست این

اگر کسی کو شوق ہو کہ حضور پر نور کے جسم الطف و الطہر کو بعد وصال دنیا میں پھر ملاحظہ کرے تو اس کو چاہیے کہ شاہزادہ ذی شان حضرت مولانا و مرشدنا فضل الرحمان صاحب عرف چن پیر مدظلہ العالی کو دیکھ لے گویا ہو بہ ہو حضور پر نور مرکز عالم غوث اعظم کو دیکھ لیا۔ اللہ پاک اس مکمل شبیہ اَلْوَلَدِ سِرِّ الْاَبِيہ کو عمر دراز عطا فرماوے آمین گذشتہ سال جب میں وطن کو گیا حضور پر نور کے وصال کو ایک مہینہ ہو چکا تھا دربار گھر بار میں مریدین و غلصین جمع تھے ایک شخص میرے قریب زور رہا تھا انہوں نے مجھ سے دریافت کیا تم کہاں سے آئے ہو میں نے کہا رنگون سے آیا ہوں

وہ اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ اس درخت کو جب دیکھتا ہوں مجھے روتا آجاتا ہے میں نے سبب دریافت کیا تو وہ ذیل کا قصہ فرماتے لگے کہ حضور پُر نور منصرفِ عالم قدس اللہ سرہ العزیز نے ایک مرتبہ مجھ کو بلا کر حکم فرمایا کہ تم میری طرف سے تحائف و ہدایا لے کر حج بیت اللہ و زیارتِ روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاؤ اور یہ اشیاء وہاں پر فلاں فلاں لوگوں کو دے دو میں حیران ہوا کہ خداوند ایہ کام مجھ سے کیوں کر سرانجام ہوگا میں تو بہت سوتا ہوں مجھے کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے جب بھی بیدار نہیں ہوتا ہوں یہ تو دور دراز کا سفر ہے مگر آپ کے سامنے انکار نہ کر سکا حضور پُر نور نے سفر کا سامان تیار کر کے مجھے رخصت کرنے کے لیے چند قدم رنجہ فرمائے جب اس توت کے درخت کے پاس حضور پہنچے تو اس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ اے توت تو اس شخص کی نیند کو اپنے پاس امانت رکھ لو پھر آپ نے میرے لیے دُعا فرمائی میں آپ سے رخصت ہو کر حسن ابدال ریلوے اسٹیشن پر پہنچا وہاں سے بمبئی کا ٹکٹ لیاریل پر سوار ہو کر بمبئی پہنچا سفر ریل میں اونگنی آجاتی جس سے میری طبیعت آسودہ ہو جاتی مگر یہ اونگنی دو تین منٹ سے زیادہ نہ ہوتی بمبئی سے جہاز پر سوار ہو کر جدہ مکرمہ پہنچا جدہ سے مکہ معظمہ بیت اللہ شریف میں تمام ضروریات سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچا روضہ اقدس میں چند ایام قیام کر کے آپ کے تحائف لوگوں کو دے کر واپس بیت اللہ شریف سے جدہ پہنچا ان چند مہینوں کے سفر میں میری نیند مفقود تھی خلاصہ یہ کہ جدہ سے بمبئی بمبئی سے آستانہ پاک چھوڑ کر بیت اللہ شریف پہنچا جب حضور سے ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا تم نے اپنی امانت لے لی اتنا فرمانا تھا کہ مجھے نیند نے پکڑا مسجد میں جا کر سو گیا نیند کے غلبہ سے چند وقت کی نماز قضا ہو گئی آدھی رات کو حضور نے اُن کو جگا یا کہ اٹھو روٹی کھا کر پھر سو جاؤ اس سے معلوم ہوا کہ غیر ذوی العقول اور نباتات وغیرہ مخلوقات بھی آپ کے تصرف میں منسلک تھے

احمد الدین برادر یوسف مرحوم ترکان سکنتہ چھوہر نے ایک مرتبہ حضور پُر نور کے سفر حج کا عجیب و غریب قصہ میرے سامنے بیان کیا وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں اور ایک پیر صاحب سفر حج میں ایک ساتھ ہو گئے عرب شریف جب پہنچے تو ایک درویش نے ہم دونوں کے پاس آکر فریاد کی کہ میں فلاں گاؤں میں رہتا ہوں اور میری عادت ستار بجانے کی ہے میرے گاؤں میں ایک عالم رہتے ہیں انہوں نے مجھ پر کفر کا فتویٰ دے دیا ہے آپ دونوں مہربانی کر کے میرے ساتھ تشریف لے چلیں اور اس عالم کو سمجھا دیں کہ مجھے کافر نہ کہیں میں ان کے اس فتویٰ سے بہت تنگ ہوں میں اور پیر صاحب دونوں درویش صاحب کے ساتھ ہو کر ان کے گاؤں میں عالم صاحب کے مکان پر پہنچے عالم صاحب سے پیر صاحب نے دریافت کیا کہ آپ نے اس درویش پر کفر کا فتویٰ کیوں دیا ہے عالم نے فرمایا یہ ستار بجاتے ہیں اس واسطے میں نے ان پر کفر کا فتویٰ دیا ہے پیر صاحب نے چاہا کہ درویش صاحب کو ستار بجاتے سے روک دیں اور عالم صاحب اپنا



فتویٰ واپس لے لیں حضور فرماتے ہیں میں نے پیر صاحب سے کہہ دیا کہ آپ فی الحال ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں جب ہم لوگ واپس آجائیں گے تب ان کا فیصلہ کیا جائے گا حضور فرماتے ہیں جب ہم دونوں واپس آگئے تو میں نے پیر صاحب کو یاد دلایا کہ عالم اور درویش کا فیصلہ دونوں کو سنانا باقی ہے ان کے گاؤں میں چلیے ہم دونوں درویش کے گاؤں میں مولوی صاحب مفتی کے درس گاہ میں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ گرداگرد طلباء ہیں درمیان میں مولوی صاحب تشریف فرما ہیں گو دین ستارہ سے نہایت ذوق شوق سے ستارہ بجا رہے ہیں۔ ہم دونوں کو دور سے دیکھ کر ستارہ بجاتے ہوئے تعظیماً کھڑے ہو گئے میں خاموش تھا پیر صاحب نے مولوی صاحب سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا حال ہے آپ کا آپ تو ستارہ بجانے کو کفر کرتے ہیں اور آج خود اس کفر میں مبتلا ہو گئے عالم صاحب نے فرمایا آپ دونوں میں سے کسی کی برکت سے یہ نعمت مجھے نصیب ہوئی دعا کرو جب تک زندہ رہوں ستارہ بجاتا رہوں جب مروں ستارہ بجاتے مروں قیامت کے دن جب اللہ پاک کے سامنے جاؤں ستارہ بجاتے جاؤں پیر صاحب نے حضور سے فرمایا کہ تقیر صاحب آپ نے یہ کیا کھیل بنایا حضور نے فرمایا آپ نے کچھ کیا ہوگا پیر صاحب نے فرمایا میں جو کچھ ہوں خوب جانتا ہوں بتائیے اصلی قصہ کیا ہے تب حضور نے فرمایا کہ جب آپ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہا کہ درویش صاحب ستارہ بجانا چھوڑ دیں اور عالم صاحب اپنا فتویٰ کفریہ واپس لے لیں تو درویش صاحب جب آپ کے ساتھ وعدہ کر لیتے کہ میں ستارہ بجاؤں گا وہ تو وعدہ خلافی کبھی نہ کرتے مگر ستارہ بجانا ان کے لیے بمنزلہ حیات و غذائے روح کے بن گیا ہے اس لیے وقت مقررہ پر اگر ان کو اپنی غذا نہ ملتی اسی وقت مر جاتے اور ان کا خون آپ کی گردن پر ہوتا تو میں نے چاہا کہ آپ خون سے بچ جائیں اور مولوی صاحب جو اپنے علم پر نازاں و فرماں ہو کر دردمندوں کو کافر کہتے ہیں ان کو بھی درد سے آشنا کر دیا جاوے مصرعہ چہ خوش بود کہ برآید بیک کرشمہ دو کار سے

ب۔ بے درد کی جان ہیرے درد منداں دیاں آپہں بھڑکن بھائیں

با جوں درد دیدار نہ حاصل بن درداں کچھ ناہیں سمجھ کدائیں

الْعَشْقُ نَأْمٌ يُحْرِقُ مَا سِوَى اللَّهِ عَشْقٌ جَنْگِیرَاتَا مِیں ہر دم چاہیں

لگا نہ ہوں نہ توڑیں بہیل جو ہر سال بنا ہیں عشق تدا ہیں

۵ بہار آئی ہے بھرے باوہ گلگوں سے پیمانہ

رہے لاکھوں برس ساتی تیرا آباد میمانہ

اس قصہ سے معلوم ہوا کہ آپ میں جذبات و تصرفات خضر علیہ السلام جلوہ گر تھے جس شخص میں جو کیفیت پیدا

کرنا چاہتے اور توجہ سے پیدا کر دیتے کیفیاتِ عشقیہ و جذباتِ صدریہ پر آپ بوجہ اتم متصرف تھے۔

آناں کہ خاک را نظر کیسیا کنند

سگ را ولی کنند و گلس را ہا کنند

میں جب رنگون آیا اور یہاں کے بعض لوگوں سے محبت ہوئی تو کبھی کبھی حضور پر نور کے کمالات کا تذکرہ ان کے سامنے کر لیا کرتا رفتہ رفتہ یہاں کے لوگوں کو حضور پر نور کے ساتھ غائبانہ محبت ہو گئی یہاں تک کہ بعض نے بیعت کی خواہش ظاہر کی میں نے آپ کی خدمت اقدس میں ایک خط لکھا کہ یہاں کے لوگ آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں مگر دروازہ ملک کا معاملہ ہے اگر بذریعہ خط ان کو بیعت فرمایا جاوے تو سہ

بر کریمیاں کار ہا دشوار نیست

کچھ ایام بعد حضور نے بذریعہ ایک صحیفہ مکرمہ مطہرہ مجھے تسلی فرمائی کہ گھبراؤ مت میں ایک رومال بیعتیہ عنقریب تمہاری طرف روانہ کروں گا جو شخص تنہی کی نماز پڑھ کر اسی مصلے پر رو بہ قبلہ ہو کر رومال پر ہاتھ رکھ دے اور خدا و رسول کو اپنے پاس حاضر جان کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے تو اس کی بیعت اللہ پاک منظور فرمائے گا چنانچہ حضور پر نور قدس اللہ سرہ العزیز نے عمل سفید کا ایک رومال میرے نام پر ارسال فرمایا جس وقت رومال مبارک پہنچا لوگ حضور سے مرید ہونے لگے رفتہ رفتہ لوگوں میں اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ پیر صاحب تو ملک پنجاب ضلع ہزارہ مقام چھوڑ تشریف میں تشریف فرما ہیں اور لوگوں کو بذریعہ رومال کے رنگون میں مرید کرتے ہیں تعجب کی بات ہے مقام حیرت ہے کہ شراب خوار بدکار فاسق فاجر جب رومال پر ہاتھ رکھ کر مرید ہو جاتا ہے نماز گزار نیکو کار تہجد گزار بن جاتا ہے۔ اور اس کے پھرہ پر نور ایمان کی ملاحمت و خوبصورتی دیکھ کر اوروں کو رغبت پیدا ہو جاتی ہے سلسلہ ہدایت دن بدن ترقی کرنے لگا دیگر پیران طریقت اپنے حضور میں اپنے مریدوں کو اتنا نفع نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ قطب عالم غوث اعظم شہنشاہ چھوڑی نے اپنے فرزند ان رنگون کو دو ہزار میل سے مرید فرما کر فائدہ پہنچایا ہے

چشم روشن کن ز خاک اولیا

تا بہ بینی ز ابستادات انتہا

ایک مرتبہ مجلس پاک میں حضور شاہنشاہ چھوڑی قدس اللہ سرہ العزیز نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا قرب جانی را بعد مکانی نیست میں حیران ہوا کہ یہ بے ربط جملہ حضور والانے کیوں فرمایا لیکن رنگون میں اگر اس مختصر جملہ کے مطالب و معانی اور قرب جانی کی شرح اور بعد مکانی ارضی کا انقطاع کلی یہ ایسے رموز ہیں کہ بحر محیط کو کوزہ میں اپنے بند کر

دیا ہے

من چہ گویم شرح وصف آں جناب  
آفتاب است آفتاب است آفتاب

آپ کے کمالات ذاتی و صفاتی اجمالی و تفصیلی ظاہری و باطنی جسمانی و روحانی ہمارے بیان ناقص البیان سے مستغنی ہیں آپ نے اپنے علوم و معارف اپنے جذبات عشقیہ اور تصرفات عالم ملکوت و ناسوت اور علوم حقائق و جوہرہ قدیمہ ازلیہ اجمالیہ اور علوم مراتب صفاتیہ امکانیہ تفصیلیہ و اقسام مراتب توحیدیہ و جوہرہ اور شہودیہ وغیرہ کمالات کو اپنی کتاب میر العقول فی بیان اوصاف عقل العقول میں اجمالاً و تفصیلاً اشارتاً و کنایتاً بیان فرما دیا ہے

یہ کتاب آپ کے کمالات پر شاہدِ حال ہے یہ کتاب آپ کے حسن و جمال کا منظرِ اتم ہے اس کتاب کے علوم کا ماخذ و منبع قرآن حکیم و احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اور ادب و ظالفت سو سے زائد کتب معتبرہ سے نقل کئے گئے ہیں اس کتاب میں ایسے مضامین بھی ہیں جو عقلاً اور عرفاً کو حیرت میں ڈالتے ہیں اس کتاب کی ترتیب اور نقوش و الفاظ میں کچھ اس قسم کی تاثیر ہے کہ اس کی تلاوت سے تعلق رکھتی ہے اس کتاب کی تلاوت سے کتب منطوق فلسفہ فقہ اصول فقہ تفسیر حدیث وغیرہ ادق علوم میں قوتِ مطالعہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ کتاب برزخ و جہد و امکان کے معیت میں پایہ تکمیل کو پہنچی ہے دائرہ اولیہ امکانیہ کے مرکزِ اعلیٰ سے اس کتاب کے علوم لیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں ایسے مضامین بھی ہیں جو مخصوص ہیں آپ کے ساتھ یہ طرز و طریقہ جو آپ نے اپنی کتاب میں ایجاد فرمایا ہے متقدمین و متاخرین کی تصانیف میں نہیں پایا جاتا ہے چونکہ ذاتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صفتِ علیہ واجب الوجود ہے۔ اس واسطے قرآن حکیم نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ذاتیہ اجمالیہ کا اظہار فرمایا اور کتاب محید العقول فی بیان اوصاف الرسول حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات صفاتیہ تفصیلیہ کو طرقِ متعدد کے ساتھ بیان کرتی ہے چونکہ ذاتِ محمدی ذات واجب الوجود کے لیے صفتِ اولیٰ اور ممکنات کے لیے ہیولے ہے۔ اجمالاً اور صفات و کمالاتِ محمدی واجب الوجود کے صفتِ ظاہر کے لیے منظرِ اتم ہیں تفصیلاً تو شہنشاہِ زمان خواجہ نوح بنگان حضرت خواجہ عبدالرحمان صاحبِ قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنی کتاب لاجواب میں عقلِ اول یعنی صفتِ تحقیقہ ذاتیہ اولیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ذاتی و کمالات صفاتی کو اجمالاً و تفصیلاً بطرز عجیب و ترتیبِ غریب اس طور پر بیان فرمایا ہے کہ بڑے بڑے علمائے کالمین و عرفائے راہبین حیرت و حیرت ہیں علاوہ بریں حضور پر نور قدس اللہ سرہ العزیز اُمّی تھے۔ علوم و وجہ سے آپ بظاہر ناواقف تھے۔ یعنی آپ نے کسی استاد سے علم ظاہری نہیں سیکھا تھا جو شخص آپ کے کمالات



ناوائف اور ان کا طالب ہو اس کو چاہیئے کہ آپ کی کتاب محید العقول فی بیان اوصاف عقل العقول المسٹی بہ  
مجموعہ صلوات الرسول کو غور سے مطالعہ کرے۔

آفتاب آمد و دلیل آفتاب

گردیلکت باید از روی رومتاب

اس کتاب کو حضور پر نور نے بارہ سال آٹھ مہینہ بیس دن میں تالیف و تصنیف فرمایا ہے۔ باوجود اسی ہونے  
کے آپ نے اپنے خیالات و جذبات و علوم کو نہایت سہل و سلیس عربی زبان میں ظاہر فرمایا۔ یہ کتاب آپ کے علوم و  
معارف کے دریا کا ایک قطرہ ہے جو اہل دنیا پر بعد از انتقال پر ملال آپ نے بطور تحدیثِ نعمت منعم جل و علی  
ظاہر فرمایا۔

من چہ گویم شرح و صفت اک جناب

آفتاب است آفتاب است آفتاب

حضور پر نور نے مجھے ایک خط کے ذریعہ فرمایا تھا کہ مجموعہ صلوات الرسول کے لیے ایک مقدمہ بنایا جاوے جس  
میں درود شریف کے فضائل اور تلاوت و قرأت کتاب ہذا کے طرق کا بیان ہو چنانچہ حضور پر نور قدس اللہ سرہ العزیز  
نے اپنی حیات پاک میں اس امر کا شرف برادر محرم و انھی معظم مولانا اولنا حضرت مولوی عصمت اللہ صاحب سری کوٹی  
کو بخشا مولوی صاحب نے بامر حضور والا مقدمہ تیار کر کے حضرت اقدس میں پیش کیا آپ نے فرمایا مقدمہ اچھا ہے  
مگر قدرے ترمیم کی ضرورت ہوگی اس واسطے مولانا صاحب نے ثانیاً مقدمہ تیار کر کے میری طرف شہر رنگون میں ارسال  
فرمایا قدرے ترمیم کے ساتھ مولانا کا مقدمہ اور حضور پر نور کے مختصر حالات نیز شجرہ قادریہ مبارکہ ان تینوں کو ترتیب سے  
کر ایک مختصر رسالہ کی شکل میں طبع کرایا گیا تاکہ خلق اللہ کو عموماً اور غوث الوریٰ کے متبعین کو خصوصاً نفع ہو یہ آمین

وَأَقْوَصُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

خوشتر آں باشد کہ ستر دیراں

گفتہ آید در میان عاشقان

اب مولانا عصمت اللہ صاحب سری کوٹی کا مقدمہ جو بامر حضور پر نور مرشد برحق نور مطلق خواجہ خواجگان حضرت  
خواجہ عبدالرحمان صاحب قدس اللہ سرہ العزیز تیار کیا گیا ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الَّذِیْ اَرْسَلَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ الْحَكِیْمَ وَجَعَلَهُ آیَةً وَمُعْجِزَةً اِلَى یَوْمِ الدِّیْنِ فَهَدَانَا بِهٖ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ وَفَضَّلَ حَبِیْبَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰی سَائِرِ الْاَنْبِیَاءِ بِسِتِّ اَعْطٰی لَهُ جِوَامِعَ الْكَلِمِ وَنَصَرَهُ بِالرُّعْبِ وَاَحَلَّ لَهُ الْغَنَائِمَ وَجَعَلَ لَهُ الْاَرْضَ مَسْجِدًا وَاَطْمُوْرًا وَاَرْسَلَهُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخَتَمَ بِهٖ النَّبِیِّیْنَ ثُمَّ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَبِيْهِ وَحَبِیْبِهِ وَمَظْهَرِ الْاِتِّمَانِ مِنْ خَلْقَتِهِ الَّذِیْ جَاءَ الْحَقُّ بِمُحِبَّتِهِ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ بِظُهُوْرِهِ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِهٖ وَعَلٰی اِلٰهِ الطَّيِّبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ وَاَصْحَابِہٖ الرَّاشِدِیْنَ الْفَاثِرِیْنَ۔

اما بعد اے عزیزان ملت جس ذات بابرکات نے مجھ پر پیمان عصمت اللہ سری کوٹی کو اس کتاب لاجواب کے مقدمہ کے لیے مامور فرمایا ہے اور جس کو میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں اول تو اس کتاب کی تالیفی نسبت ہی ایسی مبارک ہستی کی طرف ہے جو ہمیں مقدمہ کی تسوید سے بے نیاز کرتی ہے دوم یہ کتاب ایسے مسلم اس الامر پر مشتمل ہے کہ خود خداوند بے نیاز اور اس کے فرشتے اس کام میں مشغول ہیں اور اس کی طرف ہر وقت تمام مومنین و مؤمنات کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ صلوٰۃ علی النبی المنار سے لہذا آفتاب آمد دلیل آفتاب کی مصداق مجھ جیسے کم علم کے مقدمہ سے یہ کتاب کلیتہً مستغنی ہے حاجت مشاطہ نیست روئے دل آرام را پڑھ لیکن باوصف اس کے فرمان مقدمہ کو بندہ نوازی تصور کرتا ہوں از شاہاں چہ عجب گرنوازند گدارا پڑھ تزیکیہ نفس و تکمیل انسان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ علم و عمل اس کتاب کے علوم و معارف توحید پر اور جذبات عشقیہ ایسے عالی پایہ کے ہیں جو بذاتہ موصل ہیں ذات بطن البطون و ہویت بحت کے بارگاہ اقدس کی طرف اور عمل کے لیے جو مقدس روش اس کتاب میں اختیار کی گئی ہے وہ اعلیٰ و احسن طریقہ ہے جو خود خداوند جل و علا اور اس کے فرشتے اس میں شریک عمل ہیں یعنی ارسال درود و سلام بہترین انام پر کما قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ: اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّؕ یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا سَلٰمًا طَرَفًا: بیشک اللہ اور اس کے فرشتے تحفہ درود بھیجتے ہیں نبی پر اے ایمان والو تم بھی تحفہ درود و سلام ان کی خدمت اقدس میں پیش کیا کرو اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کہ وہ نسخہ جامعہ علم و عمل طبع ہو کر آپ کے سامنے موجود ہے یعنی کتاب محیو العقول فی بیان اوصاف عقل العقول المستثنی بہ

## مَجْمُوعَةُ صَلَوةِ الرَّسُوْلِ

اس نسخہ عجیبہ وافع امراض جسمانی و روحانی کے موجد و مرتب حکیم امت استاذ علوم لدنیہ و معلم معارف الہیہ

قابع بدعت و فاطح ضلالت ہادی راہ شریعت مرشد طریقت واقف اسرار حقیقت حضرت مولانا الشیخ الکامل جناب خواجہ عبدالرحمن صاحب پھوری قدس اللہ سرہ العزیز ہیں **تَشْكُرُ اللّٰهُ سُبْحَانَ سَعِيْدِهِ** حضور والا ان برگزیدہ مشائخ عظام و اولیائے کرام میں سے ہیں جن کے فیوضات سے اہل ہزارہ و کوہستان کشمیر و سرحد و افغانستان و پنجاب و ہندوستان و بنگال و ملک برما و عرب و عجم کامیاب و فیضیاب ہوئے ہیں آپ صاحب حالات سنی و مطہراتم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں **اللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ اِلَيْكَ**۔ یہ مجموعہ صلوٰۃ الرسول جس جامعیت و حسن ترتیب سے حضور پر نور نے مرتب فرمایا ہے، آپ ہی اپنی نظیر ہے یہ اپنے قاری کے لیے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور آپ کے کمالات نوراً و ظہوراً اعلیٰ و عملاً و اخلاقاً دیناً و دنیاویاً ان تمام امور کا ایک عمدہ و مقدس معنوی مجسمہ قائم کرتی ہے جس سے کسب تجلیات اور اسوۂ حسنہ نبویہ کی رہبری یقینی ہے اس کے قاری کے شوق و طاقت علمی میں روز افزوں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کا ہر ایک جملہ ترغیب الصلوٰۃ کا کام دیتا ہے اکثر مواقع میں مناسب ادعیہ و اسمائے الٰہی سے استعانت لی گئی ہے اس کتاب کے قاری کو سرور انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ و التسلیم کی کامل سوانح عمری پر عبور اور جملہ قسم کے درود شریفین سے فوائد اور سرور حاصل ہوتا ہے

## ضروری اطلاع

اس میں کچھ شک نہیں کہ نفوس کاملہ کی خاص ترتیب و تعداد و اجازت میں ایک کیمیائی تاثیر ہوا کرتی ہے آپ نے اس کتاب کی ترتیب تین پاروں پر رکھی ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ روزانہ ایک پارہ یا نصف پارہ تلاوت کیا جاوے فرصت کم ہو تو ربع پارہ روزانہ ورد کیا جاوے اگر بلا و مصیبت اور قحط و با و طاعون و شرت ظالم میں خلق اللہ مبتلا ہو تو ایک مجلس میں اس کا ختم کیا جاوے تمام آفات و بلیات سے نجات نصیب ہوگی ایصال ثواب رسانی کے لیے بھی اس کا ختم از حد مفید ہے **فِيَا فَرِحًا** کہ اس مبارک کتاب معید العقول فی بیان اوصاف عقل العقول المسمی بہ مجموعہ صلوٰۃ الرسول کی تحریک طباعت و نشر کا شرف انجی المکرم جناب مولوی حافظ سید احمد صاحب کو میسر ہوا اور مصارف طباعت کا فخر و باقیات الصالحات کی توفیق جناب سیدٹھ احمد اللہ صاحب کباؤ بالقاہرہ و دیگر انخوان رنگون کو حاصل ہوا **تَشْكُرُ اللّٰهُ سُبْحَانَ سَعِيْدِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ**۔

حَاشَا اَنْ يَّحْرُمَ الرَّاجِي مَكَرِمَةً اَوْ يَدْرَجَ الْجَامِعُ مِنْهُ عَيْرَ مُحْتَرَمٍ

## فضائل درود شریف

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا  
ترجمہ: اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں بنی پرے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو اس محبوب  
خدا پر +

۱ وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیّ وَاِحْدَاةٍ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ عَشْرًا (رواہ مسلم)  
ترجمہ: ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایک  
درود میرے اوپر پڑھتا ہے اللہ پاک دس مرتبہ درود اس پر پڑھتا ہے۔

۲ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
عَشْرًا صَلَاةً وَحَطَّتْ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ وَرَفِعَتْ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ - (رواہ النسائی)  
ترجمہ: انس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایک مرتبہ  
میرے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ پاک دس مرتبہ درود اس پر پڑھتا ہے اور دس گناہ اس کے مٹا دیتا ہے اور دس  
درجے اس کے بلند کر دیتا ہے۔


۳ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً - (رواہ احمد)  
ترجمہ: عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر  
ایک مرتبہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے ستر مرتبہ اس پر درود پڑھتے ہیں۔

۴ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ  
مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَيَّ نَبِيِّكَ - (رواہ الترمذی)  
ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلا شک و عازمین اور آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے  
اللہ پاک کے حضور میں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ تو درود نہ پڑھے اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم

۵ وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبَشَرُ فِي وَجْهِهِ  
فَقَالَ إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرَائِيلُ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدٌ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا

صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ .

ترجمہ : ابی طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اس حالت میں کہ خوشی کے آثار آپ کے چہرہ مبارک میں نمودار تھے پھر فرمانے لگے تحقیق حضرت جبرائیل نے میرے پاس آکر خبر دی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ لے محمد کیا آپ اس بات سے خوش نہیں کہ آپ کی اُمت میں سے کوئی شخص آپ پر درود نہیں پڑھتا، مگر میں اس پر دس مرتبہ درود پڑھتا ہوں اور آپ کی اُمت میں سے کوئی شخص آپ پر سلام نہیں بھیجتا مگر میں اس پر دس مرتبہ سلام بھیجتا ہوں یعنی آپ کا اُمتی جب ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جب ایک مرتبہ سلام پڑھتا ہے تو اللہ پاک دس مرتبہ اسپر سلام پڑھتا ہے؛ درود شریف کے فضائل و فوائد حد حصر و احصا سے متجاوز ہیں ان کا ضبط قلم و زبان سے ایک تعسر امر ہے سب سے پہلی فضیلت اور فائدہ درود شریف کا امتثال امر فضل الہی عز اسمہ ہے (۲) موافقت و مشارکت درود پڑھنے والے کی ہے اللہ جل و علیٰ اور اس کے ملائکہ کے ساتھ جو درود شریف بھیجتے ہیں (۳) ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دس صلوات کا حصول (۴) دس درجوں کا عروج (۵) دس حسنت کا اعمال نامہ میں درج ہونا (۶) دس گناہوں کا محو ہونا (۷) بعض احادیث میں دس غلام آزاد کرنا اور بیس غزوات کے مسادی واقع ہوا ہے (۸) بعد از درود برنجی المنار دُعا کا قبول ہونا (۹) درود پڑھنے والے کے لیے آپ کی شفاعت کا واجب ہونا (۱۰) درود پڑھنے والے کے حق میں آں سرور انبیاء کا گواہی دینا (۱۱) روز قیامت میں سب سے پہلے سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ لاحق ہونا (۱۲) درود پڑھنے والے کے تمام امور کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متولی ہونا (۱۳) سب مشکلات کی آسانی (۱۴) سب حوائج کی قضا (۱۵) گناہوں کی مغفرت (۱۶) سب سیئات کی کفارت و تقویٰ فوت شدہ نمازوں کی کفارت (۱۷) صدقہ کا قائم مقام ہونا (۱۸) تفریح کرب (۱۹) شفا ئے بیماریاں (۲۰) واقع خوف (۲۱) موجب انظار پراست مہتمم (۲۲) ذریعہ فتح (۲۳) باوث حصولِ رضا ئے الہی (۲۴) قاری صلوات کا لوگوں میں محبوب ہونا (۲۵) سبب زکا و تنمیہ عمل و مال (۲۶) صفائی دل (۲۷) حصول برکت سب امور میں جتنے کہ اولاد و اولاد اولاد تا طبقہ رابعہ (۲۸) اہوال قیامت سے نجات (۲۹) آسانی سکرات الموت (۳۰) ممالک دنیا سے خلاصی (۳۱) روزگار کی تنگی مضائق سے رستگاری (۳۲) بددعا و جفا سے خلاصی (۳۳) تطیب مجلس (۳۴) غشیان رحمت اہل مجلس کو (۳۵) مرد و صراط پر زیادتی و نوزائیت رہنا قدم کا طرفۃ العین میں اس سے نجات (۳۶) قاری صلوات کا نام آنحضرت کی خدمت اقدس میں پیش ہونا (۳۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا ہونا (۳۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا (۳۹) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا (۴۰) محبوب ملائکہ ہونا



(۴۱) حصول دعائے ملائکہ درود پڑھنے والے کے لیے (۴۲) ملائکہ سبحان کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس طور پر عرض کرنا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا (۴۳) حصول جواب سلام خیر الانام کہ صد سلام مرا بس یکے جواب از تو: وَكَانَ يُبَادِرُ بِالسَّلَامِ — آپ کی عادت مبارک تھی کہ سلام میں سبقت فرماتے تو جو شخص آپ پر درود و سلام بھیجے گا۔ آپ ضرور جواب دیتے ہیں کیونکہ آپ حیات النبی ہیں بلکہ دنیوی حیات سے برزخ کی حیات افضل و اچھے تر ہے یَا دَرِّبِ صِلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى حَبِيبِكَ بَعْدَ وَجِيبِهِ مَخْلُوقًا تَلِكِ۔ (۴۴) درود شریف پڑھنے والے کے گناہ تین دن تک نہیں لکھے جاتے (۴۵) قاری صلوٰۃ کا قیامت میں عرش کے نیچے ہونا (۴۶) ترازوئے اعمال کی گرانی (۴۷) قیامت کی پیاس سے امن (۴۸) جنت میں کثرت ازدواج (۴۹) دنیا و آخرت کے مصالح میں رشد و ہدایت (۵۰) درود شریف کا ذکر آبی پر مشتمل ہونا (۵۱) شکر یہ پر مشتمل ہونا (۵۲) حق سبحان و تعالیٰ کی حق نعمت کی معرفت و اقرار

حسن لہری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس نے حضرت عزت عزا اسمہ کو اللہ سے یاد کیا اس نے سب اسماء میں سے شریف ترین اسم کے ساتھ یاد کیا لفظ اللہ سب اسماء و صفات باری تعالیٰ کے لیے مرآت ہے

## مقالات المشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ

بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ شیخ کامل نہ ملنے کے وقت طالب مولیٰ کے لیے یہی درود شریف طریقہ موصل الی اللہ ہے۔ توجہ بلفظ اللہ سے وصول بدرگاہ الہی و قرب حضرت رسالت پناہی نصیب ہوگا بعض مشائخ قدس اللہ اسرارہم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اور کثرت درود شریف کی وصیت فرماتے ہیں اس لیے کہ اول الذکر سے واحد احد اور ثانی الذکر سے سرور انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ محبت و ہم صحبتی حاصل ہوتی ہے:

مشائخ متاخرین قدس اللہ اسرارہم فرماتے ہیں کہ مرشد کی عدم موجودگی یا نہ ملنے کے وقت طریق سلوک و تحصیل معرفت الہی کے لیے متابعت شریعت و دوام ذکر اور کثرت صلوٰۃ علی خیر البریات کا التزام باطن میں نور عظیم اور بے واسطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پہنچاتی ہے

## محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ کے مقالات

سناوی و دیگر محدثین رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ محمد بن سعید بن مطرب رات کو سونے سے پہلے ایک تعداد معین درود شریف کا درود پڑھا کرتے تھے ایک رات کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں تشریف لاتے دیکھا کہ نور نبوی سے میرے گھر کا ہر کونہ متور ہو گیا آپ نے ارشاد فرمایا اے محمد بن سعید اپنا منہ جس سے تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا ہے۔ میرے پاس لے آتا کہ اس پر بوسہ دوں محمد بن سعید کہتے ہیں مجھے شرم معلوم ہوئی کہ اپنا منہ حضرت کے سامنے کروں میں نے اپنا رخسارہ حضور کے سامنے کیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا جب بیدار ہوا تو اپنا گھر کستوری کی خوشبو سے بھرا ہوا پایا اور آٹھ روز تک میرے رخسار سے مشک کی خوشبو آتی تھی

شیخ احمد بن ابی بکر رواد صوفی محدث اپنی کتاب میں باسانید شیخ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اتنی نے کہا ایک دن حضرت شبلی قدس اللہ سرہ العزیز حضرت ابو بکر ماجد قدس اللہ سرہ العزیز کے پاس تشریف لائے حضرت ابو بکر نے ان کے اکرام کے لیے کھڑے ہو کر حضرت شبلی کے ساتھ معانقہ کیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا میں نے کہا یا سیدی یہ اکرام و اعزاز اس شبلی کے ساتھ جس کو آپ اور اہل بغداد دیوانہ کہتے ہیں ابو بکر قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ میں نے یہ اکرام از خود نہیں کیا بلکہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا کہ شبلی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس پاک میں آئے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شبلی کے لیے کھڑے ہو کر ان کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ اعزاز و محبت شبلی کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شبلی نماز کے بعد یہ آیت پڑھ کر کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرتا ہے: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔

شیخ احمد اسی کتاب میں حضرت شبلی قدس اللہ سرہ العزیز سے ناقل ہیں کہ میرا ایک پڑوسی فوت ہوا میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا مصائب و ہول ہائے عظیم دیکھ منکر و کبیر کے سوالات نے مجھے مشکل میں ڈالا میں نے دل میں کہا کہ شاید دین اسلام پر نہیں مرا عذاب کے فرشتے حملہ آور ہوئے یکایک ایک جمیل شخص طیب الرائحہ میرے اور ان کے درمیان حائل ہوا اس نے مجھے دلائل توجید اور ایمان کی حجت یاد دلانی میں نے کہا تم پر خدا کی رحمت ہو آپ کون ہو کہ ایسی مصیبت کے وقت آپ نے میری

مدد فرمائی اس خوبصورت شخص نے فرمایا کہ میں ایک مرد ہوں جو کہ تمہارے کثرت درود شریف پڑھنے سے پیدا ہوا ہوں مجھے اللہ پاک نے مامور فرمایا ہے۔ کہ ہر شدت و مصیبت کے وقت تمہاری اعانت و مدد کروں یہ حکایت کتاب مصباح الاظلام میں بلا ذکر شبلی قدس اللہ سرہ العزیز مذکور ہے

شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جمع الجوامع میں ابن عساکر سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عساکر اپنی تاریخ میں حفص بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ذراعہ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ آسمان اول پر فرشتوں کے امام ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ مرتبہ آپ نے کس وجہ سے پایا انہوں نے فرمایا کہ ہزار ما حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھا کرتا تھا جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آجاتا تو میں اپنی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا کرتا تھا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

ترجمہ : جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا۔ اللہ پاک اس پر دس مرتبہ پڑھے گا

## حکایت عجیب

مروی ہے کہ ایک شخص صلحاء میں سے ... ۳۰۰ تین ہزار دینار کا مقروض تھا کوئی صورت خلاصی کی نہ تھی صاحب دین نے قاضی کے پاس جا کر دعویٰ کیا قاضی صاحب نے مدیون کو ایک ماہ کی مہلت دی مدیون قاضی سے رخصت ہو کر محراب مسجد میں تضرع وزاری کے ساتھ توجہ الی اللہ کر کے درود شریف میں مشغول ہوا اسی ماہ کی ۲۷ تاریخ کو خواب میں کسی نے آواز دی کہ حق تعالیٰ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا تم علی بن موسیٰ وزیر کے پاس جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین ہزار دینار میرے قرضہ کے لیے دے دو میں جب خواب سے بیدار ہوا تو دل میں خوشی کے آثار معلوم ہونے لگے پھر دل میں یہ خیال آیا کہ اگر وزیر مذکور اس واقعہ کے صدق کی دلیل طلب کرے تو کیا جواب دل گا۔ الغرض یہ خیال اس روز وزیر کے پاس جانے سے مانع ہوا دوسری رات پھر سو رکعت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہی فرمایا جو پہلی رات آپ نے فرمایا تھا صبح کو خوشی کا اثر اول سے زیادہ تھا لیکن بمقتضائے بشریت سابقہ خیال پھر دامنگیر ہوا اور وزیر کے پاس نہ گیا تیسری رات میں نے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وزیر کے پاس نہ جانے کی وجہ دریافت فرمائی میں نے عرض کیا کہ اس واقعہ کی صداقت کی دلیل اگر وزیر پوچھے تو کیا جواب دل گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس سوال پر خوش ہوئے اور فرمایا کہ وزیر کہ



کہ اس واقعہ کی تصدیق یہ ہے کہ تم ہر صبح بعد از نماز فجر مجھ پر پانچ ہزار بار درود بھیجا کرتے ہو اور تیرے درود پڑھنے پر بجز اللہ جل شانہ و کراما کا تین اور تیرے سوا اور کسی کو خبر نہیں پھر وزیر کے پاس گیا سب ماجرا بیان کیا صدق واقعہ کی دلیل سے وزیر نہایت خوش ہوا اور مجھ کو کہا مَوْحِبًا بِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ حَقًّا۔ وزیر خوش نصیب نے اسی وقت تین ہزار دینار دیئے اور کہا اس سے اپنا قرضہ ادا کرو۔ تین ہزار دینار اور دیئے اور کہا اس کو نفع عیال میں خرچ کرو تین ہزار دینار اور رعایت فرمائے اور کہا اس سے تجارت کرو اور تاکید فرمائی کہ مجھ سے رابطہ مودت منقطع نہ کرو جو حاجت تمہاری ہو اطلاع دیا کرو وزیر سے جب رخصت ہوا تو تاریخ مقررہ پر عدالت میں جا کر قاضی صاحب کے پاس حاضر ہوا تین ہزار دینار گن کر پیش قاضی رکھ دیا کہ صاحب دین کو دیوے قرض خواہ دیکھ کر تیرے میں مہوت و مہوف ہوا کہ یہ رقم کہاں سے اس کو مل گئی میں نے قاضی صاحب کو سب قصہ سنا دیا قاضی صاحب نے کہا یہ سب کرامت وزیر کو کیوں نصیب ہو میں خود تمہارے سب قرض کا متولی ہوں قرض خواہ نے کہا یہ درجہ بلند تمہا آپ کو کیوں نصیب ہو میں زیادہ مستحق ہوں کہ اللہ جل جلالہ و علم و لوالہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور قاصد کو بری الذمہ کر دوں میں سب اشرافیاں وزیر و قاضی سے لے کر اپنے گھر آیا۔ اور خداوند جل و علی کا شکر بجالایا۔ درود شریف کے فضائل و ثمرات بے انتہا ہیں اس تھوڑے سے بیان پر بخوف تطویل مقدمہ اتفا کرتا ہوں۔

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خَلِقَ آدَمَ وَفِيهِ قُبُضَ وَفِيهِ النَّفْحَةُ وَفِيهِ الضَّعْفَةُ فَكَثُرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنْ صَلَّوْا عَلَيْكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَيْكُمْ

ترجمہ : تمہارے ایام میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اس میں سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پیدا کئے گئے اور جمعہ کے دن وفات پائی اسی دن میں نطفہ صور اور صاعقہ ہوگا پس زیادہ پڑھو مجھ پر درود اس دن میں کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے :-

فِي مَفَاخِرِ الْإِسْلَامِ. مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كَيْلَةِ الْجُمُعَةِ مِائَةَ صَلَاةٍ قَضَى اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِينَ حَاجَةً مِنَ أُمُورِ الدُّنْيَا وَثَلَاثِينَ مِنَ أُمُورِ الْآخِرَةِ۔

ترجمہ : کتاب مفاخر الاسلام میں ہے کہ میں نے مجھ پر شنب جمعہ کو ایک سو دفعہ درود پڑھا اللہ پاک اس کی سو حاجتیں پوری فرماتا ہے ستر دنیا میں اور تیس آخرت میں۔

وَأَيْضًا فِيهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ ثَمَانِينَ مَرَّةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُفِرَتْ

ذُنُوبُهُ تَمَانِينَ سَنَةً كَذَا أَنْقَلَهُ الرَّمِيزِيُّ فِي شَرْحِ الْمُنَهَاجِ  
 ترجمہ: فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مجھ پر انہی دفعہ جمعہ کے دن درود پڑھا اُس کے انہی برس کے  
 گناہ بخشتے جاتے ہیں۔ شنب ووشنبہ بھی یہی فضیلت رکھتا ہے اس میں بندوں کے اعمال بجز نور رب العزت پیش  
 ہوتے ہیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو شنبہ میں روزہ رکھتے ہیں اور یہی فضیلت بیخ شنبہ کو حاصل ہے۔


مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ مِائَةً مَرَّةً لَوْ يَفْتَقِرَ أَبَدًا۔

ترجمہ: جس نے بیخ شنبہ کے دن سو دفعہ مجھ پر درود پڑھا ہرگز محتاج نہ ہوگا۔

درود شریف کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ مفاخر الاسلام میں ہے۔ اگر کوئی شخص بروز  
 جمعہ ہزار دفعہ درود شریف بصیغہ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأَرْقِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
 پڑھے تو حضرت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اور اپنی منزل جنت میں دیکھے گا۔ اگر نہ دیکھے تو یہ عمل  
 مکرر تا پانچ جمعہ کرے۔ ایضاً اگر کوئی شخص جمعرات کو دو رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد از فاتحہ گیارہ دفعہ سورۃ  
 اخلاص اور بعد از سلام سو دفعہ درود پڑھے بصیغہ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأَرْقِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔  
 حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا۔ تین جمعوں سے متجاوز نہ ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں نے خود تجربہ کیا ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى  
 ذَالِكَ لَكِن بَاوَصِفِ طَهَارَتِ پَاكِ بَسْتِرِ پَرِ سَوْنِي۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ  
 بِدَائِمِكَ بِأَقْيَمَةِ بَيْعَاتِكَ صَلَوَةٌ تَكُونُ لَكَ رِضًا وَلِحَقِّهِ إِدَاءٌ صَلَوَةٌ مَّقْبُولَةٌ لَدَيْكَ  
 مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ



*[Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.]*



الف

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَمِّدْهُ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْحَرِيمِ

وصلى الله على نور كزوشدنوره ايييدا .: زمير از حب او ساكن فلك در عشق او شيذا.

العتبة القادرية العالية بسيد آباد شريف (شتالو) سريكوت ايبت آباد من مضافات باكستان. الحياة الطيبة المختصرة لشيخ المشائخ نموث الزمان مرشد الطريقة مجاهد الدين والملة مقتدى اهل السنة واقف اسرار المعرفة الحضور العلامة الحاج الحافظ القارى السيد احمد الشاه القادري عليه رحمة البارى

ان زبدة الاصفياء سند الاتقياء الحضرة العلامة مولانا و اولينا و ماوى ناوملجانا الحافظ القارى مرشدنا السيد احمد الشاه السريكوتى رحمة الله عليه قد طبع مصنف شيخه مجموعة صلوات الرسول صلى الله عليه وسلم مرة اولى فى سنة ١٩٣٣ عيسوية فى رنغون من برهما وهو حينئذ كان مقيما فيه وقد طبعها مرة ثانية فى سنة ١٣٧٢ هجرية تطابق سنة ١٩٥٣ عيسوية تحت اهتمام مولانا امير شاه البشاورى واذا نفذ النسخ الاولى فطبعها اخوان الطريقة من اهل جاتجام و داكا خمسة آلاف نسخة مرة ثالثة تحت المجلس الرحمانية الاحمدية السنية فى سنة ١٩٨٢ء بامر ابن شيخ المشائخ الحضرة العلامة المزين سجادة الراشد الحقيق المرشد الكامل على التحقيق مولانا الحافظ القارى السيد محمد طيب الشاه القادري اطل الله ظله البارى وقد صرف فيها خمس مائة الف روبية تخميناً. اللهم تقبل بجاه حبيبه الكريم صلى الله عليه وسلم.

واذ كان شيخ المشائخ السيد احمد القادري السريكوتى موجودا فى رنغون فارسل اليه شيخه قطب الزمان صاحب الفضيلة الحضور الخواجة عبدالرحمن الجمهورى عليه




رحمة الباري مرسله وكتب فيها ان المدرسة الرحمانية الهريبورية على ذمتك ايضاً بعد طبع مجموعة صلوات الرسول صلى الله عليه وسلم واذا فرغ عن الطبع والاشاعة لهذا الكتاب العظيم فاقام شوري رحمانية برنغون في سنة ١٩٢٥ عيسوية وعمّر ستة مكانات عظيمة ومعها لوازماتها ايضاً لامداد المدرسة على نحو شمال من ارض المدرسة الرحمانية الهريبورية متصلة بشارع عام. وعمّر ايضاً مكانا عليا بجانب الجنوب مشتملا على منزلتين.

وكانت تاتي الشهرية من رنغون مع صرفات المدرسة وكان يمد مجلس شوري جاتجامية (في الحال المجلس الرحمانية الاحمدية السنية) وقتاً فوقتاً رنا تقبل من خدمات ساكني جاتجام ورنغون . أمين ثم أمين.

فالآن المجلس الانتظامية المنظمة قائمة للمدرسة تحت مزين السجادة مولانا الحاج محمد محمود الرحمن مدظله العالى والمدرسة تفوز يوماً فيوماً ويمدها اهل باكستان كافيا مكافيا تقبل الله تبارك وتعالى امدادهم أمين ثم أمين.

وأخر الامران شيخ المشايخ المجاهد الاعظم يعنى السيد احمد الشاه القادري عليه رحمة الباري صار عازماً الى الفردوس الاعلى بتاريخ اثنى عشر ذى قعدة بيوم الخميس في سنة ١٣٨١ هجرية تطابق سنة ١٩٦١ عيسوية وسعى سعياً بليغاً علي تكميل ماعطاه شيخة الجمهورى من ذمة المدرسة الرحمانية بالمحبة والخلوص والاحترام الى آخر العمر الشريف.

وان غوث الزمان الحضور السيد احمد الشاه القادري رحمة الله عليه قد اسس بنيان الجامعة الاحمدية السنية العالية بسوله شهر جاتجام بنغلاديش في سنة ١٩٥٤ عيسوية وهى حصين لاستيصال الفرق الباطلة ومركز لاهل السنة والجماعة واسس بنيان دارالعلوم



الاسلامية الرحمانية ايضاً.

وبعده خلفه الرشيد الراشد المرشد خليفته الاعظم قبلة العالم حضرة العلامة مزين السجادة الحاج الحافظ القارى السيد محمد طيب الشاه مدظله العالى للعبة القادرية العالية قد اسس بنيان الجامعة القادرية الطيبية بداكا فى سنة ١٩٦٨ عيسوية ثم المدرسة الطيبية الودودية السنية بسند رغونة والمدرسة الطيبية الاسلامية السنية بحالى شهر والمدرسة الطيبية الحافظية السنية بكالورغات ايضاً.

وقد اشتغل بخدمة الدين فى بلاد مختلفة من الممالك المختلفة كثير من العلماء والحفاظ والقراء بعد الفراغ عن هذه الادارات المذكورة.

وان شيخ المشائخ غوث الزمان شبيه الغوث الاعظم السيد احمد الشاه القادرى رحمة الله عليه قد اهتم امور الدين وامور الشرع والسلوك فى افريقة وبرهما والهند وباكستان والبنغلاديش باحسن طريق.

انه كان شيخ المشائخ من بين الاقوامى بلاشك ولاريب وامثال خدماته الدينية قليلاً ما يراه فى تواريخ اولياء الله عليهم الرحمة لانه قد انتظم امور الشريعة والطريقة باحسن طريق وباحسن اسلوب ومريدوه قد كانوا موجودين الوفاً الرفاً فى البنغال ومن بعده مريدو خلفه الرشيد الراشد المرشد الشيخ الحقيق خليفته الاعظم قبلة العالم مزين السجادة الحضرة العلامة الحافظ القارى السيد محمد طيب الشاه القادرى اطال الله ظله البارى قد يزيدون فى اكناف العالم يوماً فيوماً وهذا العروج قد يحصحص ويدل على ان هذه السلسلة الحققة حق ومقبول عند الله ورسوله.

واعلموا ان اخوان الطريقة يسعون لفوز هذه الادارات الدينية بالخصوص وبطريق منظم ولهم اللجنة الانتظامية المستحكمة وتحتها ينعقد جلوس عيد ميلاد النبي صلى الله



عليه وسلم وعرس الغوث الاعظم عبدالقادر الجيلاني ومعين الدين الاجميرى رحمهما الله تعالى وعرس الخواجة الحضور عبدالرحمن الجمهوروى وعرس شيخ المشائخ غوث الزمان السيد احمد الشاه القادري رضى الله عنهم ورضو عنه وينعقد عرس غوث الزمان السيد احمد الشاه القادري رحمة الله عليه مهتما على سريكوت الشريف وجاتجام وداكا وعلى بلاد مختلفة ايضاً.

وشهرية معلمى المدارس و ملازميها وسكنا هم وغيرها من الامور الضرورية قد ينتظم كلها من اللجنة الانتظامية بلا اجرة رضا لله تعالى ولحبيبه صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل آمين ثم آمين .

ولا يخفى على اولى الالباب ان شيخ المشائخ السيد احمد الشاه عليه الرحمة وان كان سرحديا ولكن قد اسس الادارات الدينية السنية العظيمة الشان فى بلاد مختلفة لاستيصال الفرق الباطلة و لاعلاء كلمة الحق. وهذا درس عملي كما قال الله تعالى "انما المؤمنون اخوة" وهذا الامر تدل على ان الرابطة الروحانية اشد واقوى ولا تقطعها اية قوة كما قال النبى صلى الله عليه وسلم "معناه المسلمون كلهم كنفس واحدة "

واثبت اولياء الله رحمهم الله هذا القول فى معارج الوجود والخارج عملياً وفعلياً وحياتهم الطيبة حضرة الطريق والهادى المسلمى العالم ايضاً. وفق الله تبارك و تعالى للمسلمين ان يعملوا . ولله در للعلامة اقبال ومعناه لقوم المسلمين نفع واحد ونقصان واحد وللجميع نبى واحد و ايمان واحد الحرم واحد والله واحد والقرآن ايضاً لبيت المسلمين ان اتفقوا لكان خيرا.





صلی اللہ علی نور کزوشدنورہاییدا ، زمیں از حب او ساکن فلک درعشق او شیدا .

## دربار عالیہ قادریہ سید آبا و شریف (ستاؤ شریف) سرکویٹ ایبٹ آباد پاکستان شیخ المشائخ ، پیر طریقت ، مجاہد دین و ملت ، پیشواۓ اہل سنت ، واقف اسرار معرفت حضرت العلامہ الحافظ قاری سید شاہ احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ پاکستانی بزرگی کے مختصر حالات

زبدۃ الاصفیاء حضرت مولانا سید احمد شاہ صاحب قادری سرکویٹ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ طریقت غوث زمان حضرت خواجہ خواجگان عبدالرحمن چھوہروی قدس سرہ العزیز کی تصنیف کردہ مجموعہ صلوات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرشد برحق کے فرمان پر ۱۹۳۳ء میں جب آپ رنگون (برما) میں رونق افروز تھے پہلی بار اس عظیم و لاٹانی کتاب کو چھپوایا۔ ۱۳۷۲ھ مطابق ۱۹۵۳ء میں حضرت مولانا محمد امیر شاہ صاحب پشاور مدظلہ العالی کے زیر نگرانی دوبارہ چھپوایا۔ چونکہ پہلے نسخے ختم ہو چکے تھے۔

غوث زمان حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوہروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ اعظم حضرت شیخ المشائخ علامہ حافظ سید احمد شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط تحریر فرمایا کہ مجموعہ صلوات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپ جانے کے بعد مدرسہ رحمانیہ ہری پور بھی آپ کے ذمہ ہے مجموعہ صلوات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طباعت اور اشاعت سے جب آپ کو فرصت ملی تو ۱۹۲۵ء رنگون شہر (برما) میں انجمن شورائے رحمانیہ رنگون کے نام سے ایک انجمن قائم فرمائی۔ مدرسہ کی آمدنی کیلئے چھ عظیم الشان مکانات بمعہ تمام لوازمات مدرسہ رحمانیہ ہری پور کی زمین پر شمالی جانب برب سڑک تعمیر فرمائے۔ اور جانب جنوب عظیم الشان دو منزلہ بلڈنگ تعمیر فرمائی۔ تعمیری خرچ کے علاوہ مدرسین و ملازمین مدرسہ کی تنخواہیں وغیرہ باضابطہ رنگون سے آتی تھیں۔ انجمن شورائے رحمانیہ چانگام (بی الحال انجمن رحمانیہ احمدیہ سنیہ سولہ شہر چانگام) نے وقتاً فوقتاً مدرسہ کی کافی امداد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساکنان چانگام و رنگون کی خدمات قبول فرمائے آمین ثم آمین۔

حضرت بابا جی غوث زمان خواجہ عبدالرحمن چھوہروی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سجادہ نشین الحاج مولانا محمد محمود الرحمن صاحب مدظلہ العالی کے زیر صدارت منظم کمیٹی قائم ہے۔ مدرسہ دن بدن ترقی پر ہے۔





اہالیانِ پاکستان دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کی کافی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

آخر دین کا یہ جانباز مجاہد اعظم اپنی تمام عمر خدمتِ دین اور اشاعتِ اسلام میں صرف کر کے ۱۲ ذیقعد ۱۳۸۱ھ مطابق ۱۹۶۱ء کو بروز جمعرات عازم فردوس ہوئے۔ مگر آخری وقت تک مدرسہ رحمانیہ کی خدمات اور اپنے مرشد برحق کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو نہایت خلوص و محبت اور احترام سے پورا کرنے میں کوشاں رہے۔ شیخ زمان حضرت سید احمد شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کے اہتمام کے علاوہ چانگام سولہ شہر میں ۱۹۵۳ء کو باطل فرقوں کی سرکوبی کیلئے جامعہ احمدیہ سنیہ عالیہ کی بنیاد رکھی جو تمام بنگلہ دیش میں اہل سنت و الجماعت کا مضبوط قلعہ ہے جسے تمام ملک میں اہلسنت و الجماعت کا مرکزی مقام حاصل ہے۔

اس کے بعد حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلف الرشید خلیفہ اعظم قبلہ عالم زبیب سجادہ دربار عالیہ قادریہ سریکوٹ شریف نے ڈھاکہ میں جامعہ قادریہ طیبیہ کی بنیاد رکھی پھر چند گھونٹہ میں مدرسہ طیبیہ و دودیہ سنیہ اور حالی شہر میں اسلامیہ طیبیہ سنیہ اور کالور گھاٹ میں طیبیہ حانظیہ سنیہ عظیم الشان دینی سنی ادارے تعمیر فرمائے ہیں جن سے سالہا سال سے کافی تعداد میں عالم دین، حافظ و قاری فارغ التحصیل ہو کر ملک کے گوشے گوشے میں دینی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ حضرت شیخ الزمان حافظ مولانا سید احمد شاہ صاحب قادری سریکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے افریقہ، برما، انڈیا اور بنگلہ دیش میں عظیم الشان دینی خدمات احسن طریقے سے سرانجام دی ہیں۔ آپ بے شک بین الاقوامی شیخ المشائخ ہیں۔ آپ نے جس انداز اور منظم طریقے سے دینی خدمات انجام دی ہیں اس کی مثال اے لیاء اللہ علیم الرحمتہ کی تواریخ میں بہت کم منظر عام پر آئی ہے۔ انہوں نے شریعت اور طریقت دونوں خدمات کو نہایت احسن اسلوب اور منظم طریقے سے سرانجام فرمایا۔

آپ کے مریدین (روحانی اولاد) صرف بنگلہ دیش میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلف الرشید خلیفہ اعظم مرشد برحق حضرت علامہ حافظ قاری سید محمد طیب شاہ صاحب قبلہ مدظلہ العالی کے مریدین کی تعداد میں بھی کثرت سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ عروج و ترقی اس سلسلہ حقہ کی حقانیت اور مقبولیت کی بین دلیل ہے۔ برادرانِ طریقت ان اداروں کو اور سلسلہ برحق کو منظم طریقے اور نہایت پر خلوص اور بے لوث محبت سے خدمات کرنے اور ترقی دینے میں از حد کوشاں ہیں۔ برادرانِ طریقت اور روحانی اولاد کی ایک مستحکم اور منظم کمیٹی ہے جس کی زیر نگرانی ان تمام مدارس کی خدمات ”جشن جلوس عید میلاد النبی“ صلی اللہ علیہ وسلم نیز شہنشاہ بغداد حضرت غوث الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غوث نواز رحمۃ اللہ علیہ اور غوث زمان حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوہروی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ المشائخ پیر طریقت علامہ سید احمد شاہ صاحب قادری سریکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے اہتمام سریکوٹ شریف



چانگام، ڈھاکہ اور دوسری جگہوں میں بھی نہایت شان و شوکت سے منائے جاتے ہیں۔ اور ان دینی اداروں کے اساتذہ کرام و ملازمین کی تنخواہیں اور ان کی رہائش اور تمام سہولتیں کمیٹی کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لئے مفت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔

واضح رہے کہ حضرت شیخ الزمان علامہ، حافظ سید احمد شاہ صاحب قبلہ و کعبہ گرچہ سرحدی اور سرکیوٹی ہیں لیکن عالم اسلام کو فرق باطلہ کی دام فوسب سے بچا کر اعلاء کلمہ الحق کے لئے چانگام، ڈھاکہ، مختلف ملکوں میں عظیم الشان دینی ادارے قائم کئے ہیں یہ ”نما المؤمنون اخوة“ کا عملی سبق ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے روحانی رشتے اتنے مضبوط ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان روحانی رشتوں کو نہیں توڑ سکتی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق تمام دنیا کے مسلمان ایک جان کی طرح ہیں اس فرمان کو اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے عملی طور پر ثابت کر دیا ہے اور ان ہی حضرات کی پاکیزہ زندگی مسلمانان عالم کے لئے نشان راہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین۔

اس سلسلہ میں علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کا کلام قابل ذکر ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:-

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک      ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک  
حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک      کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

مجموعہ صلوٰۃ الرسول کے اردو ترجمہ میں فخر المشائخ زینت گلشن قادریہ مشعل طریقت منبع فیوض و برکات حضرت الحاج الحافظ پیر سید محمد طیب شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سعی جمیلہ کا مختصر جائزہ!

مرشد برحق حضرت پیر طریقت سید احمد شاہ صاحب سرکیوٹی کے فرزند ارجمند نسب سجادہ دربار عالیہ قادریہ سرکیوٹ شریف شیخ المشائخ پیر کامل مرشد برحق حضرت علامہ الحاج حافظ قاری سید محمد طیب شاہ صاحب قبلہ مدظلہ العالی کے حکم پر چانگام اور ڈھاکہ کے برادران طریقت نے انجمن رحمانیہ احمدیہ سنیہ کے زیر اہتمام ۱۴۰۲ھ بمطابق ۱۹۷۲ء میں چانگام میں پانچ ہزار نسخوں پر مشتمل یہ عظیم کتاب تیسری مرتبہ چھپوائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

مجموعہ صلوٰۃ الرسول اپنی ضخامت، عربی کے دقیق الفاظ تسکین دل و جان و فیوضات کریمانہ کی فقید المثال اور بینظیر تصنیف ہے۔ اگرچہ مریدین میں اس کے پڑھنے اور ورد کرنے کا شوق کم نہیں ہوا۔ لیکن چونکہ عربی زبان اور بغیر اعراب کئے ہونے کی وجہ سے عام قاری اس کے مطالب و مفاہیم اور درست تلفظ سے محروم رہ جاتا تھا اس بات کا اظہار حضرت صاحب قبلہ نے ایک نجی محفل میں حاجی عبدالجبار المعروف یونس کمپنی چانگام والے سے فرمایا تو حاجی صاحب نے فوراً ”عرض کیا کہ حضرت یہ تو میرے دل کی آواز ہے۔ اس لیے اس کے اعراب لگوانے

اور ترجمہ کروانے کی سعادت اپنی خصوصی شفقت و سرپرستی میں مجھ حقیر و فقیر کے سپرد کر دیں۔ لہذا اس کے اردو ترجمہ میں حضرت قبلہ پیر سید محمد طیب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ اور کرم نمایاں ہے۔ آپ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کی خدمات انظر من الشمس ہیں۔ جہاں آپ دنیائے اسلام میں اہلسنت و الجماعت کی سب سے بڑی تنظیم انجمن رحمانیہ احمدیہ سنیہ چانگام بنگلہ دیش کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ تو دوسری طرف مختلف ایشیائی ممالک میں مختلف دینی تنظیموں اور مذہبی یونیورسٹیوں کے سرپرست اعلیٰ بھی تھے۔ یہی نہیں بلکہ تیس چالیس لاکھ مریدین کے روحانی پیشوا بھی تھے۔

حضرت قبلہ پیر صاحب اپنے حلقہ مریدین میں اکثر و بیشتر صلوات الرسول کی فضیلت اور اسے پڑھنے کی تلقین و تاکید فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت باباجی نے فرمایا کہ جب مجموعہ صلوات الرسول الازہر یونیورسٹی کے پروفیسرز صاحبان کو بطور تحفہ پیش کیا گیا تو انہوں نے پڑھ کر بڑا تعجب کیا اور بے ساختہ بول اٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے اس قدر گراں قدر کارنامے سرانجام دیئے اور اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا یقیناً یہ بہت بڑی کرامت ہے۔



حضرت قبلہ پیر سید محمد طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہ نفس نفیس اس عظیم مجموعہ کے ترجمے و اعراب کا کام اپنی خصوصی نگاہ کرم سے اپنی حیات اقدس میں ہی شروع کروا دیا۔ صلوات الرسول کے جب بائیس پارے اردو ترجمہ کے ساتھ مکمل ہوئے تو مرشد کامل آفتاب دلایت حضرت الحاج الحافظ سید محمد طیب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے پردہ فرما گئے۔ اور ترجمے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی بھاری ذمہ داری آپ کے صاحبزادگان حضرت الحاج پیر سید محمد طاہر شاہ سجادہ نشین دربار عالیہ قادریہ سید آباد سریکوٹ شریف ہزارہ اور الحاج صاحبزادہ سید محمد صابر شاہ سابق وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد کے سرآن پڑی۔ جس میں انہوں نے انتہائی دلچسپی لی اور آج بفضل خدا مجموعہ صلوات الرسول کا مکمل اردو ترجمہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے فیوض و برکات سے تمام مریدین اور امت محمدیہ کو فیضیاب کرے۔ یاد رہے کہ اس کار خیر کی تکمیل میں حضرت خواجہ پیر محمد طیب الرحمن صاحب سجادہ نشین چھوہر شریف ہری پور کی سعی جمیلہ اور خصوصی دعائیں شامل حال رہیں۔ دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور اور دربار عالیہ قادریہ چھوہر شریف کے حوالے سے آپ کی خدمات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اس عظیم تصنیف کا اردو ترجمہ کرنے کا اعزاز جناب مناظر اہل سنت حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد اشرف سیالوی مدظلہ کو حاصل ہوا۔

حضرت قبلہ حافظ پیر سید محمد طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ مریدین و عقیدت مند آپ سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ لیکن مجموعہ صلوات الرسول مع ترجمہ چھپوانے کے لئے حضرت کی کرم نوازی نے جناب مجاہد ملت الحاج غازی محمد عبدالجبار القادری المعروف یونس کمپنی آف چانگام بنگلہ دیش کا انتخاب کیا۔ خوش نصیب

جناب حاجی عبدالجبار صاحب صد آفرین و خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک جذبے کو اپنی باز گاہ میں قبول فرمائے۔ (آمین)

اس مجموعہ صلوات الرسول کو پانچ مکمل خوبصورت جلدوں میں شائع کیا جا رہا ہے۔ ہر جلد چھ پاروں پر مشتمل ہے۔





## شجرہ عالیہ قادریہ

کو بھی مقدمہ کتاب محید العقول فی بیان کمالات عقل العقول  
الہستی بہ مجموعہ صلوة الرسول کے ساتھ بطور جزو مقدمہ کے شامل کر کے  
پھپھوادی گیا تاکہ حضور پر نور خواجہ خواجگان جناب حضرت عبدالرحمن صاحب  
قدس اللہ سرہ العزیز کے مریدین و متعلقین و عامہ مسلمین کو فوائد ظاہری و  
باطنی جسمانی و روحانی اسمائے مشائخ طریقہ کی برکت سے نصیب ہوں

## سلسلہ قادریہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ نُوِّرَ قُلُوْبَ الْعَارِفِیْنَ بِنُوْرِ الْمَعْرِفَةِ الصَّلَوٰةِ وَالسَّلَامِ  
عَلٰی رَسُوْلِهِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اِلَیْهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَهٰذَا  
سَلْسَلَتِیْ مِنْ مَّشَائِخِیْ فِی الطَّرِیْقَةِ الْقَادِرِیَّةِ الْمَحْبُوْبِیَّةِ الْاَعْظَمِیَّةِ  
الْعَالِیَّةِ الشَّرِیْفَةِ رِضْوَانِ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْنَ اِلٰهِیْ بِحُرْمَتِ  
شَفِیْعِ الْمُنْذِرِیْنَ وَخَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ خَلِیْفَةِ اللّٰهِ حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامِ الْأَشْجَعِيِّينَ  
 أَسَدِ اللهِ الْغَالِبِ مَظْهَرِ الْعَجَائِبِ وَالْغَرَائِبِ حَضْرَتِ عَلِيِّ بْنِ  
 أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ  
 إِلَهِي بِحُرْمَتِ إِمَامِ الشُّهَدَاءِ وَ  
 سَيِّدِ الْأَتْقِيَاءِ سَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ  
 الْجَنَّةِ قُرَّةِ الْعَيْنِينَ سَيِّدِ الْكُونِينَ  
 حَضْرَتِ خَوَاجَةِ إِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ  
 الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي  
 بِحُرْمَةِ شَهِيدِ الْعَشِيقِ إِمَامِ الْمُؤَجِّدِينَ  
 حَضْرَتِ خَوَاجَةِ إِمَامِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ  
 عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي  
 بِحُرْمَةِ الْإِمَامِ الْأَكْبَرِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ  
 إِمَامِ مُحَمَّدِ الْبَاقِرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ  
 إِلَهِي بِحُرْمَتِ حَرِيْقِ الْمَحَبَّةِ إِمَامِ  
 إِلَهِي بِحُرْمَتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامِ الْأَشْجَعِيِّينَ  
 أَسَدِ اللهِ الْغَالِبِ مَظْهَرِ الْعَجَائِبِ وَالْغَرَائِبِ حَضْرَتِ عَلِيِّ بْنِ  
 أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ  
 إِلَهِي بِحُرْمَتِ إِمَامِ الشُّهَدَاءِ وَ  
 سَيِّدِ الْأَتْقِيَاءِ سَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ  
 الْجَنَّةِ قُرَّةِ الْعَيْنِينَ سَيِّدِ الْكُونِينَ  
 حَضْرَتِ خَوَاجَةِ إِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ  
 الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي  
 بِحُرْمَةِ شَهِيدِ الْعَشِيقِ إِمَامِ الْمُؤَجِّدِينَ  
 حَضْرَتِ خَوَاجَةِ إِمَامِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ  
 عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي  
 بِحُرْمَةِ الْإِمَامِ الْأَكْبَرِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ  
 إِمَامِ مُحَمَّدِ الْبَاقِرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ  
 إِلَهِي بِحُرْمَتِ حَرِيْقِ الْمَحَبَّةِ إِمَامِ

لہ ترتیب سلسلہ ترویج ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حسن بصری ان کے بعد حبیب عجمی ان کے بعد داؤد طائی ان  
 کے بعد معروف کرچی ان کے بعد سری سقطی الی آخرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مگر حضور پُر نور قدس اللہ سرہ العزیز نے سید الشہداء  
 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین حضرت امام باقر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام موسیٰ کاظم و  
 حضرت امام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی تبرکاً و نشر فاداً عمل سلسلہ قادر یفرمایا جن کے اسمائے پاک کے ساتھ توصل  
 باعث خیرات و برکات کثیرہ ہے۔ شجرہ ہذا کے قاری کے لیے۔ منہ

الصَّادِقَيْنِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ إِمَامِ  
 جَعْفَرِ الصَّادِقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى  
 عَنْهُ إِلهِي بِحُرْمَتِ غِيَاثِ الْوَرَى  
 الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ  
 الْإِمَامِ مُوسَى كَاطِمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى  
 عَنْهُ إِلهِي بِحُرْمَةِ قِبْلَةِ الظَّاهِرِ  
 وَالْبَاطِنِ إِمَامِ الْهُدَى حَضْرَتِ خَوَاجَةِ  
 إِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى  
 الرَّضِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ  
 سَيِّدِ الطَّائِفَةِ رَهْمَا فِي الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ مُقْتَدَا آءِ أَهْلِ  
 الْحَقِيقَةِ وَالْمَعْرِفَةِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ جُنَيْدِ  
 الْبَغْدَادِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ  
 تَاجِ الْأَوْلِيَاءِ حُجَّةِ اللهِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ أَبِي بَكْرٍ جَعْفَرِ بْنِ  
 يُونُسَ الشِّبْلِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ  
 قِيَاضِ الْفَضْلِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الْوَاحِدِ  
 التَّمِيمِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ مِنْبَعِ  
 فَيُوضِ الرَّحْمَانِي حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ أَبِي الْفَرُحِ الطَّرْطُوسِيِّ  
 رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ مَطْهَرِ سِرِّ الْجُودِ



الْجَزْبِيَّ وَالْكَلِّيَّ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ الْهَنْكَارِيِّ  
 الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سُلْطَانِ  
 الْعَاشِقِينَ مَصْدَرِ شُهُودِ مَحْبُوبِ الرَّبَّانِيِّ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ أَبِي  
 سَعِيدِ عَلِيِّ الْمُبَارَكِ الْمَحْزُورِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ  
 شَيْخِ الْمَشَائِخِ مُجِيبِ النَّبِيِّ مَحْبُوبِ سُبْحَانِي قُطْبِ الْأَقْطَابِ وَقَرْدِ  
 الْأَحْبَابِ غَوْثِ الثَّقَلَيْنِ وَسُلَالَةِ الْحَسَنِينَ الْبُرْعَةِ الْمَشَاهِدَةِ  
 رَبِّ الْعَالَمِينَ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ مُجِيبِ الدِّينِ أَبِي مُحَمَّدِ سُلْطَانِ  
 سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ  
 الْمَشَائِخِ قِبْلَةِ الْعُشَّاقِ وَكَعْبَةِ الْأَفَاقِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِ  
 عَبْدِ الرَّزَّاقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ  
 مُوَصِّلِ الصَّالِحِينَ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِ أَبِي صَالِحِ نَضْرِ رَضِيَ  
 اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ مَطْهَرِ اللَّهِ التَّامِ الصَّمَدِ  
 حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِ شَهَابِ الدِّينِ أَحْمَدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي  
 بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ شَرِيفِ التَّارِكِينَ وَفَخْرِ الْعَاشِقِينَ حَضْرَتِ  
 خَوَاجَةِ سَيِّدِ شَرِيفِ الدِّينِ يَحْيَى قُطْبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي  
 بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سِرَاجِ الْوَاصِلِينَ وَيُوجِ الْعَارِفِينَ حَضْرَتِ  
 خَوَاجَةِ سَيِّدِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ  
 شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِ السَّالِكِينَ وَسَيِّدِ الرَّاسِخِينَ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ



سَيِّدَ عَلَاءِ الدِّينِ عَلَى رِضَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ  
 الْمَشَائِخِ بَدْرِ الْعَارِفِينَ حَضْرَتِ خُوجَاهُ سَيِّدِ بَدْرِ الدِّينِ حُسَيْنِ  
 رِضَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ شَرْفِ الْوَاصِلِينَ وَ  
 تَاجِ الْعَارِفِينَ حَضْرَتِ خُوجَاهُ سَيِّدِ شَرْفِ الدِّينِ يَحْيَى ثَانِي رِضَى  
 اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ قَاسِمِ الْمَحَبَّةِ لِأَشْرَفِينَ  
 حَضْرَتِ خُوجَاهُ سَيِّدِ شَرْفِ الدِّينِ قَاسِمِ رِضَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي  
 بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ مَطْهَرِ أَسْرَارِ الْأَحَدِ حَضْرَتِ خُوجَاهُ سَيِّدِ  
 أَحْمَدِ رِضَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ ضِيَاءِ  
 الْخَافِقِينَ حَضْرَتِ خُوجَاهُ سَيِّدِ حُسَيْنِ رِضَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي  
 بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ غَرِيقِ الْمَحَبَّةِ حَضْرَتِ خُوجَاهُ سَيِّدِ عَبْدِ الْبَاسِطِ  
 رِضَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ وَارِثِ الْوَلَايَةِ  
 الْقَادِرِيَّةِ حَضْرَتِ خُوجَاهُ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ قَادِرِي رِضَى اللَّهِ تَعَالَى  
 عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ مُسْتَعْرِقِ بَحْرِ الشُّهُودِ حَضْرَتِ  
 خُوجَاهُ سَيِّدِ مَحْمُودِ رِضَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ  
 قَانِي فِي اللَّهِ بَاقِي بِاللَّهِ حَضْرَتِ خُوجَاهُ سَيِّدِ عَبْدِ اللَّهِ رِضَى اللَّهُ  
 تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ الْمُتَخَلِّقِ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ وَ  
 الْمُتَّصِفِ بِأَوْصَافِ اللَّهِ حَضْرَتِ خُوجَاهُ شَيْخِ عِنَايَةِ اللَّهِ شَاهِ  
 رِضَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ مَطْهَرِ كُنُونِ أَسْرَارِ



أَحَدِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ حَافِظِ أَحْمَدَ الْبَارَةَ مُوَلِّيَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى  
 عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ مَنبِعِ النُّورِ وَشَرْحِ الصُّدُورِ حَضْرَتِ  
 خَوَاجَةِ شَيْخِ عَبْدِ الصَّبُورِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ  
 الْمَشَائِخِ مَظْهَرِ أَسْرَارِ حَقِّي وَحَقِيقَةِ مُحَبَّدِي حَضْرَتِ خَوَاجَةِ  
 سُلْطَانِ كُلِّ مُحَبَّدِ الْمَعْرُوفِ بِخَوَاجَةِ كَنَّاكِلِ الْمُعْظَمِ بِعَظْمَةِ  
 جَلَالِ ذِي الْجَلَالِ وَالْمُتَجَمِّلِ بِتَجَمُّلِ جَمَالِ ذِي الْجَمَالِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى  
 عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَرِيقِ الْمَحَبَّةِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ  
 مُحَمَّدِ الرَّفِيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ مَظْهَرِ  
 فَيُوضَاتِ إِلَهِي حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ  
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ فَرِيدِ عَصْرِ سَرَّاسِرٍ مُنَوَّرِ مَجْدُوبِ الْأَكْبَرِ حَضْرَتِ  
 خَوَاجَةِ شَيْخِ مُحَمَّدِ أَنْوَرِ شَاةٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ  
 الْمَشَائِخِ مَحْبُوبِ الْمَعْبُودِ الْمَعْلَمِ بِأَسْرَارِ الْغُيُوبِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ شَيْخِ  
 مُحَمَّدِ يَعْقُوبِ شَاةٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ  
 سُلْطَانِ الْعَارِفِينَ مَحْبُوبِ الْوَاصِلِينَ مُحِبِّ الْأَصْفِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مَلْجَأِ  
 الْغُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُسْتَفِيضِ بِفَيْضِ تَعْلِيمِ الطَّرِيقِ عَنِ سُلْطَانِ الْمُعْظَمِ  
 سَقَاهُمُ اللَّهُ رَحِيقَ الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ أَبِي الْفُضْلَانِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ مُحَمَّدِ  
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَهْوَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ  
 وَارِثِ وَلايَةِ قَادِرِيهِ الْحَاجِّ حَافِظِ مَوْلَانَا سَيِّدِ أَحْمَدِ شَاةٍ صَاحِبِ مَدِّ فَيُوضَةِ



اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ تُحِبُّنِي أَنْتَ وَأَوْصِلْنَا  
إِلَى مَقَاصِدِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَحِينَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَمْتِنَا مَعَ الْإِيمَانِ  
وَأَصْبِغْنَا مِنْ بَرَكَاتِ مَشَائِخِنَا وَارْزُقْنَا جَوَارِهِمْ فِي بُحْبُوحَةِ الْفِرْدَوْسِ  
بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ أَمِينٌ ثُمَّ أَمِينٌ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط

اصابع که این وظیفه شریفه موسوم به اصل اصول شریف از دلریش دوله کیش احقر الانسان فقیر محمد عبد الرحمن بن وارث النبی الامی سید العاشقین و سید المعشوقین شیخ الكل و الجوزی العود و المجد حضرت خواجہ شیخ فقیر محمد عفی اللہ عنہما محض از عطیات الہی تا منای ظاہر گشت و الشکر لله على ذلك وعلى كل نعمائه تعالى و میگوید بدان فرحک الله تعالی بفوز اصل اصولک کہ زکوة اصل اصول شریفه اینکہ بسر وقت صبح صادق و دشنبه غسل کرده جامه نو یا نوشته پرشیده دو رکعت نفل صلوٰۃ اعتکاف خوانده بہر رکعت بعد الحمد بیست و ہشت بار سورہ اخلاص و بعد ہر روز اول و آخر درود شریف یک صد و بیست و ہشت بار میانش بیست و ہشت ختم تمام کند ہر ختم یکصد و بیست و پنج ہزار اصل اصول شریف خواندہ باشد ہر مدتہ کہ میسر بود ادا کردہ آید بقیودات ذیل لباس و خوراک پاک و طیب و طاہر و صائم الدہر باحسن ارادت و صلوٰۃ باجماعت و زمان پر با طہارت و مع ترک جلالی و جمالی باتلذذ کمالی اصل و صالی لایزال و بسوخت بخورات وقت سحر از مشک و دلبان و غیر بہر نماز استعمال عطر و دائم با وضو و غسل جمعہ و آخرش باز دو رکعت صلوٰۃ الوداع بقراءۃ صلوٰۃ اعتکاف مذکورہ خواندہ فارغ شدہ حتی المقدور صدقہ بفقیران الی الحق و معصومان مطلق خرق نمایند اقادات و فیوضات آن ظاہر و باہر است از طوالت عمر و ترقی علم متبحر و مزید عمل متاثر و زیادتی تلذذ عشق و محبت و وسعت رزق و روزی روزانہ و اجرائے صدقات جاودانہ حاصل کہ لایزال و لا زالت شمس عاملہ و لا ینایت یوح کاملہ اسے یوم الدین آمین یا رب العالمین ہ

زہے وحدت بکثرت بس قبولست	زمیم احمد احد اصل اصول است
بلوح اول تغیر حرف قرآن	بہ بنیاد تجی ہم نزول است
مقطعات رمز با محبان	بشارت محبوبان حلول است
لذا فیض تقلبونی بہ کونین	حصول است و حصول است و حصول است



# هَذَا أَصْلُ أُصُولِ شَرِيفٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

إِلَهِي بِحُرْمَتِ أَصْلِ أُصُولِ وَصُولِ حُصُولِ ابَاتَا تاج  
 حاخادذ سرازاس شصض طاظاع غ فاق  
 كل من واهايا وبعق رمزرموزن راموز برورن  
 كنوز الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم  
 الرق الرق كهيعص ق طه طسم طسم  
 الم الم الم الم يس ص حم حم  
 حم عسق حم حم حم حم ق ن  
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ

— — — — —



بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنِيبِ الَّذِي هَدانا لهذا  
والَّذي كنا كافرين بما نعمة الله علينا  
إنا كنا لنالها ما كنا نَسْتَدِينُ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

کہ دینِ مانِعتِ اقترانِ افضل  
ایرومندانِ تحفہ عجایبِ ہدیہ غرائبِ الی اللہ  
مقبول بارگاہِ کوئینِ حضرت محمد ﷺ  
مُسکَلِ بِہِ

# صَلوات الرسول

الجزء الاول

فِي نَوْرِهِ وَظُهُورِهِ ﷺ

از تصنیف و تالیف حضرت مولانا محمد رفیع صاحب دہلی

حضرت خواجہ نوبگان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہی پور  
صوبہ سرحد پاکستان



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ خَیْرِ الْاَسْمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَرَبِّ السَّمَاۗءِ

اللہ کے نام کی برکت سے جو سب ناموں سے بہتر اور افضل ہے۔ اللہ زمین کے مالک اور آسمان کے مالک نام کی برکت سے

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّمَعۡ اَسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی

اللہ کے نام کی برکت سے جس کے نام کی بدولت ضرر نہیں دیتی زمین کی کوئی شئی اور نہ کوئی

السَّمَاۗءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ تَوَاضَعَتْ لَهٗ

شئی آسمان کی۔ اور وہی سُننے جاننے والا ہے۔ اللہ کے نام کی برکت سے جس کے لیے جھکی ہیں

الرِّقَابُ وَبِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ خَافَتْ مِنْهُ الْقُلُوبُ وَبِسْمِ اللّٰهِ

سب گردنیں۔ اور اللہ کے نام کی برکت سے کہ خوف زدہ ہیں اس سے سب کے دل۔ اللہ کے نام کی برکت سے

الَّذِیْ نَفَسَ عَنْ دَاوُدَ کُرْبَتَهُ وَبِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ قَالَ لِلنَّارِ

جس نے دُور فرمائی داؤد علیہ السلام سے ان کی تنگی۔ اور اللہ کے نام کی برکت سے جس نے فرمایا آگ کو

کُوْنِیْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَبِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ مَلَأَ الْاَرْكَانَ

ہو جا سراسر ٹھنڈک اور سلامتی ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور اللہ کے نام کی برکت سے جس نے (برکات سے) بھر پور فرمائے ارکان

كُلِّهَا اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِحُرْمَةِ

اور اجزائے عالم تمام لے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ساتھ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور ساتھ حرمت و عزت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِفَضْلِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور ساتھ فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے

وَبِعَظْمَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِجَلَالِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

اور ساتھ عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بدولت جلال بسم اللہ الرحمن

الرَّحِیْمِ وَبِجَمَالِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِهَيْبَةِ بِسْمِ

الرحیم کے۔ اور بطریق جمال بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ اور بوسیلہ ہیبت بسم



اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَبِمَنْزِلَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ الرحمن الرحیم کے۔ اور ساتھ برکت منزلت اور مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے

وَبِمَلَكُوتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبَجَبْرُوتِ بِسْمِ

اور بطین پادشاہی اور مملکت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ اور ساتھ اعانت جبروت و تسلط بسم

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَبِكُبْرِيَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

اللہ الرحمن الرحیم کے۔ اور ساتھ برکت بڑائی اور بزرگی بسم اللہ الرحمن

الرَّحِيمِ وَبِثَنَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِبَهَاءِ

الرحیم کے۔ اور بدولت ثناء و تعریف کے جو بسم اللہ الرحیم میں ہے۔ اور ساتھ برکت اس رونق و بہار کے جو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِكِرَامَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور ساتھ برکت اور سید اس بزرگی و بزرگی کے جو بسم اللہ الرحمن

الرَّحِيمِ وَبِسُلْطَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِبَرَكَةِ بِسْمِ اللَّهِ

الرحیم میں ہے۔ اور ساتھ اعانت تسلط اور غلبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ اور بوسیله برکت کے جو بسم اللہ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِعِزَّةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِقُوَّةِ

الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور بوسیله عزت و غلبہ کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اور بطین قوت کے جو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِقُدْرَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور باعانت اس قدرت کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے

إِذَا رَفَعْتُ قَدْرِي وَأَشْرَحْتُ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَأَرْزُقْنِي مِنْ

بلند فرما میری قدر و منزلت اور کشادہ فرما میرے لیے میرے قلب اور سینہ کو اور آسان فرما میرے لیے میرے امور اور مجھے عطا فرما

حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا مَنْ هُوَ كَهَيْعَتِ

جہاں سے وہم و گمان بھی رزق آنے کا اور کیا جاسکتا ہو بطین اپنے فضل اور کرم کے لیے وہ ذات جس کی شان ہے کھلیص

حَمَّ عَسَقٍ وَأَسْأَلُكَ بِجَمَالِ الْعِزَّةِ وَجَلَالِ الْهَيْبَةِ وَجَبْرُوتِ

حکم عسق اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بوسیله تیرے جمال عزت کے اور جلال ہیبت کے اور غلبہ و سطوت

الْعُظْمَةِ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ

عظمت کے کہ تو بنا دے مجھے اپنے بندگان نیک سے کسی قسم کا خوف نہیں ہے

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَأَنْ

ان پر۔ اور وہ بھی وہ غمگین ہوں گے بطفیل اپنی رحمت کے اے سب رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحمت والے اور یہ کہ

تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَافْعَلْ لِي كَذَا

رحمت نازل فرمائے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہائے سردار محمد کی آل پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنا میرے لیے بھی ایسی

وَكَذَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

رحمت اور ایسی ہی برکت۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے جو بہت رحم کرے اللہ امر بان ہے سب توفیقیں اللہ کیلئے ہیں جو پرورش کرنے والا سب

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

جہانوں کا ہے۔ بہت رحم کرنے والا امر بان ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے ان صفات کمال کے مالک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے

نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

استعانت ووقت طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں چلا راہ راست پر ان لوگوں کے راستہ پر جنہیں تو نے مخصوص انعامات سے نوازا

عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ سُبْحَانَكَ

جو نہ تیرے غضب میں گھرے اور نہ راہ راست سے بھٹکے ہیں۔ پاکیزہ اور منزہ ہے تو

لَا إِلَهَ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ يَا خَلَادِ الْمَحْمُودِ حَمْدًا كَثِيرًا

نہیں علم ہمارے لیے مگر وہ جو تو نے ہمیں بتلایا ہے اللہ اور ہم تیری حمد کے ساتھ (مشغول ہیں) اسے دائم اور برقرار رکھنے کے لیے کہ بہت زیادہ

كَلِيمًا مُبَارَكًا فِيهِ بِأَمْرِكَ وَتَكُونُ بِوَجُودِكَ وَبِرَّكَاتِكَ وَمِنْكَ وَتَبَارَكَ

ہو اور پاکیزہ و مبارکت بھی ہر تیرے امر سے اور تیرے ابدی اور سرمدی وجود سے متعلق ہو اور تیری عطا کردہ برکت کی بدولت ہو اور بار برکت ہے

اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ بِجَدِّ جَدِّ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ بِكَ أَمْنَا وَلَكَ

نام تیرا اور بلند مرتبت ہے تیری بزرگی جو بڑائی کی انتہا پر ہے۔ اور عبادت کے لائق نہیں سوا تیرے تیرے ساتھ ہی ہم ایمان لائے اور تیرے

أَسْلَمْنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا حَقَّقْنَا اللَّهُمَّ بِنُورِكَ يَا مَالِكَ يَوْمَ

یہی طاعت گزار ہوئے اور تجھ پر ہی اعتماد اور بھروسہ کیا ہم نے۔ اے اللہ ہیں اپنے نور کے ساتھ منور کر کے برقرار رکھ لے روز قیامت کے

الدّٰیْنِ وَنُوْمٌ بَصَائِرُنَا بِنُوْرِكَ يَا نُوْرَ التُّوْرِ يَا هَادِيَ الْمُضِلِّيْنَ

مالک۔ اور ہماری قلبی نگاہوں کو متوجہ فرما اپنے نور خاص کے ساتھ اے انوار کو نور کرنے والے اے گمراہوں اور گمراہ کرنے والوں کے ہادی اور رہنما

لَاهَادِيَ غَيْرِكَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَعْتَنَّا عَنْ غَيْرِكَ يَا غَنِيَّ الرَّحْمٰنِ

نہیں کوئی ہدایت دینے والا سوا تیرے۔ سب تمہیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار سب جہانوں کا ہے مجھے اپنی ذات کے طفیل ماسوا سے بے نیاز کر لے بے نیاز

الرَّحْمٰنِ رَحْمٌ تَبِيْرٌ شَهُوْدَاتٍ مَطْلُوْبٌ هَمَّا لَيْسَ اِلَيْهِ جِهَاتٌ مِّنْ رَّبِّ رَحِيْمٌ مَّلِكٌ يُّوْمِ

رحمن رحیم تیرا شہود ذات (مطلوب ہمارا ہے) اے (ہماری جانوں سے) اقرب۔ سلام ہے رب رحیم کی طرف سے کہا ہوا جو مالک ہے روز قیامت کا

الدّٰیْنِ اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ

اے صفات کمال والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہر قسم کی مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

فِيْ حَقَائِقِ مَحْضِ التَّخْصِيْصِ وَبِاَنَّكَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ مِّنْ اَحْوَالِ

تیری اس شان کے صدقے سے کہ تو ہی اللہ ہے جس کا ظہور تشخصات مخصوصہ کے حقائق میں ہے۔ اور اس شان کے طفیل کہ تو مخلوق کے تمام احوال

الْحَدِّ وَالتَّعْدِيْلِ وَبِاَنَّكَ اَنْتَ بِخَصَائِصِ الْاَحْدِيَّةِ وَالصَّمْدِيَّةِ

حقیقی اور عزم کامل اور ان میں مزدونیت و مناسب و پیدا کرنے پر غالب و قادر ہے اور بسبب اس امر کے کہ تو احدیت و صمدیت کے خصائص

عَنِ الصِّدْقِ وَالتَّقْوٰى وَالتَّقِيْضِ وَالتَّظْيِيْرِ وَالتَّظْهِيرِ وَبِاَنَّكَ اَنْتَ الَّذِيْ

کے ساتھ مصمت ہر کہ تقدس و پاکیزہ ہے و مقابل اور مخالفت معاند اور مخالف سے اور مناسب و مددگار سے اور اس شان کے طفیل کہ تو ہی وہ ذات ہے

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ اَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِيْ بِحَقِّ

جس کی مثل کوئی نہیں ہے اور اسی شان امتیازی والا ہی سُننے جاننے والا ہے کہ تو میری حاجت کو پورا کرے صدقے میں

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اَللّٰهُمَّ لَا

اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے اے اللہ نہ

تَجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاجْعَلْنَا مِنْ

بنا ہمیں ان لوگوں سے جو رسوا ہیں حیات دنیا اور آخرت میں اور بنا ہمیں

الَّذِيْنَ غَيْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ اَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا

ان لوگوں سے جن پر غضب نہیں کیا گیا اور نہ وہ گم گشتگان راہ ہدی ہیں۔ آمین۔ اے اللہ نہ بنا ہمیں

ضَالِّينَ وَلَا مُضَالِّينَ وَلَا عَنُ بِأَبِكَ مَطْرُودِينَ وَلَا مَنَ وَجْهَكَ الْبَسِينَ

نذارت خود گمراہ ہونے والے اور نہ گمراہ کئے ہوئے۔ اور نہ اپنے در سے باہر سے ہونے اور نہ اپنے دیدار ذات سے ناامید

الَّذِينَ يُوَفُّونَ بِالْغَيْبِ

الْحَقَّ۔ وہ عظیم الشان کتاب جو شک کے لائق نہیں ہے سراسر ہدایت ہے تقویٰ کی طرف مائل لوگوں کیلئے جو ایمان لاتے ہیں جس کے ساتھ

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے دئے سے لہجہ کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا

إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ وَالْآخِرَةُ هُمْ يُوَفُّونَ ۗ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى

آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے اور آخرت کے ساتھ وہی یقین رکھنے والے ہیں۔ وہی لوگ ثابت قدم ہیں اس ہدایت

مَنْ سَرَّيْهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هُوَ

پر جو ان کے رب کی طرف سے ہے اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کے نام کی برکت سے جو بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے

اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

وہی اللہ ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی جو رحمن رحیم ہے بادشاہ۔ پاکیزہ و منزہ۔ سراسر سلامتی۔ ایمان دینے والا

الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

تعمیر فرمانے والا۔ غالب۔ جبار۔ بڑائی کا ظاہر کرنے والا۔ موجود بخشنے والا۔ متناسب انداز میں پیدا کرنے والا مختلف صورت و اشکال میں ڈھانکنے والا

الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ

بخشنے والا قہر و جلال والا۔ گونا گوں نعمتیں بلا غرض دینے والا ہے۔ بہت زیادہ روزی رساں مشکلات حل کرنے والا۔ ظاہر و باطن کا جاننے والا رزق میں ہی کنز والا۔ کشادگی

الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُدِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ

اور نازل کرنے والا۔ کھنکھاتی میں گرانے والا۔ بلند پر لہجہ کرنے والا۔ عزت دینے والا۔ تعزیرات میں گرانے والا۔ ہر ایک کی سننے والا۔ سب کو دیکھنے والا۔ حکم نافذ کرنے والا۔

الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ

عدل فرمانے والا۔ مخلوق کی نگاہوں سے بالاتر اور سب کی خبر رکھنے والا۔ حلم والا۔ عظمت کا مالک۔ بہت زیادہ بخشش فرمانے والا۔ شکر کی جزا دینے والا۔

الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيفُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ

بلند شان۔ کبر پائی والا۔ بہت حفاظت فرمانے والا۔ روزی مہیا کرنے والا۔ حساب لینے والا۔ جلال و بزرگی کا مالک۔ صاحب جود و کرم

الرَّقِيبُ الْمَجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ

نگہبانی کرنے والا۔ دُعا میں قبول کرنے والا۔ ہر شے کا احاطہ کرنے والا۔ حکمت و درنائی والا۔ محبت رکھنے والا۔ بزرگ۔ مردوں کو اٹھانے والا۔

الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي

مشاہدہ کرنے والا۔ موجود حقیقی۔ کارساز حقیقی۔ قوت کا مالک۔ شدید قوت والا۔ ناصر و مددگار۔ لائق حمد و ثناء شمار کرنے والا۔

الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمَحْيُ الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاحِدُ الْمَاجِدُ

آغاز کرنے والا۔ لوٹانے والا۔ حیات بخشنے والا۔ مارنے والا۔ بذات خود زندہ دوسروں کو قائم و برپا رکھنے والا۔ ذاتی وجود والا۔ صاحبِ مجد۔

الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُوَخَّرُ الْاَوَّلُ

ایکلا۔ یکتا۔ بے نیاز۔ صاحبِ قدرت۔ مالکِ اقتدار۔ آگے بڑھانے والا۔ پیچھے ہٹانے والا۔ سب سے پہلے موجود۔

الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُنْتَعَالِي الْبِرُّ التَّوَابُ الْمُنْعَمُ

سب کے بعد بھی موجود۔ بے حجاب دینے پر وہ آثارِ قدرت کے لحاظ سے نکالے گئے۔ بالآخر ذرات کے لحاظ سے۔ مالکِ بلند مرتبت۔ نیکو کار۔ زور کی بہت ترغیب دینے

الْمُنْتَقِمُ الْعَفْوُ الرَّءُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

والا۔ نیتیں عطا کرنے والا۔ انتقام اور بدلہ لینے والا۔ عفو و درگزر کرنے والا۔ رافت و رحمت فرمانے والا۔ ملکِ کائنات کا مالک۔ جلال و عزت والا۔

الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمَغْنِيُّ الْمُعْطِي الْمَانِعُ الصَّادِقُ النَّافِعُ

عدل کرنے والا۔ اقیامت تک دن جمع کرنے والا۔ استغنی اور بے پروا۔ بے پروا کرنے والا۔ عطا کرنے والا۔ روکنے والا۔ ضرر و نقصان کا مالک۔ غامدہ اور منفعت پہنچانے والا۔

التَّوَسُّلُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ

توسل۔ ہدایت دینے والا۔ انوکھی ایجادوں والا۔ ہمیشہ رہنے والا۔ وارث۔ سپہی راہ والا۔ بہت زیادہ علم اور برداشت والا۔

الصَّادِقُ الرَّبُّ الْاَكْرَمُ الْاَعْلَى الْحَافِظُ الْخَلَّاقُ السَّاتِرُ

سچائی والا۔ پالنے والا۔ عزت و کرامت والا۔ بہت بلند مراتب والا۔ حفاظت فرمانے والا۔ بہت زیادہ پیدا کرنے والا۔ پردہ پوشی کرنے والا۔

السَّاتِرُ الشَّاكِرُ الْعَادِلُ الْعَالِمُ الْعَلَّامُ الْغَالِبُ السَّاطِرُ

بہت زیادہ پردہ دینے والا۔ جزائے شکر دینے والا۔ عدل والا۔ علم والا۔ بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ غالب۔ دیکھنے والا۔

الْفَارِقُ الْقَدِيرُ الْقَرِيبُ الْقَاهِرُ الْكَفِيلُ الْكَافِي الْمُنِيرُ

جدا کرنے والا۔ دائمی قدرت والا۔ سب سے نزدیک۔ قہر والا۔ کفالت فرمانے والا۔ کفایت کرنے والا۔ نورانی بنانے والا۔

الْمُحِيطُ الْمَلِكُ الْمَوْلَى النَّصِيرُ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَحْسَنُ

سب کا احاطہ کرنے والا۔ بادشاہ۔ محبوب۔ بہت مددگار۔ سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا۔ سب سے بہتر

الْخَالِقِينَ ذُو الْفَضْلِ ذُو الطَّوْلِ ذُو الْقُوَّةِ ذُو الْمَعَارِجِ ذُو الْعَرْشِ

خالق۔ فضل و کمال والا۔ قوت و طاقت والا۔ قوت والا۔ بندگیوں والا۔ عرش کا مالک۔

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ مُخْرِجُ

بلند درجات والا۔ گناہ بخشتے والا۔ قبول کرنے والا توبہ کا۔ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والا۔ برآمد کرنے والا۔

الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ الْمُغِيثُ

زندہ کو مردہ سے۔ اور برآمد کرنے والا مردہ کو زندہ سے۔ مہربان احسان کرنے والا۔ فریاد رس۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى

اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے نہیں معبود برحق مگر تو ہی۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا عبد ہوں اور میں قسم ہوں

عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ

تیرے عہد و پیمان اور وعدہ پر جہاں تک مجھ سے ممکن ہو گا اور پناہ پکڑتا ہوں تیری ذات کے ساتھ اس کے شر سے جو میں نے کیا یا میں اقرار کرتا ہوں

لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا فَإِنَّكَ لَا

تیرے لیے تیری نعمتوں کا جو مجھ پر ہیں۔ اور اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا پس بخش دے میرے لیے میرے تمام گناہ۔ کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ نہیں

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا مَلِكُ يَا قَدُّوسٌ

بخشتا گناہوں کو مگر تو ہی۔ اے اللہ۔ اے رحمن۔ اے رحیم۔ اے شہنشاہ۔ اے انتہائی پاکیزہ۔

يَا سَلَامٌ يَا مَوْمِنٌ يَا مَهْيَبِينَ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا خَالِقُ

اے سلامتی متیا کرنے والے۔ اے امن و ایمان دینے والے۔ اے شہبان۔ اے عزت و غلبہ کے مالک۔ اے جس کے خدایوں پر جبر کرے۔ اے بڑائی کا اظہار کرنے والے۔

يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا عَفَّارُ يَا قَهَّارُ يَا وَهَّابُ يَا رَزَّاقُ يَا فَتَّاحُ

اے خالق۔ اے موزوں انداز میں پیدا کرنے والے۔ اے مختلف صورت و اشکال میں ڈھالنے والے۔ اے غفور حق فرما کرنے والے۔ اے قہر کے خدایوں پر تفریق نازل کرنے والے۔ اے بلا عرض نعمتیں دینے

يَا عَلِيمُ يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ يَا خَافِضُ يَا رَافِعُ يَا مُعِزُّ يَا مُذِلُّ

والے اے سب کے روزی رسال۔ اے سب کے مشکل کشا۔ اے دائمی علم والے۔ اے رزق میں کمی کرنے والے۔ اے رزق میں مست فرمائی پیدا کرنے والے۔ اے سہل کرنے والے۔ اے بلند یوں پہنچانے

يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ يَا حَكَمُ يَا عَدْلُ يَا لَطِيفُ يَا خَبِيرُ يَا حَلِيمُ

وَالِے عَزِيزِ دِينِے وَالِے ذَلِيزِے دُوْجِدِ كَرِيْمِے . اے ہیشہ سنےے وَالِے ہیشہ دیکھےے وَالِے اے عَمَلَانِے . اے سِرَاسِرِ عَدْلِے . اے لَطِيفِے دَلَمِے

يَا عَظِيمُ يَا غَفُورُ يَا شَكُورُ يَا عَلِيُّ يَا كَبِيرُ يَا حَفِيفُ يَا مُقِيْتُ

وَالِے . اے خَبِرِ كَعْنِے وَالِے . اے عِلْمِے وَالِے اے عِظَمْتِے وَالِے . اے بہت بختےے وَالِے . اے بہت جَزَائِمِے مِیںے وَالِے شُكْرِے مَدْحِے . اے بَلَدِ شَانِے وَالِے . اے

يَا حَسِيبُ يَا جَلِيلُ يَا كَرِيمُ يَا رَقِيبُ يَا مُجِيبُ يَا وَاسِعُ

بِرَائِے وَالِے . اے حِفَاظْتِے فَرَمَےے وَالِے . اے رِزْقِے رِسَالِے . اے حَسَابِے لِيْنِےے وَالِے . اے جَلَالَتِے مَالِكِے . اے صَاحِبِے كَرَمِے . اے عِزَانِے . اے قَبُولِے كَرِيْمِے . اے سَمِيعِے

يَا حَكِيمُ يَا وَدُودُ يَا مَجِيدُ يَا بَاعِثُ يَا شَهِيدُ يَا حَقُّ يَا

مَالِكِے . اے عَمَلْتِے اَوْرَدَانَايِے وَالِے . اے مَحَبْتِے رَكْنِےے وَالِے . اے صَاحِبِے مَعْدِے اَوْرَبِرْزِيْے . اے مَرْدُوں كُو اُتْھَانِےے وَالِے . اے مَوْجُوْدِے مَآخِرِے مَوْجُوْدِے حَقِيقِے بِلِے

وَكَيْلُ يَا قَوِيُّ يَا مَتِينُ يَا وَليُّ يَا حَمِيدُ يَا مُحْصِيُ يَا

كَارَسَازِے . اے قَوْتِےے وَالِے . اے بَخْشِےے كِے مَالِكِے . اے مَحْبُوْبِے خَلَاقِے . اے لَاتِقِے تَشَاتُشِے . اے حَصْرِے اَوْر اَحَاطِے كَرْنِےے وَالِے . اے

مُبْدِيُّ يَا مَعِيدُ يَا مُحْيِ يَا مُمِيتُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا وَاحِدُ

اَعَاذِے كَرْنِےے وَالِے . اے نُوْتَانِےے وَالِے . اے زَنْدِگِے دِيْنِےے وَالِے . اے مَارْنِےے وَالِے . اے بَرَاتِے خُوْدِ زَنْدِہ رِہْنِےے وَالِے . اے سَبِے كُو قَائِمِے رَكْنِےے وَالِے . اے ہر

يَا مَا جِدُ يَا وَاحِدُ يَا اَحَدُ يَا صَدُّ يَا قَادِرُ يَا مُقْتَدِرُ

مَطْرُوْبِے كُو مَوْجُوْدِےے وَالِے . اے مَعْدِے اَوْرَبِرْزِيْے كِے مَالِكِے . اے تَنَمَا . اے يَكْتِے . اے بے نِيَازِے . اے صَاحِبِے قَوْرْتِے . اے صَاحِبِے اِقْتِدَارِے

يَا مُقَدَّمُ يَا مُؤَخَّرُ يَا اَوَّلُ يَا اٰخِرُ يَا ظَاہِرُ يَا بَاطِنُ يَا وَاليُّ

اے بڑھانےے وَالِے . اے ہٹانےے وَالِے . اے اَوَّلِے . اے اٰخِرِے . اے ظَاہِرِے . اے سَبِےے اَوْجِہِے . اے مَالِكِے .

يَا مُتَعَالِيُّ يَا بَرُّ يَا تَوَّابُ يَا مُنْعَمُ يَا مُنْتَقِمُ يَا عَفُوُّ يَا رَوْفُ

اے عُلُوْے اَوْرَبِرْزِيْے ظَاہِرِے كَرْنِےے وَالِے . اے نَحْوِے كَارِےے تَوْبِے كِے تَوْفِيقِے دِيْنِےے وَالِے . اے اِنْعَامِے اَفْرَمَانِےے وَالِے . اے اِنْتِقَامِے لِيْنِےے وَالِے . اے عَفْوِے دُرُزِے فَرَمَانِےے وَالِے . اے

يَا مَالِكُ الْمَلِكِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا مُقْسِطُ يَا جَامِعُ

مہْرَبَانِےے اے مَلِكِے كَانَاَتِےے كِے مَالِكِے . اے جَلَالَتِے اَوْعِزَّتِےے وَالِے . اے عَدْلِے كَرْنِےے وَالِے . اے لُوْگوں كُو مِیدَانِےے مَحْشَرِے مِیں جَمِے كَرْنِےے وَالِے

يَا غَنِيُّ يَا مَغْنِيُّ يَا مُعْطِيُّ يَا مَانِعُ يَا ضَارِيُّ يَا نَافِعُ يَا نُورُ

اے بے پَرِےے اے بے نِيَازِے كَرْنِےے وَالِے . اے عَطَا كَرْنِےے وَالِے . اے رُو كِنِےے وَالِے . اے مَترِے پِہنْچَانِےے وَالِے . اے نَفْعِے دِيْنِےے وَالِے . اے سِرَاسِرِ نُوْرِے

يَا هَادِي يَا بَدِي يَا بَاقِي يَا وَارِثُ يَا رَشِيدُ يَا صَبُورُ

اے ہدایت دینے والے۔ اے آنکھی ایجادات والے۔ اے ہمیشہ رہنے والے۔ اے وارث۔ اے سیدھی راہ والے۔ اے بہت زیادہ علم و تحمل والے

يَا مَنْ تَقَدَّسَتْ عَنِ الْأَشْبَاهِ ذَاتُهُ وَيَا مَنْ تَنَزَّهَتْ

اے وہ جسے مطلق کر پاک ہے مشابہت رکھنے والوں سے ذات اس کی۔ اور اے وہ کہ مستترہ ہیں

عَنْ مُشَابَهَةِ الْأَمْثَالِ أَفْعَالُهُ وَصِفَاتُهُ وَيَا مَنْ دَلَّتْ عَلَى

امثال و اشباہ کی مشابہت سے افعال اس کے۔ اور صفات اس کی اے وہ ذات والا کہ دلالت کی ہے اس کی

وَحَدَايَتِهِ آيَاتُهُ وَشَهَدَاتُ بَرُّوْبِيَّتِهِ مَصْنُوعَاتُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وحدانیت پر اس کی آیات نے اور گواہی دی ہے اس کی شان پرورش پر اس کی مصنوعات نے۔ نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ تو ہے شہنشاہ۔ موجود حقیقی کہ نہیں لائق پرستش مگر تو ہی۔

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا اللَّهُ يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا مَلِكُ

اے اللہ۔ اے اللہ۔ اے اللہ۔ اے رحمن۔ اے اللہ۔ اے رحیم۔ اے اللہ۔ اے بادشاہ حقیقی

يَا اللَّهُ يَا قُدُّوسٌ يَا اللَّهُ يَا سَلَامٌ يَا اللَّهُ يَا مُؤْمِنٌ يَا اللَّهُ يَا

اے اللہ اے مقدس ترین ذات۔ اے اللہ اے سراسر سلامتی۔ اے اللہ اے ایمان دینے والے۔ اے اللہ۔ اے

مُهَيِّمٌ يَا اللَّهُ يَا عَزِيزٌ يَا اللَّهُ يَا جَبَّارٌ يَا اللَّهُ يَا فَتَكْبَرُ يَا اللَّهُ

نمہبان۔ اے اللہ اے غالب۔ اے اللہ۔ اے جبار۔ اے اللہ اے بڑائی و بزرگی والے۔ اے اللہ

يَا خَالِقُ يَا اللَّهُ يَا بَارِئُ يَا اللَّهُ يَا مُصَوِّرُ يَا اللَّهُ يَا غَفَّارُ يَا اللَّهُ

اے علم سے پہلی کی طرف لانے والے۔ اے اللہ اے موزوں انداز میں پیدا کرنے والے۔ اے اللہ اے صورتگر مہمتی۔ اے اللہ اے بہت بخشنے والے

يَا قَهَّارُ يَا اللَّهُ يَا وَهَّابٌ يَا اللَّهُ يَا رَسَّاقٌ يَا اللَّهُ يَا فَتَّاحٌ يَا اللَّهُ

اے اللہ۔ اے قہروالے۔ اے اللہ۔ اے ہمہ کرنے والے۔ اے اللہ۔ اے روزی رسان خلق۔ اے اللہ اے مشکل کشائے ہمہ۔ اے اللہ

يَا عَلِيمُ يَا اللَّهُ يَا قَابِضٌ يَا اللَّهُ يَا بَاسِطٌ يَا اللَّهُ يَا خَافِضُ

اے دائمی علم والے۔ اے اللہ اے رزق میں تنگی پیدا کرنے والے۔ اے اللہ اے رزق میں فراخی پیدا کرنے والے۔ اے اللہ اے پست کرنے والے اور بلند



يَا اَللّٰهُ يَا رَافِعِ يَا اَللّٰهُ يَا مَعْرِ يَا اَللّٰهُ يَا مِزَانِ يَا اَللّٰهُ يَا سَمِيعِ

لے اللہ کے بلند کرنے والے درجات مخلوق کے۔ لے اللہ کے عزت دینے والے۔ لے اللہ کے نزلت دینے والے۔ لے اللہ کے سب کی

يَا اَللّٰهُ يَا بَصِيْرُ يَا اَللّٰهُ يَا حَكْمُ يَا اَللّٰهُ يَا عَدْلُ يَا اَللّٰهُ يَا لَطِيْفُ

نہنے والے۔ لے اللہ کے سب کو دیکھنے والے۔ لے اللہ کے حکمان مطلق۔ لے اللہ کے سراسر عدل۔ لے اللہ کے لطیف و کرم والے۔

يَا اَللّٰهُ يَا خَبِيْرُ يَا اَللّٰهُ يَا حَلِيْمُ يَا اَللّٰهُ يَا عَظِيْمُ يَا اَللّٰهُ يَا عَفُوْرُ

لے اللہ کے باطن کی خبر رکھنے والے۔ لے اللہ کے علم والے۔ لے اللہ کے عظمت والے۔ لے اللہ کے بخشنے والے

يَا اَللّٰهُ يَا شَكُوْرُ يَا اَللّٰهُ يَا عَلِيُّ يَا اَللّٰهُ يَا كَبِيْرُ يَا اَللّٰهُ يَا حَفِيْظُ

لے اللہ کے جزائے حمد و ثناء دینے والے۔ لے اللہ کے بلند مرتبت۔ لے اللہ کے بزرگ۔ لے اللہ کے حفاظت فرمانے والے

يَا اَللّٰهُ يَا مُقِيْتُ يَا اَللّٰهُ يَا حَسِيْبُ يَا اَللّٰهُ يَا جَلِيْلُ يَا اَللّٰهُ يَا كَرِيْمُ

لے اللہ کے روزی رسان۔ لے اللہ کے حساب لینے والے۔ لے اللہ کے صاحبِ جلالت۔ لے اللہ کے صاحبِ کرم

يَا اَللّٰهُ يَا رَقِيْبُ يَا اَللّٰهُ يَا مُجِيْبُ يَا اَللّٰهُ يَا وَاسِعُ يَا اَللّٰهُ يَا حَكِيْمُ

لے اللہ کے نگرانِ خلق۔ لے اللہ کے صاحبِ قبولیت۔ لے اللہ کے مالکِ وسعت۔ لے اللہ کے صاحبِ حکمت

يَا اَللّٰهُ يَا وَدُوْدُ يَا اَللّٰهُ يَا مَجِيْدُ يَا اَللّٰهُ يَا بَاعِثُ يَا اَللّٰهُ يَا شَهِِيْدُ

لے اللہ کے صاحبِ نمودت۔ لے اللہ کے صاحبِ بزرگی و مجد۔ لے اللہ کے صاحبِ نثر۔ لے اللہ کے صاحبِ شہادت

يَا اَللّٰهُ يَا حَقُّ يَا اَللّٰهُ يَا وَكِيْلُ يَا اَللّٰهُ يَا قَوِيُّ يَا اَللّٰهُ يَا مُتِيْنُ يَا اَللّٰهُ

لے اللہ کے سہمی مطلق۔ لے اللہ کے کارساز۔ لے اللہ کے صاحبِ قوت و توانائی۔ لے اللہ کے صاحبِ متانت۔ لے اللہ

يَا وَرِيْثُ يَا اَللّٰهُ يَا حَمِيْدُ يَا اَللّٰهُ يَا مُحْصِيُّ يَا اَللّٰهُ يَا مُبْدِيُّ يَا اَللّٰهُ

لے مددگار۔ لے اللہ کے ہمیشہ کے لیے سزاوارِ حمد۔ لے اللہ کے شمار و احاطہ کرنے والے۔ لے اللہ کے آغاز کار فرمانے والے۔ لے اللہ

يَا مُعِيْدُ يَا اَللّٰهُ يَا مُحْيِيُّ يَا اَللّٰهُ يَا مُمِيْتُ يَا اَللّٰهُ يَا حَيُّ يَا اَللّٰهُ

لے حالت سابقہ کی طرف لوٹانے والے۔ لے اللہ کے حیات بخش۔ لے اللہ کے موت وارد کرنے والے۔ لے اللہ کے صاحبِ حیات دائم لے

يَا قَيُّوْمُ يَا اَللّٰهُ يَا وَاحِدُ يَا اَللّٰهُ يَا مَا جِدُ يَا اَللّٰهُ يَا وَاحِدُ يَا اَللّٰهُ

اللہ کے ہمیشہ موجود و قائم۔ لے اللہ کے مراد کو موجود پانے والے۔ لے اللہ کے صاحبِ بزرگی و مجد۔ لے اللہ کے بے بہتا۔ لے اللہ



يَا اَحَدِيَا اَللّٰهُ يَا صَدِيَا اَللّٰهُ يَا قَادِرِيَا اَللّٰهُ يَا مُقْتَدِرِيَا اَللّٰهُ يَا مُقَدِّمِيَا

اے یکتا۔ اے اللہ۔ اے بے نیاز۔ اے صاحب قدرت۔ اے اللہ اے صاحب اختیار و اقتدار۔ اے اللہ اے سبقت دینے والے

يَا اَللّٰهُ يَا مُؤَخِّرِيَا اَللّٰهُ يَا اَوَّلِيَا اَللّٰهُ يَا اٰخِرِيَا اَللّٰهُ يَا ظَاهِرِيَا اَللّٰهُ

اے اللہ اے مؤخر کرنے والے۔ اے اللہ۔ اے اول۔ اے اللہ۔ اے آخر۔ اے اللہ۔ اے ظاہر۔ اے اللہ

يَا بَاطِنِيَا اَللّٰهُ يَا وَاَلِيَا اَللّٰهُ يَا مُتَعَالِيَا اَللّٰهُ يَا بَرُّ يَا اَللّٰهُ يَا تَوَّابٌ

اے سب پوشیدہ۔ اے اللہ اے صاحب ولایت۔ اے اللہ اے برتری والے۔ اے اللہ اے صاحب پروا احسان۔ اے اللہ اے مخلوق پر نظر رحمت

يَا اَللّٰهُ يَا مُنْعَمِيَا اَللّٰهُ يَا مُنْتَقِمِيَا اَللّٰهُ يَا عَفُوًّا يَا اَللّٰهُ يَا سَرُوفٌ

فرمانبروے۔ اے اللہ اے صاحب انعام۔ اے اللہ اے صاحب انتقام۔ اے اللہ اے صاحب عفو و درگزر۔ اے اللہ اے صاحب رافت و عنایت

يَا اَللّٰهُ يَا مَالِكِ الْمُلْكِ يَا اَللّٰهُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا اَللّٰهُ

اے اللہ۔ اے مالک ملک۔ اے اللہ اے صاحب جلال و اکرام۔ اے اللہ

يَا رَبُّ يَا اَللّٰهُ يَا مُقْسِطِيَا اَللّٰهُ يَا جَامِعِيَا اَللّٰهُ يَا غَنِيًّا يَا اَللّٰهُ

اے صاحب پرورش و ربوبیت۔ اے اللہ اے صاحب عدل و انصاف۔ اے اللہ اے جمع کرنے والے مخلوق کے۔ اے اللہ اے بے پروا اے اللہ

يَا مُغْنِيًّا يَا اَللّٰهُ يَا مُعْطِيًّا يَا اَللّٰهُ يَا مَانِعِيَا اَللّٰهُ يَا ضَآءِسُّ يَا اَللّٰهُ يَا

اے امتیاز خلق سے بے پروا کرنے والے۔ اے اللہ اے صاحب جو دو عطا اے اللہ اے مالک بندش رزق۔ اے اللہ اے مالک ضرورت نقصان۔ اے اللہ اے

نَافِعِيَا اَللّٰهُ يَا نُورِيَا اَللّٰهُ يَا هَادِيًّا يَا اَللّٰهُ يَا بَدِيْعِيَا اَللّٰهُ يَا

مالک نفع و افادہ۔ اے اللہ اے نورانی بنانے والے۔ اے اللہ اے منزل مقصود تک پہنچانے والے۔ اے اللہ اے امتیازی ایجاد و تخلیق والے۔ اے اللہ اے

بَاقِيًّا يَا اَللّٰهُ يَا وَاْرَثِيَا اَللّٰهُ يَا رَشِيْدِيَا اَللّٰهُ يَا صَبُوْرِيَا اَللّٰهُ يَا مَنٌ

دائم۔ اے اللہ۔ اے وارث خلق۔ اے اللہ اے صاحب رشد و ہدایت اے اللہ اے صبر فراوان والے۔ اے اللہ۔ اے وہ ذات والا

تَعَالَيْتَ عَن وِسْمَةِ النَّقْصِ وَالزَّوَالِ وَتَقَدَّسَتْ بِشِيْمَةِ الْعُظْمَةِ وَالْجَلَالِ

کہ بلند و برتر ہے علامت نقص و زوال سے۔ اور مقدس و منزہ ہے بسبب زینت عظمت و جلال کے۔

وَتَنَزَّهَتْ عَن اِدْرَاكِ الْاَوْهَامِ وَالْخِيَالِ وَتَفَرَّدَتْ بِجِيَادِ الْخِلَالِ وَالْفَضَالِ

اور تو منزہ و مبرا ہے۔ ادہام و خیالات کے ادراک و احاطہ سے۔ اور مفرد و یکتا ہے بسبب عمدہ حاصلتوں اور فضیلتوں کے۔

سَسَلِكَ أَنْ تَفِيضَ عَلَيْنَا ذَوَارِفَ الْعَوَارِفِ بِفَضْلِكَ الْمُتَعَالِ وَ

ہم تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کئے ہوئے ہیں کہ تو ہم پر فیضان فرمائے عمدہ نیکیوں کا بطفیل اپنے فضل عالی شان کے۔ اور

تُلْهِمَهُمْ حَقَائِقَ الْمَعَارِفِ بِجَزَائِلِ التَّوَالِ وَتُرَشِّحْهُمْ مِنْ شَابِيبِ الشُّهُودِ مِنْ

العام فرمائے معارف کے حقائق کا برسیدہ اپنے عظیم جوہر نوال کے۔ اور برسائے مشاہدہ ذات کی برساتوں سے بھر پور

السَّجَالِ وَتَجُودَ مِنْ بَحَارِ التَّوْحِيدِ كَوْسَ الْيُوصَالِ وَتَرْفَعْنَا مِنْ حَضِيضِ

ڈول۔ اور عطا فرمائے بحر بائے توحید سے وہ پیمانے جو موجب وصل ہوں اور ہمیں بلند فرمائے پستی

التَّدْنِيسِ إِلَى ذُرُورَةِ اللَّقَاءِ الْكَمَالِ وَتَبَلِّغْنَا إِلَى نَيْلِ بَقَاءِ لَا يَزَالُ وَتُرَشِّحْنَا بِصَلَةِ

آلایش اور میلگونی سے لقاء کامل کی بندی کی طرف۔ اور ہمیں پہنچائے طرف ایسے بقا و دوام کے حصول کے جو کبھی زوال پذیر نہ ہو اور ہمیں معزز

مَدَارِجِ فَنَاءِ الْمُطْلَقِ وَالْخِصَالِ بِوَجَاهَةِ مَنْ لَوْلَاهُ لَمَا كَسَيْنَا كِسَاءَ التَّنْيِيسِ

تھرائے ساتھ عطا کرنے فنا مطلق والے مدارج اور اخلاق کے بطفیل و جاہت اور آبرو اس ذات کے کہ جن کا وجود نہ ہوتا تو ہمیں نہ پہنائی جاتی پوشاک تہی کی

وَالْمِثَالِ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ أَنْ يُدْ مِنْ عَدَدِ الْحَصَاةِ وَالرَّمَالِ وَعَلَى إِلَهٍ

اور خلعت شکل و صورت کی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے درود اور رحمتیں نازل ہوں کنکریوں اور ربیکہ ذرات کی مقدار سے زائد اور ان کی آل پر

وَصَحْبِهِ أَوْلَى الشَّرَفِ وَالْجَمَالِ يَا فَاطِمَةَ الْجَبْرُوتِ مِنْكَ تَلَدُّ الْأَلْسِنَةُ

اور اصحاب پر جو ارباب شرف و جمال ہیں سلسلے پیدا کرنے والے مظاہر قہر و جبر کے۔ تجھی سے لذت پاتی ہیں زبانیں

يَا الْمَقَالِ يَا مَالِكِ الْمَلَكُوتِ أَنْتَ مُشْرِفُ النَّفُوسِ بِشَرَفَةِ الْحَالِ وَأَنْتَ

گفتگو اور ہکلامی کے ساتھ سلسلے ملکوت کے مالک تو ہی نفوس کو مشرف فرمانے والا ہے حوال کے شرف اور بزرگی کے ساتھ۔ اور تو ہی

حَقُّ لَدَّ إِلَهٍ إِلَّا أَنْتَ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَدَالِ وَمِنْكَ الْبُدَايَةُ وَإِلَيْكَ الْمَالُ

موجود مطلق ہے۔ نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی اے عزت و جلال والے۔ تجھی سے ہی ابتدا ہے اور تیری طرف ہی سب کی بازگشت ہے۔

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هُ اللَّهُ اللَّهُ

تیری رحمت کے ہی امیدوار ہیں اے سب بڑے مہربان۔ اور سب تعریفیں اللہ کیلئے ہی جو پرورش کرنے والا ہے سب جہانوں کی۔ اللہ۔ اللہ۔ اللہ

اللَّهُ رَبُّنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَسْبُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جَلْبُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نُوْرُنَا

اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے۔ اللہ اللہ۔ اللہ ہی ہماری کشتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا نور ہے



اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ظُهُورَنَا اللَّهُ اللَّهُ حُضُورَنَا اللَّهُ اللَّهُ سُرُورَنَا اللَّهُ

اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا سبب ظہور ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی کے لیے ہماری حاضری ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا سرور ہے اللہ

اللَّهُ اللَّهُ مَوْفُورَنَا اللَّهُ اللَّهُ مَحْبُوبَنَا اللَّهُ اللَّهُ مَطْلُوبَنَا اللَّهُ

اللہ اللہ اللہ ہی کامل جزا ہماری ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا محبوب ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا مطلوب ہے۔ اللہ

اللَّهُ اللَّهُ مَرْغُوبَنَا اللَّهُ اللَّهُ مَعْبُودَنَا اللَّهُ اللَّهُ مَقْصُودَنَا اللَّهُ

اللہ اللہ اللہ ہی ہماری رغبتوں کا مرکز ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا مقصود ہے۔ اللہ

اللَّهُ اللَّهُ مَشْهُودَنَا اللَّهُ اللَّهُ الْكِبَارَنَا اللَّهُ اللَّهُ أَسْتَارَنَا اللَّهُ

اللہ اللہ اللہ ہی ہماری نگاہوں کے مشاہدہ میں ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی سے ہماری بڑائیاں ہیں۔ اللہ اللہ اللہ ہی سے ہماری پردہ داریاں ہیں اللہ اللہ

اللَّهُ أَسْرَارَنَا اللَّهُ اللَّهُ أَسْتَارَنَا اللَّهُ اللَّهُ إِيْمَانَنَا اللَّهُ

اللہ اللہ اللہ ہی ہمارے اسرار ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا پردہ پوش ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی

إِيْقَانَنَا اللَّهُ اللَّهُ أَفْرَاضَنَا اللَّهُ اللَّهُ إِضَاضَنَا اللَّهُ

ہمارا یقین ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارے فرائض ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا لمبا و ماوی ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی

فِيَاضَنَا اللَّهُ اللَّهُ أَرْوَاحَنَا اللَّهُ اللَّهُ إِصْلَاحَنَا اللَّهُ

ہمارا فیض رسال ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی سے ہماری روہیں بھاریجیات ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی سے ہماری اصلاح اور بہتری ہے اللہ اللہ

اللَّهُ إِفْلَاحَنَا اللَّهُ اللَّهُ إِصْبَاحَنَا اللَّهُ اللَّهُ اسْتِفْتَا حَنَا

اللہ اللہ ہی سے ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی سے ہماری روشنی ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی سے ہماری حل مشکلات کی آرزو ہے

اللَّهُ اللَّهُ حَيِّبَنَا اللَّهُ اللَّهُ طَيِّبَنَا اللَّهُ اللَّهُ كُنُزَنَا اللَّهُ

اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا حبیب ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا طیب اور دافع امراض ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا خزانہ ہے۔ اللہ

اللَّهُ اللَّهُ حِرْمَنَا اللَّهُ اللَّهُ عِيَادَنَا اللَّهُ اللَّهُ غِيَاثَنَا اللَّهُ

اللہ اللہ اللہ ہی ہمارے لیے حفظ و امان ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا پناہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا فریاد رس ہے۔ اللہ اللہ

اللَّهُ حِصْنَنَا اللَّهُ اللَّهُ فَخْرَنَا اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي الْقُلُوبِ إِلَّا اللَّهُ

اللہ اللہ ہی ہمارا قلعہ اور جائے پناہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا سرمایہ فخر و ناز ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہمارے دلوں میں نہیں مگر اللہ ہی



اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي السِّرِّ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي الوجودِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ

اللہ اللہ اللہ نہیں ہے ہمارے لطیف ستر میں مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے ہر وجود میں مگر اللہ اللہ

اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي الكونِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي الكونينِ إِلَّا اللَّهُ

اللہ اللہ نہیں ہے جہاں میں مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے دونوں جہاں میں مگر اللہ

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي المكونِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي السمواتِ إِلَّا

اللہ اللہ اللہ نہیں ہے مخلوق میں سوائے اللہ کے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں آسمانوں میں مگر

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي الارضينِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي الدنيا

اللہ اللہ اللہ نہیں ہے زمینوں میں مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں دنیا میں

إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي الآخرةِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَوْلَ إِلَّا اللَّهُ

مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے آخرت میں مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے اول مگر اللہ

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا آخِرَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا ظَاهِرَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ

اللہ اللہ اللہ نہیں ہے آخر مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے ظاہر مگر اللہ۔ اللہ اللہ

اللَّهُ لَا بَاطِنَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا فَخْرَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا

اللہ نہیں ہے باطن و مخفی مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے صاحب فخر مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے

عَافِرٍ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا مَلِكَ

بخشنے والا مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں مالک ہر شی کا مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے حقیقی بادشاہ

إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا قَائِمٍ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا دَائِمٍ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ

مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے قائم و پائندہ مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے دائم و باقی مگر اللہ اللہ

اللَّهُ اللَّهُ لَا أَمْتَانَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَمْتِهَانَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ

اللہ اللہ نہیں ہے سراسر احسان مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے ہماری سراسر اعجاز و نیازی (کا خدار مگر اللہ اللہ

اللَّهُ اللَّهُ لَا أَمِينَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَمِينَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ

اللہ اللہ نہیں لائق امانت مگر اللہ تھا۔ اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں ہیں ہم قصد کرنے والے مگر اللہ کا۔ اللہ اللہ



اللَّهُ لَا بُدَّ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا بَدَجَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا

اللہ نہیں ہے بہت واضح اور روشن مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے سراسر وضوح اور روشنی مگر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہے

سُلْطَانَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا بُرْهَانَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا

سلطان اور صاحبِ سلطوت مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے دلیل روشن مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے۔

رَحِيمٍ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا كَرِيمٍ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَظِيمٍ

رحمت دائم والا مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں دائمی کرم و بخشش والا مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے دائمی عظمت والا

إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا رَحْمَنَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا سُبْحَانَ إِلَّا اللَّهُ

مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں مومن و کافر پر فضل و احسان کرنے والا مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے پاکیزہ و تقدس مطلق مگر اللہ

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا رَبَّ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا نُورَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ

اللہ اللہ اللہ نہیں ہے پرورش کرنے والا مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں منور کرنے والا مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

اللہ نہیں ہے عبادت کے لائق مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اللہ اللہ

اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَيْسُكُوَّةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کے نور کی شان اور حالت طاق میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے

الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ

وہ چراغ کرسیشہ میں ہے۔ اور وہ شیشہ گویا کہ چمکتا ستارہ ہے جس چراغ کو جلا یا جاتا ہے اس تیل سے جو حاصل کیا جاتا ہے بابرکت درخت

مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ

یعنی زیتون سے جو نہ شرقی ہے نہ مغربی (بلکہ درمیانی علاقہ سے ہے) جس کا تیل اس قابل ہے کہ خود ہی روشنی دے۔ اگرچہ نہ

تَمَسَّهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ

مس کرے اسے آگ۔ بس نور ہی نور ہے۔ ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جسے چاہے اور بیان کرتا ہے

اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے۔ اور اللہ ہر چیز کا ہمیشہ کے لیے جانتے والا ہے۔ اے اللہ درود بھیج



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَصَدَ لَهُ الْمُخَالَفُونَ أَعْنَى يَرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ

ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی مخالفت کا مخالفین نے قصد کیا یعنی ارادہ رکھتے تھے کہ بجھا دیں نور خدا کو

اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ النَّوْرُ وَيَا نُورَ كُلِّ

اپنے مومنوں (کے چھونکوں) سے اور اللہ اپنے نور مخصوص کو کامل تر کرنے والا ہے اگرچہ ناپسند کریں کفار۔ نور مطلق اور اسے نور ہر

شئی عَوْهَدَا هَا أَنْتَ الَّذِي فَلَقْتَ الظُّلُمَاتِ بِنُورِهِ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ

شئی کے۔ اور سب کی ہدایت کے سازگار تو ہی ہے جس نے پھاڑا ظلمتوں کو اپنے نور کے ساتھ۔ تو ہی مؤثر کرنے والا ہے آسمانوں کا

الَّتِي كُنْفَتْهَا بِنُورِكَ الْجَامِدِ بِتَخْلِيطِ الْأُبْحَرِ الْجَلَالِيَّةِ وَالْجَمَالِيَّةِ

جنہیں تو نے اپنے نور سے ٹوہنا چا جو کہ ابجماد پذیر ہیں بسبب اختلاط بخارات جلالیہ اور جمالیہ کے

وَأَشْرَقَتِ الشَّمْسُ بِتَخْلِيْقِكَ قُرْصَهَا مِنْ نُورِ الْجَلَالِ الْغَالِبِ وَجَمَالَ

اور چمک اٹھا سورج بسبب پیدا کرنے تیرے اس کے قرص کو جلال غالب اور جمال مطالب کے نور سے

الْمَطَالِبِ حَتَّى عَكَسَتْ عَلَى التُّوْبِ وَصَارَتْ الْهَوَاءُ حَارَّةً بِتَحَرُّرِ

حتی کہ وہ تنور کے عکس و پرتو کا منظر بنا۔ اور ہوا حرارت پذیر ہو گئی بسبب

الشَّعَاعَاتِ طَبَاخَةٍ وَخَلَقْتَ الْقَمَرَ مُضِيئًا بَارِدًا شُعَاعَاتِهِ وَكَوْنَتْ

شمسی شعاعوں کی حرارت کے اور اشیاء کی پکانے والی بن گئی اور تو نے پیدا کیا ماہتاب کو اس انداز میں کہ نور افشاں ہے اور ٹھنڈی ہیں شعاعیں انکی اور تو نے

الْكَوَاكِبَ بِرَاقَةٍ هَادِيَةٍ رَاجِمَةٍ أَنْفَصَلَتْ شُعَاعَاتُهَا نَهَائِمًا تَتَّصِلُ بِمَقَارِهَا

پیدا فرمایا ستاروں کو اس انداز میں کہ چمکتے ہیں اور باعث ہدایت و راہنمائی ہیں اور شیاطین کو ہلاک کرنے والے ہیں انہیں (اجرام مضییعہ) سے ان کی شعاعیں جدا ہوتی

وَمَرَاكِبُهَا حَتَّى صَارَتْ السَّمَوَاتُ السَّبْعَ مَزِينَةً بِأَحْسَنِ زِينَةٍ ثُمَّ

ہیں پھر اپنے عمل قرار اور مراکز تک واصل متصل ہوتی ہیں حتیٰ کہ ساتوں آسمان مزین ہو گئے انتہائی حسین آرائش کے ساتھ پھر

أَبْدَعْتَ أَشْخَاصَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ غَيْرِ تَأْمُورٍ وَتَأْمُورَةٍ مِنْ إِهَابٍ وَلَحْمٍ

تو نے از سر نو پیدا فرمایا ملائکہ کے وجودوں کو بغیر مخلوق کرنے مذکور مؤنث کے جو حاصل ہوں چڑے اور گوشت

وَعِظَامٍ مَشْكُوتَةٍ بَلْ أَوْجَدْتَهُمْ مِنْ صِرْفِ نُورٍ لَطِيفٍ قَابِلِ الشَّكْلِ

اور پروں میں چھپی ہڈیوں کے مجموعوں سے، بلکہ تو نے انہیں ایجاد فرمایا خالص لطیف نور سے جو قبول کرنے والا تھا پاکیزہ و لطیف شکل کو



اللَّطِيفِ وَالْكَثِيفِ مَعَ بَقَاءِ الْهَيْئَةِ الْمَلَكِيَّةِ التُّورَانِيَّةِ فِي هَيَاتِهَا الْجَبَلِيَّةِ

اور کثیف کو بھی باوجود باقی رہنے حالت ملک نورانی کے اپنی جبلی ہیئات پر

حَتَّى تَيْسَّرَ لَهُمُ الْهَبُوطُ وَالصُّعُودُ فِي أَدْنَى لَمَحَةٍ وَالْجِهَاتُ طَوِيَتْ لَهُمْ

حتیٰ کہ سہل ہو گیا ان کے لیے اتنا زمین کی طرف اور چڑھنا آسمان کی طرف آنکھ جھپکنے کی دیر میں اور شش جہات ان کیلئے سمیٹ دی گئیں

فِي لَطَافَةٍ بَرَأَقَتِهَا فَصَارَتْ جِهَةً وَحْدَانِيَّةً وَعَيْنًا سَوَانِيَّةً

لطیف چمک اور نورانیت میں تو وہ وحدانی جہت بن گئیں اور ان کی نگاہ سب کو دیکھنے میں برابر ہو گئی

يُلَاحِظْنَ بِهَا أَحْوَالَ الْمَوْجُودَاتِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى كَسْبِ بَلْ هُمْ

وہ اس نگاہ سے ملاحظہ کرتے ہیں مخلوقات کے احوال کا بغیر موقوف ہونے اس مشاہدہ کے اور کئی مشقت و تعب کے بلکہ وہ خود

ذَوَاتٌ بِالْفِعْلِ نَفَادَةٌ مُخْلَخَةٌ مُجَلَّجَةٌ يَتَرَشَّحُ مِنْهَا الْأَنْوَارُ عَلَى

موجودات ہیں جو انحال کو نافذ کرنے والے ہیں اور ہر شی کے اندر نفوذ کر لیا ہے اور اسے جنبش اور حرکت دینے والے ہیں انہیں سے برستے ہیں انوار اور

قُلُوبُ الْعَارِفِينَ يَهْتَدُونَ بِهَا إِلَى اللَّهِ وَتَشْرَحُ صُدُورُهُمْ بِالنُّورِ

قلوب عارفین کے جن کی بدولت اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی پاتے ہیں اور کشادہ ہوتے ہیں ان کے سینے ان انکشافات کے ساتھ جو

سَمِّيَتْ بِالْهَامَاتِ الْمَلَكِيَّةِ وَخَلَقَتْ مِنْ نُورِهِ الْأَنْوَارَ الْمُقَرَّبَ

جو موسوم کئے جاتے ہیں ملائکہ کے الامامات کے ساتھ اور تو نے پیدا فرمایا ان کے نور مقرب اور سرچشمہ ہدایت سے سبھی انوار کو

الْمُهْدَى وَفَلَقَتْ الْبَيْضَاءَ الطَّرْقَاءَ مِنَ السُّودِ أَيْ الْقَمَصَاعَ الْهِنَا

اور تو نے پھیلایا زمین کے سفیدے کو جو چلنے کے قابل موزوں و صلوان والی ہے سیاہ نام لرزتے مادے سے لے ہمارے خداتو

نُورَنَا بِنُورِكَ وَخَلِّصْنَا عَنِ الظُّلْمَةِ حَتَّى لَا يَبْقَى فِينَا شَائِبَةٌ الْعَصِيَانِ

ہیں منور فرما اپنے نور مخصوص کے ساتھ اور چھٹکارا دے ظلمتوں سے حتیٰ کہ نہ باقی رہے ہم میں شائبہ نافرمانی کا

فَإِنَّ الْعَصِيَانَ مَنَا وَالْعَفْوَمُنْكَ وَإِنَّكَ مُحْضُ النُّورِ وَمِنْ مُحْضِ الظُّلْمَةِ

کیونکہ نافرمانی ہماری طرف سے ہے اور درگزر تیری طرف سے ہے اور بالیقین تو نور محض ہے اور ہم محض ظلمت اور تاریکی ہیں

فَلَا يَعَادِلُهُ شَيْءٌ مِّنْ خَلْقِهِ اللَّهُمَّ نُورَنَا بِنُورِكَ وَحَدَيْتِكَ وَكَثَرْتِكَ وَ

پس نہیں برابر اور مماثل اس ذات اقدس کے مخلوق میں سے کوئی شئی۔ اے اللہ ہمیں منور فرما اپنے نور وحدت اور نور کثرت کے ساتھ اور



نُورِكَ فَوْقَ كُلِّ نُورٍ وَنَارٍ وَكُلٌّ مِّنْ فُرُوعِ أَنْوَارِهِ وَأَسْبَائِكَ فَنُورٌ

تیرا نور ہی تمام انوار پر اور نار پر غالب ہے اور سبھی تیرے اسماء کے انوار کی فروع اور شاخ ہیں۔ پس منور منور

قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ وَعَرَفَانِكَ لَا سُبْعًا إِذْ مُشَاهِدَةٌ كُرَاتِ الْأَنْوَارِ لَا

میرے دل کو اپنے نور معرفت و عرفان کے ساتھ تاکہ مستند اور قابل ہو جائے انوار کے جسٹوں کے مشاہدہ کے۔

مِنْ تَعَبٍ وَلَا تَغَيْبٍ وَأَعَدَّ نَفْسِي لِحُلُولِ الْأَفْيَاضِ وَأَنْوَارِ الْحَقَائِقِ

بلا تھکان و کلفت کے اور بغیر ہلاکت کے۔ اور باصلاحیت بنا میرے نفس کو فیوض اور انوار حقائق کے حلول کے لیے

الَّتِي هِيَ عُلُومٌ بِالنِّسْبَةِ وَخَوَارِقٌ بِالْمَقْدَرَةِ وَأَجْعَلْ قُوَّتِي نُورًا وَتَحْتِي

جو کہ ایک لحاظ سے علوم ہیں تو دوسری جہت سے قدرت کے کرمشے اور کرامات ہیں۔ اور بنا میرے اوپر نور اور نیچے

نُورًا مُحِيطًا حَتَّى لَا أَرَى بِالْبَصَرِ وَالْبَصِيرَةَ إِلَّا نُورًا الْهَادِيَ بِنُورِكَ

نور جو مجھے اپنے گھیرے میں لینے والا ہوتی کہ میں نہ دیکھوں سوا اور دل کی آنکھوں سے مگر تیرے ہی نور کو جو خود ہی اپنی طرف ہمارا ہادی ہے طفیل اپنے نور کے

الْقَاضِي وَجَمَلُ رُوحِي بِحَيْثُ تَتَهَافَتُ الْأَنْوَارُ عَلَيْهِ وَتُسْرِي مِنْهُ إِلَى

جو سب پر اثر انداز ہے۔ اور جمیل بنا میرے روح کو اس انداز میں کہ زور سے برسیں انوار اس پر پھر انہیں پہنچائے تو

الْمُسْتَرْتَدِّينَ وَالْمَتَوَجِّهِينَ إِلَى هَذَا الدَّاعِي وَالِي مَنْ أَرَادَ بِهِ نَفْعًا

ان طالبان رشد و ہدایت تک اور توجہ و رغبت رکھنے والوں تک طرف اس دعا گو کے اور جو بھی اس سے نفع اندوزی کا ارادہ کرے

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي نُورًا بِنُورِ الْوَسْاطَةِ وَبِظُهُورِ الْوَسَامَةِ وَأَعْطِنِي مَعِيَّةَ

اے اللہ مجھے نورانی بنا دے ساتھ نور شرافت اور ظہور جمال کے اور عطا فرما مجھے معیت

الْوَصَامَةِ الْوَحْدَةِ بِوَدَادَةِ الْوَصَافَةِ وَارْحَمْنِي مِنَ الْوَرَاثَةِ الْحَقِيقِيَّةِ

شدت تنہائی کی بمع حسن طاعت و خدمت کے اور مجھ پر احسان فرما (ساتھ بخشنے) وراثت حقیقیہ

الْمُحَمَّدِيَّةِ وَاهْدِنِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمَةٍ وَأَمْرُنِي عَلَيْهِ مَعَ

محمدیہ کے اور مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اور اس پر ثبات قدم رکھ ساتھ

الْمُتَّقِينَ بِفَضْلِكَ وَهُوَ قُوَّةٌ هَدَايَتِكَ أَمِينَ مَعَ كُلِّ أَمِينٍ فِي

اپنے نیکو کاروں کے اپنے فضل سے۔ اور اس فضل کا منظر تیری قوی اور بریا ہدایت سے اور یہ دعا بھی قبول فرمائے عیب الدعوات بمع ہر اس دعا کے

اللّٰدِیْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ الْكَاَلِيْمُ الدّٰ اِيْمُ فِى الْاَزَلِ وَالْقَدْرِ

جو امور دین سے متعلق ہو۔ اے اللہ تو ہی ازلی حکمت والا ہے اور سرمدی علم والا صاحب کلام ہمیشہ موجود رہنے والا ازل اور تقدیر میں

وَلَمْ يَكُنْ مَعَكَ شَيْءٌ مِّنَ الْاَصُوْلِ وَالْفُرُوْعِ سِوَا ذَاتِكَ وَالْعَكْسَاتُ

جبکہ نہ تھی ساتھ تیرے کوئی شئی اصول و فرود سے سوا تیری ذات کے اور سوا عکس و پرتو ہائے

التَّوْرٰتِيَّةِ الْحٰدِثَةِ مِّنْ اَنْوَارِ ذَاتِكَ الْقَدِيْمِ مِّنْ نِّهَايَةِ كُلِّ مَادَّةٍ وَّ

نورانی کے جو پیدا ہونے والے ہیں تیری ذات قدیم کے انوار کی نہایت سے اور ان انوار حادثہ میں سے ہر ایک مادہ اور

اَصْلٌ لِّمِثْلِ هٰذَا الْعٰلَمِ مِّنْ غَيْرِ فَنَاءٍ وَّلَا زَوَالٍ فَاَنَا مَكْعَانٌ وَّاَنْتَ

اصل ہے واسطے ایک عالم کے بغیر فنا، وزوال کے پس میں خوشی سے محروم ہوں اور تو

مَعُوْنٌ اُرِيْدُ مِنْكَ بِهٰجَةٍ فِى تَوْجِيْهِ اِلَيْكَ وَّلِساْنِيْ فِى ذِكْرِكَ وَّ

مددگار ہے۔ میں تجھ سے ارادہ کرتا ہوں بھجوت و سرور کا تیری طرف متوجہ ہونے کے دوران اور میری زبان کے تیرے ذکر میں اور

قَلْبِيْ فِى فِكْرِكَ وَّجِسْمِيْ لِمَعَانٍ يُّعْكِسُ نُوْرًا جَمٰلِكَ وَّجَلٰلِكَ دٰ اِيْمًا

دل کے تیرے فکر میں (متغرق ہونے کے دوران) در آنحالیکہ میرا جسم چمکتا ہو ہمیشہ تیرے نور جمال و جلال کے عکس و پرتو کے ساتھ

وَبِعِيْنٍ نُّوْرًا كَمٰلِكَ وَّكَمٰلِ مَوٰلِدِ النَّبِيِّيْنَ وَّجَعَلَ اللهُ مَوْضِعَ

اور تیرے نور کمال کے عین اور کمال کے کمال کے ساتھ (چمکتا ہو) انبیاء علیہم السلام کے مقامات و ولادت میں اور نائے اللہ میرے جسم کی اقامت گاہ

اِسْتِيْطٰنَهٗ مَحَلٌّ اٰمِنٌ وَّرٰ اِيْمٰنَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کو اپنے امن اور ایمان کی جگہ۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سرور محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْنٰى بِقَوْلِهِ تَعَالٰى عَزَّ وَّجَلَّ اِظْهَارِ الْقَدْرِ هُوَ

اور ہمارے آقا محمد کی آل پر جو مقصود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے جو ان کی قدر کو ظاہر کرنے کے لیے ہے

بَيٰنًا لِّمَرْتَبَتِهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالدِّیْنِ مَعَهُ اَشَدُّ اَعْلٰى الْكُفٰرِ

اور ان کے مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو ان کے ساتھ ہیں بہت سخت ہیں کفار پر (اور)

رَحْمًا بَيْنَهُمْ تَرَامُّ رُكْعًا سَجْدًا اِيْتَبَعُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا

آپس میں رحیم اور مہربان ہیں۔ دیکھو گے انہیں رکوع کرتے سجدے کرتے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کے طلبگار ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا نُورَ إِلَّا هُوَ

اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی آل پر جو آقا ایسے نور کامل ہیں کہ نور نہیں مگر وہی

وَلَا ظُهُورَ إِلَّا هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اور نہیں ظہور مگر انہیں کا۔ درود بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر اور سلام بھیجے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما اُوپر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْخَلْقَ

ہمارے سردار محمد اور ہمارے سردار محمد کی آل پر وہ آقا کہ پیدا فرمایا ہے اللہ نے

وَالْمَخْلُوقَ مِنْ نُورِهِ وَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ خَيْرٍ مِنْ نُورِهِ وَخَلَقَ اللَّهُ

مخلوق کو ان کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہر خیر کو ان کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ

تَعَالَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ مِنْ نُورِهِ وَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَرْشَ

تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو ان کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے عرش کو

وَحَمَلَةَ الْعَرْشِ مِنْ نُورِهِ وَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْكُرْسِيَّ وَخَزَانَةَ

اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو ان کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کرسی کو اور کرسی

الْكُرْسِيِّ مِنْ نُورِهِ وَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَمَ وَاللَّوْحَ مِنْ نُورِهِ وَ

کے خزانہ کو ان کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے قلم اور لوح کو ان کے نور سے اور

خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ وَالْمَلَائِكَةَ مِنْ نُورِهِ وَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الشَّمْسَ

پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت اور ملائکہ کو ان کے نور سے۔ اور پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورج

وَالْقَمَرَ وَالْكَوَاكِبَ مِنْ نُورِهِ وَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَقْلَ الْكَمَلَ وَالْعِلْمَ

چاند اور ستاروں کو ان کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ نے کامل ترین عقل اور علم

الْكَامِلَ مِنْ نُورِهِ وَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْجِلْمَ وَالْعَصِمَةَ مِنْ نُورِهِ وَخَلَقَ

کامل کو انہیں کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تحمل و بردباری اور عصمت و عفت کو آپ کے نور سے اور پیدا کیا

اللَّهُ تَعَالَى التَّوْفِيقَ بِخَيْرِ رَفِيقٍ مِنْ نُورِهِ وَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ

اللہ تعالیٰ نے توفیق کو جو بہترین رفیق ہے آپ کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء

وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءَ وَالشُّهَدَاءَ وَالسُّعَدَاءَ وَالْمُطِيعِينَ مَنْ

و مرسلین۔ اور (ارواح) اولیاء و شہداء کو اور سعادت مند اور فرمانبردار مومنین

الْمُؤْمِنِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ مِنْ نُورِهِ وَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ مَا سَوَى

جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں (ان کی روحوں کو) آپ کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تمام ماسویٰ کو

اللَّهُ مِنْ نُورِهِ يَا نُورَ خَلْقِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْوَرُ ظَاهِرِي وَبَاطِنِي بِنُورِ

آپ کے نور سے۔ اے اللہ کی ساری مخلوق کے نور (محمد عربی) اے اللہ منور فرما میرے ظاہر اور باطن کو ساتھ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم

مُحَمَّدٍ وَحَقِّقْ بَاطِنِي وَظَاهِرِي بِحَقَائِقِ حَقِيقَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کے اور میرے باطن و ظاہر کو برپا اور قائم فرما حقیقت محمدیہ کے حقائق کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم

وَاسْتَعْرِقْ فِيكَ كُلِّي بِحَاطَةِ مُخَالَطَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْفَظْنِي

اور میرے پورے وجود کو مستغرق کر دے اپنی ذات میں بمع محمدی انوار کی محیط مخالطت اور کامل اختلاط کے اور میری حفاظت فرما

بِحِفَاظَتِكَ بِحِفْظِ حَفِيفِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بِكَ فِي مَرَاتِبِ وُجُودِكَ

اپنے حفظ نام کے ساتھ مدد سے میں اس حفاظت کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت ہے۔ اے اللہ میں تیرے ساتھ اشاعت کرتا ہوں تیرے مراتب وجود

وَشُهُودِكَ حَتَّى لَا أَشْهَدَ غَيْرَ أَعْمَالِكَ وَصِفَاتِكَ بِوَجْهِ الْحَقِّ الَّذِي

اور شہود میں حتی کہ میں نہ دیکھوں (کوئی فعل اور صفت) سوائے تیرے افعال اور صفات کے بظہیر اس حجت حق کے

خَلَقَ نُورَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لَنَا عِلْمَ التَّوْحِيدِ وَالْعُرْفَانِ

جس نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اے اللہ ہمارے لیے توحید و معرفت کے علم کو آسان فرما۔

اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا كُنُوزَ الْخَفِيِّ الْخَفِيِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ افْضُ عَلَيَّ مَوَاهِبَ

اے اللہ ہمارے لیے کھول دے مخفی اور اہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے خزانے۔ اے اللہ فیضان فرما مجھ پر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِفَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ أَعِزَّنِي

لا الہ الا اللہ کے مواہب و عطیات کا۔ اے اللہ مجھے غنی فرما لا الہ الا اللہ کی فضیلت کی بدولت۔ اے اللہ مجھے معزز فرما

بِعِزِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ تَرَيَّنِي بِزِينَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ جَمِّلْنِي

لا الہ الا اللہ کی عزت کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے آراستہ فرما لا الہ الا اللہ کی زینت کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے صاحب جمال بنا

يَجْمَلُ لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ كَمَلَنِي بِكَمَالِ لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ قَوِّنِي

لا الہ الا اللہ کے جمال کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے صاحب کمال بنا لا الہ الا اللہ کے کمال کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے طاقتور بنا

بِقُوَّةِ لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ أَيِّدْنِي بِرُوحِ لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ سَخِّرْ لِي

لا الہ الا اللہ کی قوت کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے تقویت بخش لا الہ الا اللہ کی روحانیت کے ساتھ۔ اے اللہ سخر فرما میرے لیے

رُوحَانِيَّةَ لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ أَهْلِكْ أَعْدَائِي الْجَلِيَّ وَالْخَفِيَّ بِسَيْفِ

روحانیت لا الہ الا اللہ کی۔ اے اللہ ہلاک فرما میرے علانیہ اور خفیہ دشمن کو ساتھ سیف دیتے

لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اجْلِسْنِي عَلَى بِسَاطِ لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ نَزِّهْ رُوحِي

لا الہ الا اللہ کے۔ اے اللہ مجھے بٹھا لا الہ الا اللہ کے بساط اور بچھونے پر۔ اے اللہ سیر کر میری روح کو

فِي رِيَاضِ لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اطْعِمْنِي مِنْ مَمَوَائِدِ لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ کے باغات میں۔ اے اللہ مجھے کھلا لا الہ الا اللہ کے دسترخوانوں سے۔

اللَّهُمَّ اسْقِنِي مِنْ شَرَابِ لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى لآ إِلَهَ إِلَّا

اے اللہ مجھے پلا لا الہ الا اللہ کے شراب سے۔ اے اللہ مجھے ثابت و برقرار رکھ لا الہ الا اللہ

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي عَلَى كَلِمَةِ لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ أَمِتْنِي عَلَى لآ إِلَهَ إِلَّا

پر۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایمان پر۔ اے اللہ مجھے موت دے لا الہ الا اللہ کے

اللَّهُمَّ ابْعَثْنِي عَلَى لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ نَبِّتْ أَقْدَامِي عَلَى الصِّرَاطِ

داقرار پر اے اللہ مجھے قبر سے اٹھانا لا الہ الا اللہ کی تصدیق پر۔ اے اللہ برپا اور قائم رکھنا میرے قدموں کو راہ

الْمُسْتَقِيمِ بِقُوَّةِ لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ بِحَدِيثِ

راست پر لا الہ الا اللہ کی قوت کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے پناہ دینا نار جہنم سے ساتھ حرز اور امان

لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ ادْخِلْنِي الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى بِعِزَّةِ لآ إِلَهَ

لا الہ الا اللہ کے۔ اے اللہ مجھے فردوس اعلیٰ میں داخل فرما بظہیل عسرت لا الہ

إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ تَوَجِّنِي بِأَنْوَارِ لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ نَوِّرْ قَلْبِي بِأَنْوَارِ

لا الہ الا اللہ کے۔ اے اللہ مجھے تاج پہنا لا الہ الا اللہ کے انوار کا۔ اے اللہ میرے دل کو منور فرما ساتھ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَزَدَنِي بِمَشَاهِدَةٍ وَجْهَكَ الْكَرِيمِ بِنُورِ أَنْوَارِ لَا

لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ کے انوار کے۔ اے اللہ مجھے بیش از بیش عطا کر مشاہدہ اپنی ذات کریمہ کالہ الا اللہ اللہ کے انوار

إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ هُوَ هُوَ وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

سے نور خاص کی بدولت اللہ اللہ اللہ ہو ہو ہو۔ اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صلی اللہ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا نَجِي وَعَلَيْهَا نُبُوتٌ وَعَلَيْهَا نُبُوتٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

علیہ و آلہ وسلم اسی (عقیدہ توحید و رسالت) پر ہم زندہ رہیں گے اور اسی پر نبوت ہونے لگے اور اس پر اٹھائے جائیں گے انشاء اللہ

مَعَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمُسْتَبْشِرِينَ بِنِعْمَةٍ وَكَرَمٍ وَفَضْلِهِ

ان ایمان داروں کی صحبت میں جو مطمئن اور مسرور ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ

إِرْحَمْ عَلَيَّ يَا أَنْوَارِ حَتَّى تَسْتَعْرِقَ نُورَ قَوْحِي وَنُورَ تَحْتِي وَنُورَ

مجھ پر ہر طرح کی رحمت نازل فرما یہاں تک گھیرے میں سے نور میرے اوپر سے اور نور ہی نیچے سے اور نور

شِمَالِي وَنُورَ يَمِينِي وَقَلْبِي مَهْلُو بِنُورٍ وَصَيَّرَ عِدْوِي مُسَخَّرًا وَنُقَادًا

بائیں سے۔ اور نور دائیں سے درآئے گا لیکن میرا دل بھر لوں گا نور کے ساتھ۔ اور مسخر فرما میرے لیے میرے دشمن (نفس) کو اور میرے

لِي بِرَحْمَتِكَ فَلَا يَضُرُّنِي بَلْ حَوْلُهُ إِلَى نُورٍ لَطِيفٍ كَأَنَّ مَظْهَرَ

تابلو بنا ساتھ اپنی رحمت خاص کے پس وہ مجھے ضرر نہ دے۔ بلکہ اس کو پھیر دے طرف لطیف نور کے جو تیرا مظہر

جَمَالِي رَجِيْبِي وَأَوْقَفَنِي عَلَى أَنْوَارِ الرَّحْمَةِ اللَّائِقَةِ بِخَلْقِكَ إِمَّا

جمال اور عس شان رجبی ہو اور مجھے واقف فرما رحمت کے ان اقسام پر جو لائق ہیں تیری مخلوقات کے ساتھ یا تو

بِدَعْوَةِ الْإِسْمِ النَّوْرِ أَوْ بِاللِّدَامِ يَا نُورَ الْأَنْوَارِ أَوْ بِلِتَابَةِ صَحِيفَةٍ

اسم نور کی دعوت و وظیفہ کے ساتھ یا ہمیشہ کے لیے اے نور سب انوار کے۔ یا ساتھ لکھنے صحیفہ کے

مَجْعُولَةٍ فِي عُنُقِهِ أَوْ مَشْغُولَةٍ فِي شَرَابِهِ مُؤَثِّرَةٌ بِتَأْثِيرِ تَأْمِنٍ مِّنْ

جو ڈالا گیا ہے نفس کی گردن میں۔ یا وہ مشغول ہے اس کے پینے میں جو مکمل مؤثر ہے سے تاثیر کامل کے ساتھ

عِنْدَكَ يَا عَلَّامُ ارْفَعْ أَنْوَارَ الْأَلَامِ وَأَنْتَ نُورٌ فِي كُلِّ السَّاعَاتِ

تیرے پاس سے۔ اے بہت زیادہ علم والے اور فرما تمام قسم کے دروالم کو۔ اور تو ہی نور ہے تمام ساعتوں میں۔



الدّاعی الیک من نور معدی فامتلاً أمعانی و کبدی و عروقی

جو تیری طرف بلانے والا ہے عظیم و جلیل نور سے پس بھروسے میری انتڑیوں، جگر اور تمام رگوں کو

بالانوار امتلاء العرش بها فاقابلہ رأساً برأس من غیر حساب

ساتھ انوار کے مانند بھرنے عرش کے ساتھ انوار کے پس ان کو قبول کرنے کی صلاحیت دیا جاؤں تمام کے تمام کی بغیر حساب و حد بندی کے

وأسقنی کاساً کادحاً من قدّاحہ و نور قلبی بنور نورہ فی

اور پلا مجھے پیالا کہ سخت مشقت اٹھانے والا ہے اپنے بنانے والے سے۔ اور منور فرما میرے دل کو عظیم نور کے ساتھ انوار میں سے

الانوار وانظر بنظر ناظرہ فی النواظر الا نظار عن جوہرۃ الانوار

اور مشرف فرما مجھے آنکھوں کی نظروں میں سے ایسی نظر کے ساتھ جو نور حاصل کرنے والی ہے، انوار لا ہوتیہ

اللّٰہوتیۃ الازلیۃ الصمدیۃ اللّٰہم انی اسئلك النور یا نوراً

ازلیہ صمدیہ کے جوہر سے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نور کلاکے نور کو نورانیت بخشنے

النور و یا مدبر الامور و یا عالم الاسرار و السرور و یا نور

والے اور اے امور کی تدبیر فرمانے والے۔ اور اے جاننے والے اسرار کے مستروں کے۔ اور اے نور کو

النور انور لنا لحال خیال افعال اعمال اقوال کل الینان نور

منور کرنے والے ہمارے لیے نورانیت پیدا فرما واسطے ہماری طرف راجع احوال خیال۔ افعال۔ اعمال و اقوال کے اپنے نور خاص

نورک و نور کل اعنی نور حبیبک و محبوبک محمد صلی اللہ

سے اور ساری مخلوق کے نور یعنی اپنے حبیب و محبوب محمد کے نور سے صلی اللہ

علیہ و سلم بعطائک و نورنا بنور طاعتک و اطاعتک

علیہ و سلم بطفیل اپنی عطا کے۔ اور ہمیں منور فرما اپنی فرمانبرداری۔ اپنی اطاعت کے نور سے اور اپنے

رسولک بحرمة نورہ و انوارہ و عزّہ و عزّتہ و سیرہ و اسرارہ

رسول کی اطاعت کے نور سے برسیلہ عزت و احترام ان کے نور و انوار کے اور ان کے غلبہ اور عزت کے اور ان کے طیفہ سرا و اسرار و رموز کے

صلی اللہ علیہ و سلم اللّٰہم صلّ و سلم علی سیدنا محمد و علی آل

صلی اللہ علیہ و سلم۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور ان کی آل پر





سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ قُلُوبِنَا وَسِرِّ سِرِّ اٰمِرِنَا وَفَهْمِ عُقُولِنَا وَبَاصِرِ

جو ہمارے قلوب کے نور ہیں۔ اور ہمارے بواطن و اندرون کے سِرِّ مخفی ہیں۔ اور ہمارے عقول کا فہم اور ان کی دانش ہیں۔ اور ہماری بصیرت اور نگاہ قلب کی

بَصِيرَتِنَا وَبَصْرِ بَصَرِنَا مِنْ نُورِ دَقَائِقِ الْجَلَالِ الْاَكْرَمِ وَسِرِّ حَقَائِقِ

بینائی ہیں اور چشم سر کی بصارت ہیں یعنی جلال اکرم کے دقائق کے نور

الْجَمَالِ الْاَعْظَمِ وَمَظْهَرِ الْاَنْوَارِ الصِّفَاتِي الْاَتَمِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جمال اعظم کے حقائق کے راز پنہانی اور اللہ تعالیٰ کے انوار صفاتی کے منظر اتم پر لے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسِرِّ حَقَائِقِ الْجَمَالِ الْاَعْظَمِ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ جمال اعظم کی حقیقتوں کے راز مخفی ہیں

وَنُورِ دَقَائِقِ الْجَلَالِ الْاَكْرَمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور تیرے جلال اکرم کی لطافتوں اور باریکیوں کے نور ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَبْلَةَ الشَّجَلِيِّ الدَّائِي وَمَظْهَرِ النُّورِ الصِّفَاتِي

اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ تیری شجلی ذاتی کا قبلہ اور مرکز ہیں اور تیرے نور صفاتی کی جلوہ گاہ ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُفِيضِ النُّورِ

لے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ نور کا چشمہ فیضان ہیں

السَّرَاجِ الشَّجَاجِ وَمُتَلَاطِمِ الْاُمُوَاجِ بِنُورِ الْبَصَائِرِ وَمَدَدِ الدَّوَابِّ

جو ایسے چراغ ہیں کہ اس سے روشنی چھوٹ رہی ہے اور ایسے سمندر ہیں جس کی موجیں تلاطم خیز ہیں بصیرتوں کے نور کے ساتھ اور مصائب و آفات میں امداد و اعانت

اَلِهِي اَظْهَرَ نُورِ حَيَاتِكَ فِي حَيَاتِي اَنْتَ اِلَهُ الْاَنْوَارِ الْمَشْرِقَةِ فِي

کے ساتھ۔ لے میرے معبود بحق ظاہر فرما اپنی حیات ابدی کے نور کو میری حیاتی میں تو ہی مالک ہے ان انوار کا جو چمکنے والے ہیں

اَطْبَاقِ السَّمَوَاتِ الْمُتَجَلِّيَةِ وَالْاَنْوَارِ الْجَلِيَّةِ الْبَرَّاقَةِ الْمُسْتَجِنَّةِ مِنْهُ

روشن آسمانوں کے طبقات میں اور بے پردہ چمکنے والی انوار میں جن کی بدولت چھپ جانے والے ہیں

اَلْاَنْوَارِ الظُّلْمَانِيَّةِ الْكِدْرَةِ الْجَهَنَّمِيَّةِ الْمَخْلَقَةِ الْمُحْجَلَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّي

وہ انوار جو ظلمانی اور مکدر ہیں اور جہنم سے تعلق رکھتے ہیں اور بوسیدہ کرنے والے اور بے رونق ہیں۔ لے اللہ میں بالیقین

أَسْأَلُكَ خِيَالَ أَنْوَارِ الْمُتَحَقِّقِ يَا نُورِ الْمَطْلُوقِ وَيَا كِبَارَ الدِّينِ خُلُقًا

سوال کرتا ہوں تجھ سے اس ہی مقدس کا خیال نورانی جو تیری ذات مطلق کے انوار سے قائم و ثابت ہیں اور دین کو از روئے اخلاق بڑائی اور عظمت دینے کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نُوِّرَ

ساتھ مصروف ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور اُوپر آل سیدنا محمد کے (وہ سید خلائق) کہ متورف فرمایا

اللَّهُ الْاَنْوَارِ بِنُورِ نُورِ مُحْيَاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اللہ تعالیٰ نے انوار کو ان کے چہرہ انور کے نور سے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَلَا لَيْتَ الْاَنْوَارِ الرَّبَّانِيَّةِ حَوَالِيَهُ

آل محمد پر کہ چمکے انوار ربانی اس (آقا) کے ارد گرد

لَمَّا اتَّحَفَهُ اللَّهُ بِالْقُرْبِ مِنْهُ وَإِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرف فرمایا اپنے قرب ذات سے اور اپنی طرف بلانے کے ساتھ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحْبَبْتَ وَتَوَجَّهْتَ إِلَى نُورِ اللَّهِ

آل محمد پر جسے تو نے محبوب بنایا اور راغب و طالب بنایا اپنے نور کا اپنے فضل

بِفَضْلِ اللَّهِ وَكَرَّمَ اللَّهُ مِنْ عَيْنِ نُورِ اللَّهِ وَنُورُ ظُهُورِهِ صَلَّى

اور کرم سے جو شروع ہونے والا ہے عین نور ذات سے اور ان کی ذات کو نورانی بنا اور ان کے ظہور کو بھی نورانی بنا صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ رحمتیں نازل فرما ہمارے مولیٰ محمد اور آل محمد پر جو (مولیٰ) کہ شب بیدار ہیں

مُحَمَّدٍ الْهَجُودِ الْهَادِي الَّذِي خَلَقْتَ أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ نُّورُهُ وَنُورُهُ

اور رہتے خلق ہیں کہ پیدا کیا تو نے ہر شئی سے پہلے ان کے نور کو جبکہ ان کا نور

قَبْلَ كُلِّ نُورٍ وَنُورُهُ مِنْ نُورِ اللَّهِ وَظُهُورُهُ مِنْ ظُهُورِ اللَّهِ وَسُرُورُهُ

ہر نور سے پہلے ہے۔ ان کا نور اللہ کے نور سے ہے اور ان کا ظہور اللہ تعالیٰ کے ظہور کا مظہر ہے اور اس کے سرور سے ہے

اللَّهُ وَسُرُورُهُ مِنْ سُرُورِ اللَّهِ وَسُرُورُهُ مِنْ ظُهُورِهِ وَسُرُورُهُ

اور ان کا سرور اللہ تعالیٰ کے سرور سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا سرور ان کے ظہور اور سرور سے ہے



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِوَجْهِكَ النُّورِ وَبِعَرْشِكَ

صلی اللہ علیہ وسلم اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری ذات نورانی کے توسل سے۔ اور عرش نورانی کے صدقے میں

النُّورِ وَبِقَلْبِكَ النُّورِ وَبِرُوحِكَ النُّورِ وَبِصُورِكَ النُّورِ وَبِكُرْسِيِّكَ

اور تیرے قلم قدرت کے وسیلے سے جو سرا سر نور ہے۔ اور تیرے مخصوص روح کے طفیل جو کہ سرا سر نور ہے۔ اور نورانی صور امراہیل کے صدقے میں۔ اور تیری کرسی

النُّورِ وَأَسْأَلُكَ يَا نُورَ النُّورِ وَيَا نُورَ كُلِّ نُورٍ وَيَا مَنْوِرَ كُلِّ نُورٍ وَ

کے توسل سے جو نور محض ہے۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے نور کی نورانیت اور سب انوار کے نور اور انوار کو منور کرنے والے اور

أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي عَظْمِي

میں طلب کرتا ہوں تجھ سے کہ تو پیدا کرے میرے دل میں نور کو۔ اور میری آنکھ میں نور۔ اور میری ہڈیوں میں

نُورًا وَفِي لَحْيِي نُورًا وَفِي بَشْرِي نُورًا وَفِي شَعْرِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي

نور کو اور میرے گوشت میں نور۔ اور میرے چہرے میں نور پیدا فرما دے۔ اور میرے بالوں میں نور کو تخلیق کرے۔ اور میری دائیں جانب

نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَمِنْ أَمَامِي نُورًا وَمِنْ خَلْفِي نُورًا وَمِنْ فَوْقِي

نور۔ بائیں طرف نور۔ اور میرے آگے نور۔ اور میرے پیچھے نور۔ اور میرے اوپر

نُورًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُعْتَالَ مِنْ تَحْقِيقِ وَأَنْ تَغْشَانِي فِي النُّورِ إِنَّكَ

نور پیدا فرمائے۔ اور میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری ذات کی اس سے کہ میں غارت کیا جاؤں دولت یقین سے اور مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے چھپالے نور میں

أَنْتَ نُورُ الْأَنْوَارِ مَنْوِرُ الْمُقَرَّبِينَ وَالْأَبْرَارِ سُبُوْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ

بیشک تو ہی سب انوار کا نور ہے۔ اور نور بخشنے والا ہے مقربین اور محسنین کو۔ بہت ہی پاکیزہ و مقدس ہے۔ رب ہے

الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ تَعَالَى رَبُّ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ هُمْ فِي حَضْرَةِ الْقُدُّوسِ

تمام ملائکہ کا بالعموم اور روح امین کا بالخصوص۔ بلند مرتبت ہے رب ان ملائکہ کا جو کہ اس کی بارگاہ مقدس میں

حَاضِرُونَ تَعَالَى رَبُّ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ هُمْ فَاعِلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

حاضر ہیں۔ بلند شان ہے رب ان ملائکہ کا جو کہ وہی کرتے جس کا حکم دئے جاتے ہیں

تَعَالَى رَبُّ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ هُمْ فِي الْأَرْضِ سَاعُونَ اللَّهُمَّ إِنِّي

عالی مرتبت ہے اب ان ملائکہ کا جو زمین میں سعی اور جدوجہد کرنے والے ہیں۔ اے اللہ بے شبہ میں ہوں

أَسْأَلُكَ يَا أَرْوَاحَ الْمَفْضَلَةِ وَبَلِيَّالِ عَشِيرِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

سائل تیری بارگاہ کا برسید ان ارواح کے جو فضیلت اور برتری دے گئے ہیں اور بظیفیل دس مقدس راتوں کے۔ اے اللہ صلاۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ شَجْرَةَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَغْصَانٍ

ہمارے سرور محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں پیدا فرمایا ایک درخت کو جس کی چار ٹہنیاں

وَسَمَّيْنَهَا شَجْرَةَ الْيَقِينِ بِالْأَبْتِدَاءِ ثُمَّ خَلَقَ نُورًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ہیں اور اس کو شجرۃ الیقین کے نام سے موسوم فرمایا۔ پھر پیدا فرمایا آپ کے نور کو صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ كَمَثَلِ طَائُوسٍ فِي حِجَابٍ مِّنَ الدَّرَّةِ الْبَيْضَاءِ ثُمَّ وَضَعَهَا

مانند طاؤس کے سفید و براق موتی کے حجاب میں پھر اسے رکھا

عَلَى تِلْكَ الشَّجْرَةِ وَسَبَّحَ عَلَيْهَا سَبْعِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ خَلَقَ مِرْآةَ

اس درخت پر۔ اور اس پر صلوات نازل فرمائی ستر ہزار سال تک پھر پیدا فرمایا حیار کا آئینہ

الْحَيَاءِ وَالْإِلَهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَى نُورِي فِي وَجْهِهِ الْكَرِيمِ هُوَ

اور آپ کی آل اور اصحاب پر (صلوات و سلام بھیج) جو آپ کے انوار کو دیکھا کرتے تھے آپ کے چہرہ مکرم میں درآئی لیکر آپ

أَشَدُّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ وَبَارِكُ بِعَدَدِ مَا أَشْرَقَتْ بِالنُّورِ الَّذِي

بہت زیادہ شرمیلے تھے کنواری عورتوں سے (جو پردہ میں ہوں) اور آپ کی ذات پر برکت اور سلامتی نازل فرمانا اشیاء کی گنتی و شمار کے مطابق جو

خَلَقْتَ مِنْ نُورِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَشْيَاءِ اللَّهُمَّ

تو نے روشن فرمائیں ساتھ اس نور کے جو تو نے پیدا کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ النَّبِيِّ الْأَرْمِيِّ

رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ اور تیرے رسول مقسم اور حبیب مکرم ہیں جو ایسے

الَّذِي أَخْبَرَ فَوْضَةَ اللَّهِ مِنْكَ الدَّرَّةَ بِأَسْتِقْبَالِهِ فَلَمَّا نَظَرَ

نبی امی ہیں کہ انہوں نے (کان و ما یكون کی) تجریدی ہے تب اللہ تعالیٰ نے رکھا تمہارے (نور پر محیط موتی کو اپنے روبرو جب نظر کی

الطَّاءِ وَسُ فِيهَا رَأَى صُورَةَ أَحْسَنَ فَاسْتَجَبِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَسَجَدَ

تمہارے طاؤس نور نے اس سفید موتی پر تو بہت ہی حسین صورت کو دیکھا۔ پس اللہ تعالیٰ سے حیا و امتیاز ہو گئی تب سجدہ کیا



خَمْسَ مَرَّاتٍ فَصَارَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ فَرَضًا بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ

پانچ مرتبہ تو فرض ہو گئے آپ پر اور آپ کی اُمت پر وہ سجدے پانچ نمازوں کی صورت میں

بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى ذَلِكَ التَّوْبِ نَظْرَ الْمَحَبَّةِ

اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ اور نظر فرمائی اللہ عزوجل نے طرف اس توبہ کے نظر محبت والی

فَتَعَرَّقَ حَيَاءً مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَيْهِ وَصَّحِبِهِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ مَحْبُوبَهُ

تو وہ پسینہ پسینہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کی وجہ سے۔ اور صلوات نازل فرما آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے

بِتَعْلِيمٍ مَّحَبَّتِهِمْ إِيَّاهُ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ تَعَالَى

محبوب کو محب دیا انھیں اپنی محبت کی تعلیم دینے اور اس کے جواب و لزوم کو ان کے سامنے بیان کرنے کا فرما دیجئے اَللّٰهُمَّ سُبْحَانَكَ جِبْت رَحْمَتِكَ هُوَ تَوْمِيرِي اتِّبَاعِ

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بَعْدَ مَا لَا نِهَآيَةَ لِأَفْرَادِهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ أَحْصَائِهِ أَحَدٌ

کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور برکات و تعلیمات نازل فرما اپنے محبوب اور ان کے اہل بیت و اصحاب پر اتنی کثیر مقدار میں کہ جس کے افراد کی انتہا نہ ہو۔ اور نہ

غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَمَا سَأَلْتُكَ

تو اور نہ اس کے احاطہ اور شمار پر کوئی بھی۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لے اللہ درود و صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو تیرے بعد خاص رسول مہتمم ہیں اور

حَبِيبِكَ النَّبِيِّ الرَّقِيِّ الَّذِي خَلَقَ مِنْ تَوْبِهِ فَمِنْ عَرَقِ رَأْسِهِ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ

تیرے حبیب نبی اُمّی جو (سزتا پایا) توبہ سے پیدا کئے گئے۔ پس ان کے سزاقدس کے پسینہ سے پیدا کیا گیا ملائکہ کو

وَمِنْ عَرَقِ وَجْهِهِ خَلَقَ الْعَرْشُ وَالْكَرْسِيُّ وَاللُّوْحُ وَالْقَلَمُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

اور ان کے چہرہ اقدس کے پسینہ سے پیدا کئے گئے عرش و کرسی اور لوح و قلم اور شمس و قمر

وَمَا كَانَ فِي السَّمَاءِ مِنَ الْحَبَابِ وَالْكَوْكَبِ الْهَضِيئِ وَمِنْ عَرَقِ صَدْرِهِ

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے یعنی حبابات نور اور روشن ستارے۔ اور ان کے سینہ مبارک کے پسینہ سے

خَلَقَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلُونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَكُلُّ وَلِيٍّ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ وَ

پیدا کئے گئے انبیاء و مرسلین اور شہداء و صالحین اور تمام اولیاء اور

صَحْبِهِ الَّذِينَ أَفْضَلُهُمُ الصِّدِّيقُ ثُمَّ عَمْرُوَةُ عَثْمَانُ ثُمَّ عَلِيُّ مَن قَالَ لَهُ

(درود و صلوات نازل فرما) آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر جن میں سے سب افضل البوکر ہیں۔ ان کے بعد عمر پھر عثمان اور ان کے بعد علی رضی عنہم کے متعلق



الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ نُورًا أَنْ أَنْظُرَ فَرَأَى عَنْ أَمَامِهِ نُورًا وَعَنْ وَّرَائِهِ نُورًا

جن کے نور مقدس کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نظر اٹھائیے تو اس نور انور نے اپنے آگے ایک نور دیکھا اور اپنے پیچھے بھی نور دیکھا۔

وَعَنْ يَمِينِهِ نُورًا وَعَنْ يَسَارِهِ نُورًا وَهُوَ نُورُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ

اور اپنی دائیں جانب ایک نور اور بائیں جانب بھی نور دیکھا اور وہ چاروں نور ابو بکر و عمر اور عثمان

وَحِيدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَسَقَمَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ثُمَّ سَبَّحَ

وحید (کے) تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں جنت کی پاکیزہ شراب پلائے۔ پھر تسبیح بھی

سَبْعِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ خَلَقَ نُورَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نُورِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

ستر ہزار سال۔ پھر پیدا کیا گیا انبیاء کے نور کو نور محمدی سے صلی اللہ علیہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُورًا وَإِلَيْهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ كَانُوا كُلُّ مِنْهُمْ عِنْدَ

و سلم سلسلہ وار۔ اور صلوٰۃ و سلام نازل ہو آپ کے آل و اصحاب پر جن میں سے ہر ایک مومنین

الْمُؤْمِنِينَ لَيْتِنَا وَعَلَى الصَّغَارِ رَحِيمًا وَعَلَى الْفُقَرَاءِ مُحْسِنًا وَعَلَى

کے لیے نرم اور گداز تھا اور بر محمد داروں پر رحم فرمانے والا۔ فقراء پر احسان فرمانے والا (اللہ و رسول کے)

الْأَعْدَاءِ قَهُورًا وَبَارِكْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فِي دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ وَالْحُورِ

و دشمنوں پر قہر اور غضب الہی کا نمونہ۔ اور برکات و سلامتی نازل فرما مطابق تعداد ان تمام اشیاء کے جو جنتوں کے مختلف درجات میں ہیں اور

وَالْقُصُورِ وَالْفُؤَاكِهِ وَالْأَطْعِمَةِ طَيِّبًا لِأَهْلِهَا وَرَاحَةً وَسُرُورًا اللَّهُمَّ

شمار حوروں کے اور ممالک کے اور جنتی میوہ جات اور طعاموں کے جو اہل جنت کے لیے طیب و پاکیزہ ہیں اور موجب راحت و سرور کے اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي

صلوات نازل فرما ہمارے آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول معظم اور حبیب مکرم نبی امی ہیں جن کے

نَظَرَ اللَّهُ إِلَى نُورِهِ فَخَلَقَ مِنْهَا أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالُوا أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نور مقدس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نظر خاص فرمائی پس اس سے انبیاء علیہم السلام کی روحوں کو پیدا فرمایا تو وہ سب کہنے لگے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ خَلَقَ قَنَدِيلًا مِنَ الْعَقِيقِ الْأَحْمَرِ يَرَى

محمد رسول اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ایک قندیل مرغ عقیق سے کہ دیکھا جاسکتا تھا اس کی شفافیت کی وجہ سے

جِبْرَائِيلُ لَافْتِي الْاَعْلَىٰ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جبرئیل علیہ السلام نے کہا نہیں کوئی صاحب فتوت اور جوانمرد مگر علی۔ اور رکتیں اور سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ صلوات نازل فرما ہمارے آقا محمد

عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ النَّبِيِّ الَّذِي خُلِقَ مِنْ عَرَقِ

پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول و حبیب نبی امتی ہیں کہ پیدا کیا گیا

حَاجِبِيهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

ان کے ہر دو ایروں کے پسینہ سے مؤمنین و مؤمنات اور مسلمین و مسلمات کو۔

وَمِنْ عَرَقِ اذْنِيهِ اَرْوَاحُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسِ وَمَا اشْبَهَ

اور آپ کے دونوں کانوں کے پسینہ سے یہودیوں۔ نصرانیوں۔ مجوسیوں اور ان جیسے دیگر

ذٰلِكَ مِنْ اَهْلِ الضَّلٰلٰتِ وَمِنْ عَرَقِ رِجْلِيهِ خُلِقَ الْاَرْضُ مِنَ الْمَغْرِبِ

گمراہوں کی روحوں کو (پیدا کیا) اور آپ کے دونوں پاؤں کے پسینہ سے پیدا کی گئی ساری زمین مغرب سے

وَالْمَشْرِقِ وَمَا فِيهَا مِنْ اَنْوَاعِ الْمَخْلُوقَاتِ هِ وَالِهٖ وَصَحْبِهٖ الَّذِيْنَ كَانُوْا

مشرق تک اور وہ تمام انواع و اقسام کی مخلوقات جو اس زمین میں ہے۔ اور (دوسرا) بیچ، آپ کے آل و اصحاب پر جو کہ تھے

عٰشِقِيْنَ بِنُورِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُقَدِّمِيْنَ بِرُؤْيِيَةِ جَمَالِهٖ

عاشق ان کے نور جمال پر صلی اللہ علیہ وسلم اور سب امت پر شرف پانے والے تھے آپ کے دیدار جمال کی بدولت

فَبِذٰلِكَ النُّوْرِ صَارُوْا كَالنُّجُوْمِ فِي السَّمٰوٰتِ هِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بَعْدَ

پس ہونگے اس نور مقدس (کے عکس اور پرتو) کی بدولت آسمان کے ستاروں کی مانند اور برکت و سلامتی عطا فرما مطابق تعداد

كُلِّ مَا تَعَلَّقَ بِهٖ اِيْجَادُكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْاَعْرَاضِ فِي الْاَرْضِ وَ

ان تمام اشیاء کے جن کے ساتھ تیری ایجاد و تخلیق کا تعلق ہر انوع وہ جو اہر ہیں یا اعراض۔ زمین میں ہیں یا

السَّمَاوٰتِ وَالْجَنَّةِ وَالتَّارِ الْمَادِيَّاتِ مِنْهَا وَالْمُجَرَّدَاتِ هِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

آسمان میں۔ جنت میں ہیں یا دوزخ میں۔ مادیات ہیں یا مجردات۔ اے اللہ صلوات و سلام

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ النَّبِيِّ الْاَرْمَنِ

نازل فرما ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول معظم اور حبیب مکرم نبی امتی ہیں



وَالِهٖ وَصَحْبِهٖ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُطَوَّفُوْنَ رُوْحَهٗ فِيْ جَسْمِهٖ الْمَطَهَّرِ صَلَّى

اور (درودِ سلام نازل فرما) آپ کی آل اور اصحاب پر کہ جو آپ کے روح مقدس کا طواف کرتے رہتے تھے جسمِ مطہر میں بہنے کی حالت

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيْفًا وَعَشْرِيْنَ سَنَةً ۚ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بَعْدَ كُلِّ مَا

میں بیس سال سے زائد عرصہ تک (صلی اللہ علیہ وسلم) اور برکت و سلامتی عطا فرما مطابق تعداد اور شمار ان تمام امور کے جو عزت

فِيْ صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مَّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كَرَامٍ بَرَّةٍ ۙ اَللّٰهُمَّ

والے بلند مرتبت اور پاکیزہ صحائف میں (مترجم ہیں) ان کا تہوں کے ہاتھوں سے جو بزرگ اور من ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْ

رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص رسول مکرم اور حبیب معظم نبی اُمّی ہیں کہ جس

مَنْ رَأٰی حَاجِبِيْهِ صَارَ نَقَاشًا ۙ وَمَنْ رَأٰی اَذْنِيْهِ صَارَ مُسْتَمِعًا ۙ وَمُقْبَلًا

نے دیکھا ان کے دونوں ابروؤں کو تو وہ نقاش ہوا اور جس نے آپ کے ہر دو گوش مبارک کو دیکھا تو وہ کان لگا کر سننے والا اور غور کرنا والا ہوا۔

وَمَنْ رَأٰی اَنْفَهُ صَارَ حَكِيْمًا ۙ وَعَطَّارًا ۙ وَمَنْ رَأٰی شَفْتِيْهِ صَارَ زَيْنًا ۙ وَ

اور جس نے آپ کی بینی مبارک کو دیکھا تو وہ صاحب حکمت اور عطار ہو گیا۔ اور جس نے آپ کے ہونٹوں کی زیارت کی تو وہ وزیر اور

جَمِيْلًا ۙ وَمَنْ رَأٰی اَسْنَانَهُ صَارَ حَسَنَ الْوَجْهِ ۙ وَمَنْ رَأٰی لِسَانَهُ صَارَ

صاحب جمال ہو گیا۔ اور جس نے آپ کے دندان مبارک کی زیارت کی تو وہ خوب رو ہو گیا اور جس نے آپ کی زبان مبارک دیکھی تو

بَيْنَ السَّلَاطِيْنَ رَسُوْلًا ۙ وَالِهٖ وَصَحْبِهٖ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُقْتَبَسُوْنَ

وہ سلاطین و امراء کے درمیان سفیر بن گیا۔ اور (درود بھیج) آپ کی آل اور اصحاب پر جو کہ حاصل کرتے رہتے تھے فیضان

مِنْ نُّوْرِہٖ بِرُؤْيِيْہٖ وَجْهَہٗ لَيْلًا وَنَهَارًا ۙ وَبُكْرَةً ۙ وَاصِيْلًا ۙ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

آپ کے نورِ اقدس کا آپ کے چہرہ انور کے دیدار سے شب و روز اور صبح و شام۔ اور برکت و سلامتی نازل فرما

بَعْدَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَوْهَرًا ۙ اِنْ كَانَ اَوْ عَرْضًا مَا دِيًّا ۙ اِنْ كَانَ اَوْ

آسمانوں اور زمینوں میں موجود تمام اشیاء کی تعداد کے مطابق خواہ وہ جوہر ہی یا عرض مادی و کیفیت ہی یا

مُجَرَّدًا ۙ كَثِيْرًا ۙ اِنْ كَانَ اَوْ قَلِيْلًا ۙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

مجرد اور لطیف کثیر ہی یا قلیل۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص



ظَاهِرُهُ مِنْ بَاطِنِهِ ثُمَّ خَلَقَ صُورَةَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ كَصُورَتِهِ فِي

اس کا بیرونی حصہ اندرونی حصہ سے پھر پیدا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی صورت کو مانند آپ کی دنیوی جسمانی

الدُّنْيَا ثُمَّ وَضَعَهَا فِي ذَلِكَ الْقِنْدِيلِ قِيَامَهُ فِيهِ كَقِيَامِهِ فِي الصَّلَاةِ

صورت کے بعد ازاں اس کو ودیعت فرمایا اس قندیل میں اس انداز سے کہ آپ کے وجود نورانی کا قیام اس میں مثل آپ کے قیام صلوات

إِلَى وَجْهِ اللَّهِ وَإِلَيْهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَى نُورِ اللَّهِ كَأَنَّهُ عَلَى

کے تھا ذات باری تعالیٰ کی طرف انابت و رجوع کی حالت میں۔ اور صلوات و سلام نازل فرما آپ کی آل اور اصحاب پر جو کہ دیکھا کرتے تھے نور خداوند

رُءُوسِهِمُ الطُّيُورِ وَيَقُومُونَ فِي الصَّلَاةِ خَاشِعِينَ مُتَضَرِّعِينَ

کی طرف (ادب و نیاز اور تعظیم و تحکیم سے) اگر یا کہ ان کے سرول پر بندے ہیں (جو نورانی جنبش پر اطمینان کے) اور نماز میں قیام کرتے تھے خضوع و خشوع کی حالت میں

لِخَشْيَةِ اللَّهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ بَعْدَ كُلِّ مَوْجُودٍ مِّنْ فَوْقِ الْعَرْشِ إِلَى

بسیب اللہ تعالیٰ کے خوف کے۔ اور برکات و تسلیمات نازل فرما مطابق تعدد و جمع موجودات کے بالائے عرش سے لے کر

أَسْفَلَ الْعَرْشِ مِمَّا لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَحْضُرَهُ وَيَحِيطَ بِهِ وَمَا يَعْلَمُ

نشیب فرش تک کہ کسی کو قدرت نہیں کہ سب کے پاس حاضر ہو اور ان کا احاطہ کرے اور ایسی مخلوق کہ نہیں جانتا

جُنُودَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ

اس کے انواع و اصناف کو مگر اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول مکرم اور

حَبِيبِكَ النَّبِيِّ الْأَرْمِيِّ الَّذِي طَافَ الْأُرُوعَ بِالنَّبِيِّ وَالنَّبِيلِ بِلَاةٍ

حبیب معظم نبی آرمی ہیں جن کے نور اور کا طواف کیا تمام روحوں نے نبی و تمہیل کہتے ہوئے

وَسَبْعِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ أَمْرُوا لِيَنْظُرُوا إِلَيْهَا فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى

ایک لاکھ ستر ہزار سال تک۔ پھر انہیں حکم دیا گیا کہ اس صورت نورانی کی طرف دیکھیں تو ان میں سے بعض نے دیکھا

رَأْسَهُ صَادِرًا لِّلْخَلْقِ سُلْطَانًا وَخَلِيفَةً وَمَنْ رَأَى جَبْهَتَهُ صَارَ أَمِيرًا

اس کے سرناز کو تو وہ مخلوق کا بادشاہ اور حکمران ہوا۔ اور جس نے اس کی پیشانی کو دیکھا تو وہ فرمان روائے

عَادِلًا وَمَنْ رَأَى عَيْنَيْهِ صَارَ حَافِظًا لِّكَلَامِ اللَّهِ وَأَيَاتِهِ الْبَيِّنَةِ

عادل ہوا اور جس نے اس نورانی صورت کی آنکھوں کو دیکھا تو وہ کلام اللہ اور اس کی آیات بینہ کا حافظ ہوا

نُورِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْحُجْبِ وَالْأَزْمِنَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سرزد ہوئے آپ کے نور انور سے ان حجابات (صفات) میں اور ان ازمنہ میں۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي أَخْرَجْتَ

آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول معظم اور حبیب مکرم نبی امی ہیں کہ باہر نکالا تو نے

نُورَكَ مِنَ الْحُجْبِ ثُمَّ أَخْمَسْتَهُ فِي الْبَحَارِ الْعَشْرَةِ وَهِيَ بَحْرُ الشَّفَاعَةِ وَ

ان کے نور اقدس کو ان حجابات سے پھرتو نے اسے غوطہ دیا دس سمندروں میں جو یہ ہیں۔ بحر شفاعت۔

التَّصِيْحَةِ وَالشُّكْرِ وَالصَّبْرِ وَالسَّخَاوَةِ وَالْإِنَابَةِ وَالْيَقِيْنِ وَالْحِلْمِ وَ

بحر اخلاص و نصیحت۔ بحر شکر۔ بحر صبر۔ بحر سخاوت۔ بحر انابت و رجوع الی اللہ۔ بحر یقین۔ بحر حلم و حوصلہ مندی اور

الْقَنَاعَةِ يَغُوصُ فِيهَا وَالْمَحَبَّةِ وَاللَّهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ سَبَّحَ

بحر قناعت کہ وہ نور ان (نوسمندروں) میں غوطہ زن تھا اور بحر محبت میں اور آپ کے اہل و اصحاب پر درود ہو جنہیں آپ نے خبر دی کہ

وَعَاَصَ فِي بَحْرِ الشَّفَاعَةِ بِمِقْدَارِ أَلْفِ سَنَةٍ وَبَارَكَ وَسَلِّمْ بَعْدَ

آپ نے تسبیح کی ہے اور غوطے لگائے ہیں بحر شفاعت میں ہزار سال کا عرصہ اور برکت و سلامتی عطا فرما ان سمندروں کے

قَطْرَاتِ تِلْكَ الْأُبْحُرِ كُلِّ قَطْرَةٍ مَنَهَا بِئْسَلُ ذُرَّةٌ فِي الْعَقْلِ وَالْمُدْرَكَةِ

قطروں کی تعداد کے مطابق کہ جن قطروں میں سے ہر قطرہ نگاہ عقل و خرد میں ایک ذرہ کی مانند ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو کہ تیرے عبد خاص۔ رسول معظم اور حبیب مکرم نبی امی ہیں کہ

الَّذِي سَبَّحَ وَعَاَصَ فِي الثَّانِي بِأَلْفَيْنِ وَالثَّلَاثِ بِثَلَاثٍ وَهَكَذَا هَلُمَّ

جنہوں نے تسبیح و تقدیس کی اور غوطے لگائے دوسرے سمندریں دو ہزار سال تک اور تیسرے سمندریں تین ہزار سال تک اور اس ترتیب

فِي تِلْكَ الْأُبْحُرِ الْعَشْرَةِ وَتَسْبِيْحُهُ فِي الْأَخِيرِ سُبُوْحٌ قَدُّوسٌ

کے ساتھ ان دس سمندروں میں۔ اور آپ کی تسبیح آخری سمندر میں یہ تھی۔ سُبُوْحٌ قَدُّوسٌ

يَا اللهُ يَا كَرِيْمٌ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْهُ بَعْدَ تِلْكَ الْأَزْمِنَةِ وَأَجْلَسَ عَلَى بَسَاطِ

یا اللہ یا کریم پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور اقدس کو ان سمندروں سے نکالا بعد ہزاروں سال کے طویل تر زمانوں کے اور بٹھایا گیا آپ کے نور کو ایسی

كَانَ أَوْسَعَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ بِسَبْعِينَ مَرَّةً وَإِلَيْهِ وَصَّيْهِ

مسند پر کہ جو آسمانوں اور زمین سے ستر گنا زیادہ وسیع و عریض تھی اور آپ کے آل و اصحاب پر (درود بھیج)

الَّذِينَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ فِيهِ دَرَجَاتٌ كَثِيرَةٌ وَمَقَامَاتٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جنہیں آپ نے بتلایا کہ اس سند عالی میں بہت سے درجات اور بلند مقامات تھے اور برکت و سلامتی عطا فرما

بَارِكْ وَسَلِّمْ بَعْدَ الْأَمَاكِينِ وَالْأَزْمَانِ الَّتِي كَانَتْ فِي تِلْكَ الْحُجُبِ

ان مکانوں اور زمانوں کی تعداد کے مطابق جو ان محابات اور سمندروں

وَالْبِحَارِ وَالْمَقَامَاتِ الْمُعْظَمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

اور عظمت والے مقامات میں تھے۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول معظم

وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي أُمِرَ نُورُهُ بِالْقِيَامِ وَالسُّجُودِ

اور حبیب مکرم بنی امتی ہیں کہ جن کے نور اقدس کو حکم دیا گیا قیام و سجدہ کا

وَالْجُلُوسِ وَالتَّشَهُدِ فِي تِلْكَ الْمَقَامَاتِ قَعِيدًا فِيهَا الْوَفَائَةُ كَرَمًا

اور جلسہ اور تشہد کا ان مقامات میں جبکہ وہ مقیم تھے ان مقامات میں ہزاروں سال تک۔ پھر آپ کے نور اقدس کو عزت و کرامت

بِالْخَلْوَةِ الْخَاصَّةِ الَّتِي لَا يَعْلَمُ أَسْرَارَهَا أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ ثُمَّ

دی گئی خلوت خاصہ کے جس کے اسرار کو مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر اس نور اقدس کو اس صورت میں ڈھالا جو جہانی طور پر دنیا میں بہتی تھی اور اسے

صُورًا وَوَضَعَ الْقَنْدِيلَ عَلَى الشَّجَرَةِ كَمَا مَرَّ تَفْصِيلُهُ هَذَا مَا هُوَ

قندیل میں دو لیت کر کے قندیل کو درخت پر رکھا گیا جیسے کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے اور یہی اس حقیقت کے بیان میں صحیح ترین

أَصْحَ الرِّوَايَاتِ وَإِلَيْهِ وَصَّيْهِ الَّذِينَ أَخْبَرَهُمْ ثُمَّ بَعْدَ الْخَلْقَةِ

روایت ہے۔ اور آپ کی آل اور اصحاب پر درود بھیج کہ جنہیں آپ نے اس حقیقت سے خبر دی۔ پھر غرق کے کینیات تخلیق کی تعمیل کے

عَلَّقَ الْقَنْدِيلَ بِسَاقِ الْعَرْشِ فَوْقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

بعد اس قندیل کو پایہ عرش کے ساتھ معلق کر دیا گیا سات آسمانوں سے اوپر اور برکت و سلامتی نازل فرما

بَعْدَ مَا لَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ وَمَا هُوَ خَارِجٌ عَنِ إِحَاطَةِ التَّصَوُّرَاتِ وَ

آپ پر ان تمام اشیاء کی مقدار جن کے احاطہ سے عقل قاصر ہے اور جو کہ باہر ہیں تصورات کے احاطہ سے۔ اور

زَأْتِدُ عَنِ التَّصْدِيقَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

تصدیقات کی رسائی اور پہنچ سے بالاتر ہیں۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو کہ تیرے عبد خاص۔

وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ النَّبِيِّ الْأُرْمِيِّ الَّذِي حَفِظْتَ نُورَهُ عَلَى سَائِرِ

رسول معظم اور حبیب مکرم نبی اُمّی ہیں جن کے نور کو تو نے محفوظ رکھا پایہ

الْعَرْشِ حَتَّى خَلَقْتَ أَدَمَ فَوَضَعْتَهُ فِي جَيْبِنِهِ كَكَوْكَبٍ دُرِّيٍّ وَمُمْكِنُ

عرش پر تا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پس اسے ان کی جبین انور میں رکھا مانند چمکتے ستارے کے

أَنْ يَكُونَ سُجُودَ الْمَلَائِكَةِ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ لِقَرْنَيْنِهِ ثُمَّ انْتَقَلَ

زناکر ہو سکے ملائکہ کا سجدہ طرف اس نور کے اگرچہ بظاہر وہ سجدہ اس نور کے قرین یعنی آدم کی طرف تھا پھر منتقل ہوا

إِلَى آيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صُلْبِ إِلَى رَجَمٍ وَمِنْ الرَّجَمِ

وہ نور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آباء و اجداد کی طرف تکے بعد دیگرے ایک پشت سے دوسرے رجم کی طرف اور رجم

إِلَى جَيْبِنِهِ وَإِلَيْهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ بَدَلُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ لِإِعْلَاءِ

سے اس کے جبین کی طرف۔ اور درود نازل فرما آپ کے آل و اصحاب پر جنہوں نے صرف کر دیا اپنی جانوں اور مالوں کو تیرے

كَلِمَتِكَ وَتَرْجِيحِ مَلَّتِهِ وَدِينِهِ وَبَارِكْ بَعْدَ مَا فِي الْجِبَالِ

کلمۂ توحید کو بلند کرنے کے لیے اور آنحضرت کی ملت و شریعت کو غالب کرنے کے لیے۔ اور برکت و سلامتی عطا فرما آپ کو ان تمام اشیاء

وَالْبَحَارِ وَالْبِلَادِ وَالْأَمْصَارِ مِنَ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ وَالْحَيِّ وَالْبَيْتِ وَفَنْ

کی تعداد کے مطابق جو پہاڑوں سمندروں اور بلاد و امصار میں ہیں یعنی حجرو شجر اور زندہ و فوت شدہ اور جو

جَعَلْتَهُ مِنْ طِينَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

پیدا کئے تونے آپ کی طینت سے۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول معظم

وَحَبِيبِكَ النَّبِيِّ الْأُرْمِيِّ الَّذِي خَلَقْتَ نُورَهُ أَمَى أَظْهَرْتَهُ مِنْ نُورِكَ

اور حبیب مکرم نبی اُمّی ہیں کہ پیدا فرمایا تونے ان کے نور کو یعنی ظاہر کیا اسے اپنے نور کے عکس و پرتوں سے

قَالَ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ أَيْ هُوَ ظَاهِرٌ وَمُظْهِمٌ

پس اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا۔ اور زمین کا۔ اس کے نور کی شان ایسے ہے کہ جیسے چراغ کے ساتھ سجا ہوا طاق ہو یعنی وہ خود بھی ظاہر ہے اور





وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي مَنُّ رَأَى حَلْقَةً صَارَ وَاِعْظَا

اور رسول معظم اور حبیب مکرم نبی امی ہیں کہ جس نے بھی ان کے حلقوم مبارک پر نگاہ ڈالی تو وہ داعظ بن گیا

وَمُؤَدِّنًا وَنَاصِحًا وَمَنْ رَأَى لِحَيْتَتِهِ صَارَ مُجَاهِدًا وَمَنْ رَأَى عَضْدِيَهُ

اور مؤذن اور مخلص و ہمدرد بن گیا۔ اور جس نے آپ کی ریش مبارک کی زیارت کی تو وہ مجاہد بن گیا اور جس نے آپ کے دونوں بازوؤں

صَارَ شَجَاعًا وَمَنْ رَأَى عَضْدَهُ الْأَيْمَنَ صَارَ حَجَّامًا وَفَصَّادًا

کی زیارت کی تو وہ مجتہد شجاعت بن گیا۔ اور جس نے آپ کے صرف دائیں بازو کو دیکھا تو وہ جسراح اور رگزن بن گیا۔

وَمَنْ رَأَى عُنُقَهُ صَارَ تَاجِرًا وَمَنْ رَأَى عَضْدَهُ الْأَيْسَرَ صَارَ

اور جس نے آپ کی گردن مبارک کا دیدار کیا تو وہ تاجر ہو گیا۔ اور جس نے آپ کا صرف بائیں بازو دیکھا تو وہ

غَلِيظَ الْقَلْبِ جَلَادًا وَوَالِيَهُ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ كَانَتْ مِنْهُمْ قَاهِرًا

سخت دل جلا دین گیا۔ اور (دُرُودِ بَهِج) آپ کی آل اور اصحاب پر کہ جن میں سے ہر ایک قاہر اور غالب تھا

عَلَى الْإِمَارَةِ وَصَارَ فَاِعْنَانَ الْهَمَّةِ عَنِ الدَّنَاءَةِ وَصَابِرًا وَحَامِدًا

امارت و حکومت پر۔ اور اپنے عزم و ہمت کی باگ کو پھیرنے والا تھا حساست اور کینگی سے اور مجسمہ صبر تھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا

وَبَارِكٌ وَسَلِيمٌ بَعْدَ كُلِّ فَرْدٍ مِّنَ الْمَوْجُودِ عَلَوِيًّا كَانِ أَوْ سَفَلِيًّا قَاتِمًا

اور برکت و سلامتی عطا فرمائے اللہ تمام افراد موجودات کی تعداد کے مطابق عالم بالا سے تعلق رکھنے والے ہوں یا اسفل سے نمود نمود

بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا نَامِيًّا أَوْ جَامِدًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

قائم اور موجود ہوں یا دوسروں کے ہمارے قائم ہوں۔ زندہ ہوں یا فوت شدہ۔ نباتات کے قبیل سے ہوں یا جمادات کے اللہ رحمت نازل فرما

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي مَنُّ رَأَى

ہمارے مخدوم محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول معظم اور حبیب مکرم نبی امی ہیں کہ جس نے زیارت کی

كَفَّهُ الْأَيْمَنَ صَارَ صَرَافًا وَمَنْ رَأَى كَفَّهُ الْأَيْسَرَ صَارَ كَيَّالًا

ان کے دائیں کف دست کی تو وہ صرف بن گیا اور جس نے ان کے بائیں کف دست کی زیارت کی تو وہ ناپسند میں ماہر بن گیا

وَمَنْ رَأَى يَدَيْهِ صَارَ سَخِيًّا وَكَيْسًا وَمَنْ رَأَى ظَهْرَ كَفِّهِ الْأَيْسَرَ

اور جس نے آپ کے ہر دو دست مبارک کی زیارت کی تو وہ سخی بن گیا اور صاحب عقل و خرد۔ اور جس نے آپ کی بائیں پستی کی پشت دیکھی

صَارَ صَبَاغًا وَمَنْ رَأَى أَنَا مَلَهُ صَارَ كَاتِبًا وَمُسَبِّحًا وَالِهُ وَصَحْبِهِ

وہ رنگرز ہو گیا۔ اور جس نے آپ کی انگلیوں کے پورے دیکھے تو وہ فن کتابت میں ماہر ہوا اور تسبیح خوان بنا اور رحمت نازل

الَّذِينَ كَانُوا مَعِدِنَ الْعِلْمِ وَالْكَرِيمِ وَمَنْبِعَ الثُّورِ الْمُعْظَمِ

فرما۔ آپ کی آل اور اصحاب پر جو کہ علم و سخا کی کان تھے اور نور معظم کا سرچشمہ

فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ نَجْمًا مَنِ اقْتَدَى بِهِ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

پس ان میں سے ہر ایک نجم ہدایت بن گیا۔ جس نے ان کی اقتداء کی تو بس وہی راہ راست کی کامل ہدایت پانے والا ہے۔

وَبَارِكُ وَسَلْمٌ بَعْدَ مَنْ هَدَيْتَهُ بِفَضْلِكَ فَصَارَ عَزِيزًا وَمَنْ

اور برکت و سلامتی عطا فرما ان لوگوں کی تعداد کے مطابق جنہیں تو نے ہدایت عطا کی اپنے فضل سے پس وہ عزت والے ہو گئے یا جنہیں

صَلَّ فِي تَيْبِهِ الْعَوَى فَصَارَ مَهَانًا وَذَلِيلًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

تو نے ہدایت نہ بخشی وہ لگشتگان یا دیڑ ضلالت ہوئے پس حقیر اور ذلیل ہو گئے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ الرَّحْمِيِّ الَّذِي مَنْ رَأَى

محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول معظم اور حبیب کرم بنی امتی ہیں کہ جس نے ان کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی بیرونی جانب دیکھی

ظَهَرَ أَصَابِعِهِ الْيُسْرَى صَارَ خَيَّاطًا وَمَنْ رَأَى ظَهَرَ أَصَابِعِهِ الْيُمْنَى

تو وہ درزی بن گیا اور جس نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا بیرونی حصہ دیکھا تو وہ

صَارَ حَدَّادًا أَوْ صَانِعًا وَمَنْ رَأَى صَدْرَهُ صَارَ عَالِمًا وَمُجْتَهِدًا وَمَنْ

آہنگ بن گیا اور سنار و زرگر بنا۔ اور جس نے آپ کے سینہ مبارک کی زیارت کی وہ عالم اور مجتہد بن گیا۔ اور جس نے

رَأَى ظَهْرَهُ صَارَ مُطِيعًا لِمُرِّ الشَّرْعِ مُتَوَاضِعًا وَمَنْ رَأَى جَنْبَهُ صَارَ

آپ کی پشت مبارک پر نگاہ ڈالی وہ امور شرعیہ کا اطاعت گزار اور سزا پاتوا بن گیا۔ اور جس نے آپ کے پہلو مبارک کو دیکھ لیا

عَازِيًا وَمَنْ رَأَى بَطْنَهُ صَارَ زَاهِدًا أَوْ قَانِعًا وَالِهُ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ كَانُوا

وہ غازی بن گیا۔ اور جس نے آپ کے بطن اقدس کی زیارت کی وہ سزا باز ہر وقت قانع بن گیا۔ اور صلوات نازل فرما آپ کی آل اور اصحاب پر

كُلٌّ مِنْهُمْ رَاغِبًا عَنِ الدُّنْيَا وَطَالِبًا لِلْمَوْلَى وَعَنِ السَّيِّئَاتِ مُعْرِضًا

کہ جن میں سے ہر ایک دنیا سے منہ موڑنے والا تھا اور اپنے مولیٰ کا طلب گار۔ بُرائیوں سے اعراض کرنے والا

وَفِي الْحَسَنَاتِ طَاعَتَهُ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بَعْدَ مَنْ شَبِعَ فِي وَقْتِ أَوْ

اذر نیکیوں میں سراپا اطاعت۔ اور برکت و سلامتی عطا فرما ان تمام لوگوں کی گنتی کے مطابق جو کسی وقت سیر ہوئے یا

شَرِبَ فِي زَمَانٍ وَمَنْ عَطَشَ فِي حِينٍ أَوْ صَارَ فِي إِنْ جَاءَ اللَّهُمَّ

کسی زمانہ میں پیا۔ اور جو کسی لمحے پیاس سے دوچار ہوئے یا کسی آن میں بھوکے رہے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي

صلوٰۃ نازل فرما محمد کریم پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول معظم۔ اور حبیب مکرم نبی امی ہیں کہ جس نے

مَنْ رَأَى رُكْبَتَيْهِ صَادَسًا جَدًّا أَوْ رَاكِعًا وَمَنْ سَأَى بِرَجُلَيْهِ صَارَ صَيَادًا

آپ کے دونوں زانو مبارک کی زیارت کی تو وہ سجدہ و رکوع کرنے والا بن گیا اور جس نے آپ کے دونوں قدموں کی زیارت کی تو صیاد بن گیا۔

وَمَنْ رَأَى تَحْتَ قَدَمَيْهِ صَارَ مَا شِئَا وَمَنْ رَأَى ظَفْرَهُ صَارَ صَاحِبَ

اور جس نے آپ کے دونوں تلووں کو دیکھا تو وہ پیدل چلنے والا ہوا۔ اور جس نے آپ کے ناخن مبارک کو دیکھا تو وہ

الطَّبِيرُ وَمَغْنِيًا وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ صَارَ كَافِرًا وَمَدَّ عِيَالًا لِرَبِّبِيَّةِ

ظنیر نواز اور گویا بن گیا۔ اور جس نے آپ کی زیارت ہی نہ کی تو وہ کافر ٹھہرا اور ربوبیت کا دعوے دار

كَالْفِرَاعِنَةِ أَوْ نَصْرَانِيًّا وَيَهُودِيًّا وَآلِيَهُ وَصَحْبَهُ الَّذِينَ كَانُوا كُلِّ قَبْتُمْ

مانند فرعونوں کے یا نصرانی اور یہودی ہو گیا۔ اور (درویش) آپ کی آل و اصحاب پر کہ جن میں سے ہر ایک

رَحِيمًا عَلَى الضُّعْفَاءِ وَمَوْقِرُ الْكِبَرَاءِ وَمُحْسِنًا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَعَلَى الْأَعْدَاءِ

کمزوروں پر مہربان تھا اور بڑوں کی توقیر و تعظیم کرنے والا۔ اور فقرا پر احسان فرمانے والا تھا۔ اور دشمنان خدا و رسول کے لیے

غَلِيظًا وَجَرِيحًا وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بَعْدَ كُلِّ حَيَوَانٍ كَانَ أَوْ يَكُونُ فِي

سخت طبع اور دلیر تھا اور برکت و سلامتی عطا فرما ان تمام جانداروں کی تعداد کے مطابق جو پیدا ہو چکے ہیں یا ہوں گے

الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ أَوْ هُوَ الْأَنْبَحِيثُ أَوْ بَرِّيًّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

زمین میں خواہ آسمان میں یا اب موجود ہیں بحسد میں ہوں یا بر میں۔ اے اللہ صلوات بھیج ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي سَبَقَ

سرور محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول معظم۔ حبیب مکرم اور نبی امی ہیں کہ سبقت لے گیا



نُورًا عَلَى خَلْقِ الْخَلْقِ طَرًا جَمِيعًا وَخَلَقَ مِنْهُ مَا خَلَقَ خَالِقُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بَدِيعًا فَوَيْلٌ لِمَنْ لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ وَطُوبَى لِمَنْ صَارَ بَيْنَ ذَلِكَ

ان کا نور ایجاد و تخلیق میں، تمام خلائق کی ایجاد و تخلیق پر اور اسی نور سے پیدا فرمایا جو بھی پیدا کیا خالق ارض و

النَّظْرَ لِمَرَّةٍ مَطِيعًا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ كَانُوا كُلٌّ مِنْهُمْ فِي أَمْرٍ

سما نے ان کو ان نماز میں پس ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے ان کی طرف نہ دیکھا اور مبارکبادی ہے اس شخص کیلئے جو ہو گیا ان کے

الدُّنْيَا بَطِئًا وَفِي أُمُورِ الدِّينِ جَلْدًا وَسُرِيعًا وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بَعْدَ د

دیکھ لینے کی برکت سے ان کا مطیع فرمان۔ اور (دور و بھیج) آل و اصحاب پر کہ جن میں سے ہر ایک امور دنیویہ کی طرف رغبت میں

سَتَ كَامٍ تَقَى۔ اور امر دین میں مضبوط اور سریع امیر تیز رفتار تھا اور برکت و سلامتی نازل فرما (ان مقدس ہستیوں پر) مطابق تعداد

مَا نَطَقَ بِهِ كُلُّ نَاطِقٍ بِكُلِّ لُغَةٍ وَكُنْتَ لَهُ سَبِيحًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ان تمام حروف و کلمات کے کہ نطق کیا ساتھ ان کے کسی بھی ناطق نے کسی بھی لُغَت میں اور تو ہی اس کے نطق کو سننے والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج ہماری

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ النَّبِيِّ الَّذِي خَلَقَ نُورَهُ قَبْلَ

آقا محمد پر جو کہ تیرے عبد خاص۔ رسول معظم۔ حبیب مکرم نبی اُمّی ہیں کہ جن کا نور پیدا کیا گیا تمام

الْخَلْقِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّ مِائَةٍ وَسَبْعِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَسَبِّحَ اللَّهُ

مخلوق سے سولہ لاکھ ستر ہزار سال قبل تو اس نور نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کسی

مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ حِجَابًا بِتَسْبِيحٍ خَاصٍّ إِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَهِيَ حِجَابُ

بارہ حجابات سے تسبیح مخصوص کے ساتھ بارہ ہزار سال تک اور وہ حجابات یہ ہیں

الْقُدْرَةِ وَالْمِنَّةِ وَالرَّحْمَةِ وَالسَّعَادَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَالِإِلَهِيَّةِ وَصَحْبِهِ

قدرت اور فضل و احسان۔ رحمت اور سعادت اور کرامت و نبوت۔ اور صلوٰۃ نازل ہو آج کے آل و اصحاب پر

الَّذِينَ أَخْبَرَهُمْ بِهَا وَيَهْدِيهِ وَالْمَنْزِلَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْهَيْبَةَ وَ

کہ جنہیں آپ نے ان (چھ حجابات) کی خبر دی اور ان کے علاوہ ہدایت و منزلت رفعت۔ ہیبت۔ اور

الشَّفَاعَةَ وَالْعِظَمَةَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بَعْدَ تَسْبِيحَاتٍ وَأَذْكَارٍ مِنْ

شفاعت و عظمت (و اے چھ حجابات) کی خبر دی۔ اور برکت و سلامتی عطا فرما مطابق اعداد ان تسبیحات و اذکار کے جو

عَدْنَانَ وَيَبَارِكُ وَسَلِّمْ بَعْدَ كُلِّ أَبِي وَابْنٍ وَكُلِّ نَسَبٍ وَذِي نَسَبٍ

عدنان کا اور برکت و سلامتی نازل فرما آنحضرت پر موافق تعداد ہر باپ اور بیٹے کے اور ہر نسب اور نسب والے کے

وَقَدْ قِيلَ كَذَبَ النَّسَابُونَ فَوْقَ الْعَدْنَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اور تحقیق کہا گیا ہے کہ غلط بیانی سے کام لیا ہے نسب بیان کرنے والوں نے عدنان سے اوپر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ

ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر جس آقا کا نام اللہ تعالیٰ نے لکھا عرش اعظم پر

قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ ۗ وَنَبَاكَ اللَّهُ وَأَدْمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَ

آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے۔ اور ان کو منصب نبوت عطا فرمایا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی آب و

الطَّيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رگل میں تھے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

الَّذِي لَمَّا اهْتَرَّ الْعَرْشُ وَاضْطَرَبَ كَتَبَ عَلَيْهِ اسْمَهُ فَسَكَنَ وَطَرِبَ

جس آقا کی شان یہ ہے کہ جب عرش اعظم لرزا اور مضطرب ہوا تو اس پر آپ کا نام نامی لکھا گیا پس اے سکون اور طرب حاصل ہو گیا

وَأَوَّلُ مَا كَتَبَ الْقَلَمُ اسْمَهُ الْكَرِيمَ وَأَعْلَنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ

اور قلم نے سب سے پہلے انہیں کے اسم کرامت نشان کو تحریر کیا۔ اور اسی کو ظاہر فرمایا علیہ الصلوٰۃ والسلام

وَكَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ الْمَنْعُوتَ عَلَىٰ فُصُوصِ اللَّوْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ

اور اللہ تعالیٰ نے لکھا آپ کے اسم موصوف کو لؤلؤ اور یاقوت کے پتھروں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جس

كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ فِي الْأَوْاجِرِ وَالْكَتِّبِ وَعَلَىٰ أَطْرَافِ الْحُجْبِطِ وَعَلَىٰ

آقا کا نام اللہ تعالیٰ نے لکھا نوری تختیوں اور صحیفوں میں اور حجابات کے اطراف پر

نُحُورِ الْحُورِ الْعَيْنِ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ الْحَافِيْنَ وَعَلَىٰ أَوْرَاقِ شَجَرِ

اور حور عین کے سینوں پر اور عرش کے گرد احاطہ کرنے والے ملائکہ کی آنکھوں میں۔ اور تختوں کے درختوں کے پتوں پر



الْجَنَانِ طَوْعًا وَرَقِ الْوُرْدِ وَالرَّيْحَانِ طَوْعًا وَعَلَى لِسَانِ الْقَلَمِ الْمَنْصُوبِ

اور گل گلاب وریحان کی پتیوں پر۔ اور قلم کی زبان پر لکھا جو قلم کو قائم و دائم ہے

وَعَلَى قُنَّةِ اللُّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَكْتُوبٌ وَعَلَى وَرَقِ شَجَرَةِ طُوبَى وَسِدْرَةِ

اور لوح محفوظ کی (سطر) اعلیٰ و اول میں لکھا ہوا ہے۔ اور شجر طوبی کے پتوں پر اور سدرۃ

الْمُنْتَهَى وَعَلَى مَفَارِقِ تَيْجَانِ التُّورِ وَالْبَهَا اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

المنتهی کے پتوں پر۔ اور نورانی بارونق تاجوں کے درمیانی حصہ پر لکھا ہوا ہے اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اسْمُهُ عَلَى عَرْشِكَ قَبْلَ

محمد اور آپ کی آل پر کہ جس (محبوب) کا نام لکھا گیا تیرے عرش پر قبل

خَلْقِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَاَسْمُهُ مَكْتُوبٌ فِيْ دِيْوَانِ الْمُؤَيَّدِيْنَ

پیدا کئے جانے اولین و آخروں کے۔ اور آپ کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے قدرت و تعزت والے (ملائکہ) کے دیوان میں

وَعَلَى اطْرَافِ حِيَامِ اَهْلِ عِلِّيِّينَ وَعَلَى الْغُرَفَاتِ وَالْقُصُورِ وَعَلَى

اور علیین والوں کے نیچوں کے کناروں پر۔ جنت کے بالا خانوں اور محلات پر اور

قُبَابِ الْمَعْمُورِ وَعَلَى فِتْنِ الْاَغْصَانِ وَالْاَشْجَارِ وَعَلَى

بیت المعمور کے قبہ حیات پر اور خنتی درختوں کی ٹہنیوں کے آغاز پر اور ان درختوں کے تنوں پر اور

طَرَاظِ الْاَجْحَارِ وَالْاَنْهَارِ طَوْعًا وَعَلَى خَاتَمِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى اَكْنَافِ

(خنتی) پتھروں اور نہروں کے نقش و نگار میں۔ اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھیوں پر۔ اور جنت کے اطراف و جوانب

الْجَنَانِ وَعَلَى خَاتَمِ نُوحٍ وَاِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ وَعَلَى خَاتَمِ دَاوُدَ وَاِسْمٰعِيْلَ

پر۔ اور حضرت نوح اور ابراہیم خلیل علیہما السلام کی انگوٹھیوں پر، اور داؤد و اسماعیل علیہما السلام کی انگوٹھیوں پر

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جس (آقا)

اِسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى جَانِبِ السَّفِيْنَةِ وَفِيْ لَوْحٍ مِّنْ ذَهَبٍ تَحْتِ جِدَارِ

کا اسم گرامی لکھا ہوا تھا (نوح) علیہ السلام کی کشتی کے کنارے پر اور سنہری تختی پر لکھا تھا جو تھی

الْغَلَامِينَ يَتِيمِينَ فِي الْمَدِينَةِ وَمَكْتُوبٌ بِالتُّورِ الْأَحْمَرِ عَلَى شَاطِئِ

دو یتیم بچوں والی دیوار کے نیچے شہر کے اندر۔ اور لکھا ہوا ہے (وہ اسم گرامی) سُرُخ نور کے ساتھ فرات

الْفَرَاتِ وَالْكُوثَرِ وَبِالتُّورِ فِي التُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَعَلَى جِبَاهِ

اور کوثر کے کنارے پر۔ اور نور کے ساتھ (لکھا ہے) تورات۔ انجیل اور زبور میں۔ اور اُوپر

الْحَوْتِ وَعَلَى جَبِينِ مَلِكِ الْمَوْتِ وَمَكْتُوبٌ بِالْقَلَمِ الْمُنِيرِ عَلَى

مچھلیوں کی جبینوں کے اور ملک الموت کی پیشانی پر۔ اور (وہ نام نامی) لکھا ہوا ہے نورانی قلم کے ساتھ

لِسَانَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَعَلَى جَبُوبِ حُلِيِّ السُّنْدُسِ وَعَلَى أَبْوَابِ حِطَّائِرِ

منکر و نکیر کی زبانوں پر۔ اور سبز ریشمی جوڑوں کے گریبانوں پر۔ اور محفوظ و مقدس محلات

الْقُدْسِ وَاسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى السَّلَامِ مِنْ

کے دروازوں پر۔ اور آپ کا نام نامی لکھا ہوا ہے (آپ پر افضل ترین درود ہو اور پاکیزہ تر سلام)

قَبْلِ أَنْ يُخْلَقَ جِبْرَائِيلُ بِالْفِي عَامٍ وَمَكْتُوبٌ عَلَى كُلِّ عَلِيمٍ فِي الْجَنَّةِ

جبرئیل علیہ السلام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے۔ اور لکھا ہوا ہے جنت کے ہر علم اور جھنڈے پر

وَكَانَ الْإِسْرَاءُ فِي رَجَبٍ قَبْلَ الْهَجْرَةِ بِسَنَةِ طَالِثَةِ الْهَجْرَةِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور تھا آپ کا اسراء (اور معراج) رجب المرجب میں ہجرت سے ایک سال قبل۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اصْطَفَاهُ اللَّهُ مِنْ وَلَدِ

آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اولاد

إِسْمَاعِيلَ وَاسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى جِبْهَةِ جِبْرَائِيلَ وَعَلِمَهُ اللَّهُ الْأَسْمَاءُ

اسماعیل علیہ السلام سے۔ اور ان کا نام مقدس لکھا ہوا ہے جبرئیل علیہ السلام کی پیشانی پر اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسما کا علم عطا فرمایا

وَاسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ وَجَعَلَ اللَّهُ ذِكْرَهُ قُوَّةً وَدَوَاءً

اور آپ کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے ہر آسمان کے دروازہ پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو (روحوں کی) روزی اور دوا و علاج بنا دیا ہے

وَاسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ جَنَّةِ الْمَأْوَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور آپ کا اسم گرامی جنت المادئی کے دروازے پر مرقوم ہے۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ ۝

محمد اور آپ کی آل پر جس محبوب کا ہی قصد اور ارادہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کے اس قول سے جو اس کے ناقابل نسخ و تفسیر کلام منزل میں موجود ہے  
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ  
جو لوگ اتباع کرنے میں اس رسول نبی امی کی جس کے اوصاف اور کمالات کو، لکھا ہوا پاتے ہیں۔

فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝

اپنے ہاں تورات و انجیل میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مِنْ أَرْضِي

آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا کہ پیدا کرے اس کے لباس بشری کو

الْأَرْضِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ أَمْرَ جِبْرَائِيلَ أَنْ يَأْتِيَ

زمین کے انتہائی پسندیدہ حصہ سے اس شان کے ساتھ کہ وہ سب اہل ارض اور اہل سما سے پسندیدہ تر ہوں تو حکم دیا جبرئیل کو کہ لے آئے

بِالْقِطْعَةِ الْبَيْضَاءِ وَالطَّيْنَةِ الْبَيْضَاءِ وَخَلَقَ اللَّهُ جَبِينَهُ مِنَ الطَّيْنَةِ

زمین سے سفید ٹکڑا اور چمکیل مٹی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی جبین اقدس کو اس ارضی خمیر سے پیدا فرمایا

الَّتِي هِيَ قَلْبُ الْأَرْضِ وَبِهَآؤُهَا وَنُورُهَا وَمَنَاءُهَا اللَّهُمَّ صَلِّ

جو کہ زمین کا دل ہے اور اس کی بہار اور اس کا نور اور زینت ہے۔ اے اللہ درود بھیج

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعَ جِبْرَائِيلُ

اور سلامتی نازل فرما ہمارے مخدوم محمد اور آپ کی آل پر کہ جس (مخدوم کائنات) کے خمیر کو اٹھایا جبرئیل علیہ السلام

طِينَتَهُ مِنْ أَكْرَمِ بُقْعَةٍ بِأَشْرَفِ رُتْبَةٍ وَرَفَعَتْهُمُ وَوَضَعَ جِبْرَائِيلُ

نے انتہائی عزت و کرامت والے قطعہ سے بلند ترین رتبہ اور رفعت سے ہمکنار کر کے اور ودیعت کیا جبرئیل علیہ السلام نے

طِينَتَهُ بِمَوْضِعِ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ وَالْمِنْبَرِ الْعَالِي الدُّنْيَافِ وَوَضَعَ جِبْرَائِيلُ

اس مقدس خمیر کو قبر شریف والی جگہ میں اور بلند مرتبت منبر کے مقام پر اور رکھا جبرئیل علیہ السلام نے

طِينَتَهُ بِأَشْرَفِ بُقْعَاءِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ بَعْدَ أَنْ طَافَ بِهَا عَلَىٰ جَمِيعِ

آپ کی طینت خمیر کو آسمانوں اور زمین کے قطعات میں سے افضل ترین قطعہ میں بعد اس کے کہ اسے طواف کرایا تمام



فَضْلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْرِفَ آدَمَ وَكَسَلَهُ وَكَانَ آدَمُ يَتَعَجَّبُ مِنْ كَثْرَةِ

آپ کا فضل و شرف قبل اس کے کہ پہچانے جاتے آدم علیہ السلام اور ان کی نسل اور آدم علیہ السلام تعجب کرتے تھے بکثرت

نَظَرِ الْمَلَائِكَةِ إِلَيْهِ بِالْعَيُونِ مِنْذُ أَوْدَعَهُ اللَّهُ نُورَهُ الْمَكْنُونِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ملائکہ کے ان کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنے سے جب سے کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کیا آپ کے نور مکنون و مستور کو ان میں۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصُّورَةِ الْمُقَدَّسَةِ

و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر جو آقا مالک ہیں ایسی صورت مقدسہ کے

الْمَنْزِلَةِ مِنْ سَمَاءٍ قَدْ سِ غَيْبِ الْهُيُوتِ الْبَاطِنَةِ الْفَاتِحَةِ بِمِفْتَاحِهَا

جو نازل کی گئی ہے ہوت باطنہ کے معنی آسمان مقدس سے کہ وہ صورت کھولنے والی ہے خدا داد مفتاح نورانی کے

إِلَهِ لِي لَا بُرَابَ الْوُجُودِ الْقَائِمِ بِهَا مِنْ مَطْلَعِ ظُهُورِهَا الْقَدِيمِ إِلَى اسْتِوَاءِ

ساتھ اس وجود کے البراب کو جو اس صورت کی بدولت قائم و برقرار ہے اس کے ظہور قدیم کے آغاز سے لے کر اس کے بکثرت

إِظْهَارِهَا لِلْكَلِمَاتِ الثَّامَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کلمات تامہ کو ظاہر کرنے تک۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَأَلَ آدَمَ رَبَّهُ عَنْ ذَلِكَ التُّورِ وَالضِّيَاءِ

آپ کی آل اطہار پر کہ جس آقا کا شان یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے آپ کے اس نور و ضیاء کے متعلق دریافت کیا تو اس

فَنَادَاهُ رَبُّهُ ذَلِكَ نُورٌ خَاتِمِ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَكَوْنَهُ اللَّهُ مِنْ نُورِهِ الْمُبِينِ

نے فرمایا کہ وہ خاتم الرسل اور آخری الزمان نبی کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نور میں رکھے اس نور و ضیاء سے پیدا فرمایا

وَأَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ وَانْتَقَلَ نُورُهُ إِلَى وَجْهِ آدَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخْلَقَ

جبکہ آدم علیہ السلام ابھی آب و گل میں تھے۔ اور آپ کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی کی طرف منتقل ہوا قبل اس کے کہ پیدا کرے

اللَّهُ الْعَالِمَ وَانْتَقَلَ نُورُهُ الْبَاهِرُ مِنْ كُلِّ صَلْبٍ طَيِّبٍ إِلَى كُلِّ رَحِمٍ

اللہ تعالیٰ جہانوں کو۔ اور منتقل ہوا آپ کا روشن نور ہر پاکیزہ پشت سے طرف ہر پاک رحم کے۔

طَاهِرٍ وَانْتَقَلَ نُورُهُ وَاسْتَوَى مِنْ وَجْهِ آدَمَ إِلَى وَجْهِ أَمْنَا حَوَاءَ وَ

اور منتقل ہوا آپ کا نور اقدس اور سیدھا چلا آدم کی پیشانی سے ہماری ماں حوا کی پیشانی کی طرف اور



المخلوقات وقبض جبرائیل تلك الطينة الشهيرة وهي بيضاء منيرة

مخلوقات پر اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنی مٹھی میں لیا اس معروف و مشہور طینت کو جبکہ وہ سفید نورانی مٹھی

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي طافت

لے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کے خیر

الملائكة بطينته حول العرش العظيم والكرسي الكريم وطافت الملائكة

کو سیر کرانی ملائکہ نے عرش اعظم اور کرسی اکرم کے گرد۔ اور سیر کرانی ملائکہ نے

بطينته في كل السموات والأرضين وفي معاقد العز والتحكيم وعجنت

آپ کے لباس بشری کے، جو ہر کو تمام آسمانوں اور زمینوں میں اور عزت و تمکنت کے مقامات قرار اور خزان میں اور گوندھی گئی

طينته بهاء السنين وخيمت في معين جنات النعيم اللهم صل

آپ کی طینت بشری نسیم کے پانیوں کے ساتھ۔ اور اسے غوطے دئے گئے جنات نعيم کے صاف ستھرے پانیوں میں۔ لے اللہ درود

وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي بدأ الله بخلق

و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جس (آقا) کے نور کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے آغاز و افتتاح فرمایا

نورمه وختم قبل خروجه الخلق من العدم ولما أراد الله خلق الأنام

مخلوق کے عدم سے نکلنے سے قبل اور آپ کے ساتھ ہی ختم فرمایا اسلسلہ نبوت کو اور جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا

بدأ بخلق نورمه عليه الصلوة والسلام ولما خلق الله نوره وسواه أعلن

تو ابتداء ہی آپ کے نور کی تخلیق سے (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو پیدا کیا اور اس کی تکمیل صورت فرمائی

بالسجود لمولاه وأكثر تسبيحه ودعاها ولما خلق الله آدم المبرور

تو آپ نے علانیہ سجدہ کیا اپنے مولے کے لیے اور اس کی بہت زیادہ تسبیح کہی اور اس سے دعا کی اور جب اللہ تعالیٰ نے مقبول بندے

البسه الله ذلك النور ومن أجل أنواره المتداركة سجد آدم

آدم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ان پر اس نور کے (عکس کو) بطور لباس و خلعت کے اور آپ ہی کے محیط النور کی وجہ سے سجدہ کیا

الملائكة وكان نوره يتلأ في ظهر آدم وعرف الله الملائكة

ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو۔ اور آپ کا نور ان کی پشت انور سے جھلکتا اچکتا تھا اور جھلایا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو



اُنْتَقَلَ نُورُهُ إِلَى الْقَنَوَاتِ الطَّاهِرَةِ وَالْأَرْحَامِ الرَّكِيَّةِ الْفَاخِرَةِ وَلَمْ يَزَلْ

منتقل ہوا آپ کا نور انور پاکیزہ اصلاب اور پاکیزہ قابل فخر ارحام کی طرف اور ہمیشہ ظاہر

نُورُهُ يَظْهَرُ فِي وَجْهِهِ ابَائِهِ الْأَمَاجِدِ وَيَنْتَقِلُ مِنْ وَاحِدٍ مَتَّهُمْ إِلَى

اور نمایاں رہا آپ کا نور انور بزرگ آباء کے چہروں میں اور ان میں یکے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا

وَاحِدٍ وَلَمْ يَزَلْ نُورُهُ كَيْ يَنْتَقِلُ بِأَمْرِ اللَّهِ إِلَى أَنْ اسْتَقَرَّ بِوَجْهِهِ أَبِيهِ

اور ہمیشہ آپ کا نور منتقل ہوتا رہا اللہ تعالیٰ کے امر سے یہاں تک کہ اس نے قرار پکڑا آپ کے والد گرامی عبد اللہ کے چہرہ میں

عَبْدَ اللَّهِ وَلَمَّا اسْتَقَرَّ نُورُهُ فِي وَجْهِهِ أَبِيهِ قَابَلَتْهُ الْمَلَكَةُ بِالتَّوْحِيدِ

اور جب آپ کا نور آپ کے والد گرامی کی پیشانی میں قرار پذیر ہوا تو ملائکہ اس کے سامنے نمودار ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور

والتَّعْزِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس کی نزاہت بیان کرتے ہوئے۔ لے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَبْرَزَ اللَّهُ مِنْ ظَهْرِ أَبِيهِ لِلْوَجُودِ سَيِّدَ أَهْلِ الْكُرَمِ وَالْجُودِ وَأَبْرَشَ

کہ ظاہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کی پشت سے عالم وجود کی طرف اہل جو دو کرم کے سردار کو۔ اور ظاہر فرمایا

اللَّهُ مِنْ ظَهْرِ أَبِيهِ لِلْوَرَى خَيْرَ الْعِبَادِ طَرًّا وَسَادَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمَّا

اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی کی پشت سے سب مخلوق کے لیے تمام بندوں سے بہترین عبد کو۔ اور ان کا باپ ہونے کی بدولت سیادت پائی عبد اللہ نے

وَأَفْتَحَ الْأَرْضَ بِظُهُورِهِ عَلَى السَّمَاءِ وَتَنَاهَى لِأَبِيهِ الشَّرْفَ الْأَصِيلُ

اور بلند مرتبت ہوئے۔ اور فخر کیا زمین نے آپ کے ظہور کی وجہ سے آسمان پر۔ اور انتہاء کو پہنچ گیا ان کے والد گرامی کے لیے شرف اصیل اور دائمی

وَالْمَجْدُ الْأَرْتَبِلُ وَأَصْبَحَتْ قَرِيْشٌ فِي نَادِي أُمِّهِ أَمْنَةً لَهَا وَضَعَتْهُ وَهِيَ

مجد اور بزرگی۔ اور ہو گئے قریش امن پانے والے آپ کی والدہ ماجدہ کی مجلس اور سایہ عاطفت میں اور وہ اسم باسٹی امنہ ہے

أَمْنَةً وَأَسْتَنَارَ بِهِ بِدُرِّ النَّبُوَّةِ وَالْكَتْمَلِ وَبَلَّغَتْ بِهِ أُمَّهُ غَايَةَ الْقَصْدِ وَالْأَكْلُ

اور چمکے دمک پانگیا آپ کے طفیل ماہتاب نبوت اور کامل ہو گیا۔ اور رسائی پائی آپ کی بدولت آپ کی والدہ نے منتہائے مقصد اور غایت اعلیٰ آرزوی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلَا

لے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جس رآقا کی سرداری کا





نَجْمُ سَيَادَتِهِ وَسَمَا فِي آفَاقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَتَمَّ بِهِ لِأَبِيهِ كُلُّ

ستارا بندیوں پر پہنچا۔ اور آسمان وزمین کے اطراف و آفاق میں بلند ہوا اور کامل و مکمل ہو گیا بسبب آپ کے آپ کے والدین کے لیے

فَخِرْوَةٌ فَجَادَةٌ بَطْلُوْعِ نَجْمِ السَّعَادَةِ وَاسْتَنَارَتْ بِنُورِهِ النَّجْمَاتُ وَمَا حَوْتُهُ

ہر فخر اور بزرگی بسبب طلوع ہونے اس نجم سعادت کے۔ اور روشن ہو گئے آپ کے نور انور سے اجرام نورانیہ اور ہر شے جس کو

أَقْطَارُ السَّمَوَاتِ وَتَزَيَّنَتْ بِظُهُورِهِ الدُّنْيَا وَحَلَّ مِنَ الشَّرَفِ أَعْلَى مَرْتَبَةٍ

آسمانوں کے اطراف و جہانوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور زمین و آراستہ ہو گئی آپ کے ظہور سے ساری دنیا اور آپ متمکن ہوئے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں افضل شرف کے بلند ترین

عَلِيًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مقام پر لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل اطہار پر جو (آقا)

هُوَ زَعِيمُ الْأَرْكَانِ وَوُلِدَ مِنَ الشَّهْرِ التَّاسِعِ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ

قائم ہیں ارکان (ولایت خداوند تعالیٰ) کے۔ اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تانویں مہینہ میں طوفان

وَسِتِّمِائَةٍ وَثَلَاثَةِ آلَافٍ لِلطُّوفَانِ وَوُلِدَ قَبْلَ انْصِدَاعِ الْفَجْرِ فِي شَهْرِ

توح علیہ السلام (کے بعد) تین ہزار چھ سو پچھترویں سال میں اور آپ پیدا ہوئے صبح صادق کے پھوٹنے سے قبل

بُرْجِ الْحَمَلِ بِطَالِعِ الْقَمَرِ وَوُلِدَ فِي عِشْرِينَ مِنْ أِبْرِيلٍ مِنْ عَامِ اثْنَيْنِ

برج حمل والے مہینہ میں طالع قمر کے دوران۔ اور آپ پیدا ہوئے میں ماہ اپریل کو تاریخ اسکندر سے

وَتِسْمَانِينَ وَثَمَانِ مِائَةٍ مِّنْ تَارِيخِ الْإِسْكَانْدَرِ وَوُلِدَ وَالشَّمْسُ بِأَوَّلِ

آٹھ سو بیاسی سال پر۔ اور آپ جس وقت پیدا ہوئے سورج برج ثور کے ابتدائی حصہ میں تھا

الثَّوْرِ وَالزُّهْرَةُ فِي وَسْطِهِ بِالْحَمَلِ وَالْقَمَرُ فِي الْأَسَدِ وَوُلِدَ قَبْلَ

اور زہرہ برج ثور کے اندر تھا مگر برج حمل کے قریب تر تھا اور قمر برج اسد میں تھا۔ اور پیدا ہوئے

الْهَجْرَةِ بِثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً هَلَالِيَّةَ الْعَدَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آنحضرت ہجرت سے تریں سال قبل قمری اعداد و شمار کے اعتبار سے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ فِي السَّاعَةِ

ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر وہ آقا جو پیدا ہوئے سو مواعیر کی رات دسویں



فِي الْاَكْوَانِ اَعْلَامُ عُلُومِهِ مَبَشِّرَاتٍ بظُهُورِهِ وَقَدْ وَاذَى الْبَشِيرُ

تمام جہانوں میں آپ کے علوم کے اعلام درآئیکہ وہ بشارت دے رہے تھے آپ کے ظہور اور تشریح اور ہی کی اور ننداری آپ کی آمد کا مشورہ

بِهِ فِي الْخَلَائِقِ اَجْمَعِينَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَنَادَى

سنانے والے نے سب مخلوقات میں۔ اور نہیں مبعوث فرمایا ہم نے آپ کو مگر سراسر رحمت واسطے عالمین کے۔ اور نداء ہی آپ کی والدہ

اُمِّهِ كُلِّ نَبِيٍّ اِهْتَدَى اِذَا وُضِعَتْ شَمْسُ الْفَلَاحِ وَالْهُدَى فَسَمِيَهُ

کو ہر نبی صاحب ہدایت نے جب اس آفتاب فلاح و ہدیٰ کو جنم دینا تو اس کا نام

مُحَمَّدًا وَجَاءَ لِاُمِّهِ اِدْمٌ فِي الْمَنَامِ وَهَنَّا هَا وَسَلَّمْ عَلٰى اُمِّهِ الْكَلِيمِ

محمد رکھنا۔ اور آئے آپ کی والدہ کے پاس آدم علیہ السلام خواب میں اور انھیں مبارکباد دی اور سلام کیا کلیم اللہ نے آپ کی

فِي الْمَنَامِ وَحَيَّاهَا وَقِيلَ لِاُمِّهِ حِينَ كَمَلِ اللهُ حَمْلَهَا وَاتَمَّهُ

امی جان کو خواب میں اور ہدیہ تیریک پیش کیا۔ اور کہا گیا آپ کی والدہ سے جب امضاد و نذرتعالیٰ سے ان کا حمل کامل اور مکمل ہو گیا تو حاملہ

حَمَلْتُ بِنَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ هَذِهِ الْاُمَّةِ وَهُوَ الْهَادِي بِطُرُقِ

ہوئی ہے نبی رحمت کے ساتھ اور اس امت کے آقا و مولیٰ کے ساتھ اور وہی رہنما فرمانے والے ہیں

الْبَيَانِ وَحَضَرَتْ لِمَوْلِدِهِ اَسِيَّةُ بِنْتُ مُزَاجِرٍ وَمَرْيَمُ ابْنَتُ

بیان و انعام کے طریقوں کی طرف۔ اور حاضر ہوئیں آپ کے وقت ولادت میں آسیہ بنت مزاجم۔ اور مریم بنت

عِمْرَانَ وَطَافَتْ بِهٖ الْمَلَائِكَةُ جَمِيْعَةً الْاَقْطَارِ وَعَرَفَتْ بِهٖ الْمَلَائِكَةُ اَهْلَ

عمران۔ اور طواف کرایا انھیں ملائکہ نے تمام اطراف میں۔ اور پہچان کرائی ان کی ملائکہ نے تمام ساکنین سموات

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْبَحَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

و ارض اور ساکنین بحر کو۔ لے اللہ درود اور سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ

اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَافَتْ بِهٖ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى الْكُوْنِيْنَ وَرَدَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ

کی آل اہل پر جس مزدوم کو طواف کرایا ملائکہ نے کونین پر اور لوٹایا انھیں ان کی مادر محترمہ کی طرف

لِاُمِّهِ فِيْ اَسْرَعٍ مِنْ طَرْفَةِ الْعَيْنِ وَسَادَفِي الْمَهْدِ عَلٰى الْعُلَمَاءِ وَحَضَرَتْ

پلک بچھنے سے بھی پہلے اور جلدی۔ اور عالم طفولیت میں سیادت حاصل کر لی تمام اطفال و علمان پر اور حاضر ہوئی آپ کی

لِأُمِّهِ عِنْدَ وَضْعِهِ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْحُورِ الْحِسَانِ ط وَكَمُلَ بِهِ السُّعُودُ وَتَشَرَّفَ

والدہ کے پاس وقت ولادت میں حسین ترین حوروں کی ایک جماعت اور کمال پذیر ہوئی بسبب آپ کے نیک نیتی اور از باب شرافت و فضیلت بن

بِهِ الْإِبَاءُ وَالْجُدُودُ وَنَادَتْهُ الْكَانِنَاتُ شَرْقًا وَغَرْبًا أَهْلًا بِالْحَبِيبِ وَمَرْحَبًا وَ

گئے آپ کی بدولت آپ کے آہا و اجلاؤ اور کاننات ر کے ہر فرد نے آپ کو شرق و مغرب پکار کر اور آواز بلند کہا "حبیب کا تشریف لانا مبارک ہو"

كَانَ طَيِّبَ الْأَرْدَانِ وَيَشُبُّ شَبَابًا لَا يَشْبُهُ بِهِ الْعُلَمَانُ وَكَانَ يَشُبُّ فِي الْيَوْمِ

اور آپ پاکیزہ آستینوں والے تھے اور آپ ایسے انداز سے نشرو نما پا رہے تھے کہ جو عام بچوں کے مماثل نہیں تھی۔ اور آپ نو

شَبَابِ الصَّبِيِّ فِي الشَّهْرِ وَيَشُبُّ فِي الشَّهْرِ شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي السَّنَةِ وَكَانَ لَهُ

پاتے تھے ایک دن میں عینی نمونے تھے دوسرے بچے ایک ماہ میں اور مینہ میں اتقدر بڑھتے تھے جس قدر دوسرے بچے سال میں

الشَّانُ الْجَسِيمُ وَالنَّبَأُ الْعَظِيمُ وَخَلَعَتْ عَلَيْهِ مَلَائِسُ الْإِجْلَالِ وَالْتَعْظِيمِ ط

بڑھتے تھے اور آپ کی شان بلند و بالا تھی اور آپ کا عرفان عظیم تھا۔ اور آپ کو نوازا گیا تھا اجلال و تعظیم کی خلعتوں کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور ان کی آل پر جس (محبوب کریم) کو کواکب سماویہ

الْكَوَاكِبُ تَوَسَّسَتْ فِي الظُّلَامِ وَكَانَ عَيْنُ اللَّهِ تَحْرُسُهُ فِي الْيَقِظَةِ وَالْمَنَامِ وَكَانَتْ

انس متیا کرتے تھے تاریکیوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ان کی حفاظت فرماتی تھی ان کی بیداری اور نیند کی حالت میں اور

الْمَلَائِكَةُ تَقِفُ صُفُوفًا تَنْظُرُ فِي نُورِهِ وَهُوَ فِي ظُهُرِ أَدَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْلُقَ

ملائکہ صفت بستہ کھڑے ہوتے تھے ان کے نور کا نظارہ کرتے ہوئے جبکہ وہ آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے قبل اس کے کہ پیدا کئے

الْعَوَالِمِ وَأَنْشَأَهُ اللَّهُ فِي أَشْرَفِ بِلَادِهِ مِنْ أَكْرَمِ عِبَادِهِ وَلَهَا حَمَلَتْ أُمُّهُ

جائیں سبھی عالم اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا مشرف و افضل میں سب سے اعلیٰ بلد اور شہر میں اور سب سے کرامت و عزت والے بندوں سے اور جب

عَلَيْهِ السَّلَامُ نَطَقَتْ كُلُّ دَابَّةٍ لِقَرِيْشٍ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَغَرَسَهُ اللَّهُ

آنحضرت کی والدہ ماجدہ آپ کے ساتھ حاملہ ہوئیں تو گویا اور ناطق ہوا قریش کا ہر جانور بیت حرام اور مکہ شریف میں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے شجر وجود کو اکایا

مِنْ أَطْيَبِ الْمَنَاصِبِ وَأَنْتَخَبَهُ اللَّهُ مِنْ ظُهُورِ النَّجَبَاءِ وَبُطُونِ النَّجَابِ

پاکیزہ تر مقام اور جنت سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا عمدہ لوگوں کی اصلا ب سے اور عمدہ بیبیوں کے ارحام سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ طَلْعَةُ

اے اللہ رحمت اور سلامتی نازل فرما سیدنا محمد اور ان کی آل پر جو کہ جھلک ہیں

قَمَرِ الْوُجُودِ دَائِرَةُ فَلَكِ السُّعُودِ وَأَشْرَقَتْ بِظُهُورِهِ الْغِيَاہِبُ وَالْحَنَادِسُ وَ

ترجمہ کی اور دائرہ ہیں سعادت مندوں کے فلک کا کہ جبکہ اُسٹھے ان کے ظہور سے ظلمات اور تاریکیاں اور سرنگوں

تَسَاقَطَتْ بِبِعْتَتِهِ الْأَصْنَامُ مِنْ أَعْلَى الْمَجَالِسِ وَأَشْرَقَتْ بِظُهُورِهِ الْأَرْضُ وَ

ہو گئے آپ کی بعثت کی وجہ سے اصنام و اوثان اپنے بلند مقامات سے اور چمک اٹھی زمین اور اس کی گرائی آپ کے ظہور سے

تَرَاهَا وَتَهْدَمَتْ بِبِعْتَتِهِ صَوَامِعُ الْكُهَّانِ وَزَالَ بِبَنَائِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور منہم ہو گئیں آپ کی بعثت کی وجہ سے کابھوں کی عبادت گاہیں اور نابود ہو گئیں ان کی بنائیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ عَلَى آدَمَ الْمَوَاقِفِ وَالْعَهْدِ أَنْ

سیدنا محمد اور آپ کی آل پر جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عہد و میثاق لیے آدم علیہ السلام سے کہ نہ

لَا يَدْعَى نُورَةَ الْأَرْضِ أَهْلَ الْكُرَمِ وَالْجُودِ وَلَمْ يَزَلْ نُورَةٌ يَنْتَقِلُ مِنْ ظُهُورِ

سید کریم ان کا نور مگر اہل کرم اور اہل سخا میں اور ہمیشہ ان کا نور منتقل ہوتا رہا بزرگ مردوں کی پشتوں سے

الرَّخِيَارِ إِلَى بَطُونِ الْخَيْرَاتِ وَالْأَحْرَابِ وَأَوْصَلَ نُورَ كَيْدِ الشَّرَفِ وَالْمَكَارِمِ

بزرگ اور عظمت والی عورتوں کے ارحام کی طرف اور پہنچایا آپ کے نور کو اللہ تعالیٰ کے اشرف اور کرامت والے دست قدرت نے

إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ وَكَيْسَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ تَوْبَ الْبِهَاءِ وَ

طرف عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کے اور پہنچا بسبب اس نور کے عبد اللہ نے حسن و ملاحمت کا لباس

الْمَلَا حَةَ فَتَنَقَّطَ بِالْبَيَانِ وَالْفَصَاحَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پس وہ ناطق ہوئے واضح بیان اور فصیح کلام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نُودِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِيهِ أَدْمَا حَمَلَتْ مِنَ الْوَدْيَةِ إِلَى أَحْشَاءِ

جن کے متعلق حضرت عبد اللہ کو پکار کر کہا گیا کہ ادا کر وہ امانت جو تو نے اٹھا رکھی ہے اور پہنچا اس (نور) کو بلند

أُمَّةً الْمُنْبِيعَةَ مِنْ آدَمَ وَحَوَّاءَ الْهَاتِلَةَ بِالْوُدُودِ وَوَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُمَّ

مرتب آئندہ کے بطن اور رحم کی طرف رجوع فرمائی تھی آدم و حوا کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر اللہ و دودی ہوتی و محبت کے ساتھ۔ اے اللہ



عَلَّمَنِي عِلْمًا كَامِلًا نَافِعًا بِعُلُومِ الدِّينِ بِوَرَانَةِ الْأَحْدَانِ مِنَ الْأَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ

مجھے عطا فرما علم کامل اور نافع علوم لدنیہ میں سے بطور وراثت اس ذات کے جو بے مثل ہے اس تمام نسل سے جو پاکیزہ اصلااب

وَالْأَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ لَجُودِ الْبُجُودِ فِي مَنْصَةِ الْعُلَى بِالنَّصَةِ الْأَعْلَى بِسْتِرْبَادِ

اور پاکیزہ ارحام سے پیدا ہونے والی ہے۔ سبب رحمت فرمانے قیام کے مراتب عالیہ والے بلند مقامات میں پردہ پوشی کرتے ہوئے ساتھ

الْمَلْحَفَةِ الْبِحَادِ الْيَمَانِيَّةِ الْإِيمَانِيَّةِ لظُهُورِ الْأَنْوَارِ النَّوْرِ وَمَسْتَوْرِ الْمَسْرُورِ

ایسی وسیع چادر کے جو منقش یمانی اور ایمانی ہے۔ بسبب ظاہر ہونے انوار نورانیہ کے۔ اور پوشیدہ مستروں کے

الْمَوْفُورِ كُلِّ مَا سَوَى اللَّهِ بِحُكْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اعْطِنِي عَرْقًا فِي بَحْرِ عَرْفَانِ

جو محیط ہے تمام ماسوا اللہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اے اللہ مجھے عطا فرما تو مین مستغرق ہونے کی عرفان حق کے سمندر میں

الْحَقِّ وَحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيِّ بِوُجُوهِ ظُهُورِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور بحر حقیقت محمدیہ میں بطفیل ظاہر ہونے والے نور کے ان کے یوم ولادت میں اور رحمتیں نازل فرما سیدنا محمد پر

مُحَمَّدِ الَّذِي اسْتَنَارَ بِهِ الْكُونِينَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي بَادَرَتْ أُمُّهُ

جن کی بدولت دونوں جہان روشن ہو گئے۔ اور صلوات بھیج ہمارے آقا محمد پر کہ سبقت لے گئیں ان کی والدہ ماجدہ

عِنْدَ وِلَادَتِهِ بِوَادِ السَّعَادَةِ فِي الدَّارِ الْبَارِئَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي

ان کی ولادت کے وقت دارین کی سعادتوں کی وادیوں کی طرف۔ اور رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد پر کہ جن کی

حَقَّتْ أُمُّهُ عِنْدَ وَضْعِهِ كُلُّ زَمْرٍ الْمَلَائِكَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي

والدہ کو ڈھانپ لیا انھیں جنم دیتے وقت ملائکہ کی تمام جماعتوں نے اور صلوات بھیج ہمارے آقا محمد پر کہ جب

لَمَّا اسْتَدَّ بِأُمِّهِ عِنْدَ وَضْعِهِ الظَّمَا سَقَاهَا اللَّهُ شَرْبَةً وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

آپ کی والدہ کو سخت پیاس لگی وقت ولادت کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم غیب سے شربت پلایا۔ اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

بِالَّذِي أَنْسَ اللَّهُ أُمَّهُ عِنْدَ وَضْعِهِ بِنِسَاءِ أَشْرَافِ يَنْشِبُهُنَّ نِسَاءَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ

کہ انس اور سکون متیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ کو انھیں جنم دیتے وقت ایسی بلند مرتبت عورتوں کے ساتھ جو بنی عبد مناف کی

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي مَدَّ لِأُمِّهِ دِيْبًا جَزْوَ وَأَنَارَتْ بِهِ الْأَفَاقُ كَالزَّجْرِ

عورتوں کی مانند تھیں۔ اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جن کی والدہ ماجدہ کے لیے ریشمی چادر تانی لگی اور اس کے ذریعے آفاق روشن ہو گئے مثل



بیت ابن مسعود

مُسَحَّ بَطْنُ أُمِّهِ بِجَنَاحِ طَائِرٍ أَبْيَضٍ فَرَّالٍ عَنْهَا الرُّوعُ وَنَهَضَ

مُسَّ کیا گیا آپ کی امی جان کا بطن اقدس سفید پرندے کے پر کے ساتھ پس ان سے زائل اور کا فر ہو گیا خوف اور اندیشہ

وَرَدَّ لِأُمِّهِ مِنْ طَبَقَاتِ السَّمَوَاتِ بَعْدَ أَنْ أَبْدَتْهُ الْمَلَكَةُ لِجَمِيعِ

اور آپ لوٹائے گئے والدہ ماجدہ کی طرف افلاک کے طبقات پر سے بعد اس کے کہ ظاہر کیا آپ کو ملائکہ نے تمام

الْمَخْلُوقَاتِ وَرَأَتْ أُمُّهُ عِنْدَ وَضْعِهِ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ عَلِمًا بِالشَّرْقِ

مخلوقات پر اور دیکھے آپ کی امی جان نے آپ کے وقت ولادت میں تین جھنڈے جن میں ایک علم مشرق میں نصب تھا

وَعَلِمًا بِالمَغْرِبِ وَعَلِمًا بِالبَيْتِ الحَرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

دوسرا مغرب میں اور تیسرا بیت حرام پر نصب تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَتْ أُمُّهُ حِينَ وَضَعَتْهُ وَظَهَرَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کی امی جان نے آپ کو جنم دیتے وقت دیکھا کہ نمودار ہوا ہے

قِطْعَةٌ مِّنَ الطَّيْرِ تُظِلُّهُ مَنَاقِيرُهَا مِنَ الزَّمْرِدِ وَأَجْنَحَتَاهَا مِنَ اليَاقُوتِ

پرندوں کا ایک جھنڈا ان پر سایہ ٹکن ہوتے ہوئے جن کی چوہیں زمرد سے تھیں اور ان کے پریاقوت سُرُخ

الأَحْمَرِ وَلَمَّا وَضَعَتْهُ أُمُّهُ وَبَدَأَ قَبْضَ عَلَي مِفْتَاحِ النُّبُوَّةِ وَالنُّصْرِ

سے تھے اور جب جناب آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور آپ (عالم اجسام میں) ظاہر ہوئے تو آپ نے قبضے میں سے لیا نبوت و نصرت

وَالهُدَى وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ كَالْغُصْنِ الرَّطْبِ أَضَاءَ لَهَا بَيْنَ المَشْرِقِ

اور ہدایت کی چابیوں کو اور جنم دیا آپ کو والدہ ماجدہ نے مانند شاخ تر کے جبکہ روشن کہو دیا آپ نے ان کے لیے

وَالْمَغْرِبِ وَغَسَلَ بِطَشْتٍ مِّنَ الفَرْدُوسِ وَأَصْبَحَتْ أَصْنَامُ

مشرق سے مغرب تک کو اور آپ کو غسل دیا گیا جنت الفردوس کے طشت میں ہو گئے۔

الدُّنْيَا عِنْدَ وِلَادَتِهِ مِنْكَسَّةَ الرُّعُوسِ وَرَفَعَتْهُ عِنْدَ وَضْعِهِ

دُنْيَا بھر کے تب آپ کی ولادت باسعادت کے وقت سرنگوں۔ اور اٹھا لیا ولادت کے بعد آپ کو

السَّحَابَةَ وَأَخْفَتْهُ عَنِ الأَهْلِ وَالْقَرَابَةِ وَلَمَّا ظَهَرَتْ نَسَمَتُهُ

بادل نے اور آپ کو غائب کر دیا آپ کے اہل اور قرابتداروں سے۔ اور جب نمودار ہوا آپ کا شخص مکرم

الْكَرِيمَةُ الْبَقِيَّةُ عَلَيْهِ تَمِيمَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تو ڈالے گئے آپ کو تعویذات - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا محمد پر

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا وَضَعَتْهُ أُمُّهُ عَلَى التَّرَائِي لَفَّهٗ

اور آپ کی آل پر کہ جنہیں امی جان نے جب جنم دیا زمین پر لپیٹ لیا انہیں

جَبْرَائِيلُ فِي حَرِيرَةٍ خَضْرَاءَ وَطَيْفَ بَطِينَتِهِ جَنَّاتُ النَّعِيمِ

جبرئیل علیہ السلام نے سبز ریشم کے لباس میں - اور پھرایا گیا آپ کے خمیر بدنی کو جنات النعیم میں

وَغَمَسَتْ طِينَتَهُ فِي أَنْهَارِ التَّنْسِيمِ وَطَيْفَ بَطِينَتِهِ وَلَهَا عَرَقٌ

اور نہلایا گیا آپ کے خمیر مقدس کو تنسیم کی نہروں میں - اور آپ کی طینت کو طواف کرایا گیا اس حال میں کہ

يَسِيلُ فَخَلِقَ مِنْهَا كُلُّ نَبِيٍّ جَلِيلٌ وَحَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ الْأَبْرَارُ

اس سے پسینہ ٹپک رہا تھا تو اس کے ہر قطرے سے عظیم و جلیل نبی کو پیدا کیا گیا اور ٹھکانا لیا انہیں ملائکہ ابرار نے

يَحْجُبُونَ عَنْ الْأَغْيَارِ وَرَنَّ ابْلِيسُ اللَّعِينُ عِنْدَ مَوْلِدِهِ رَنَّةً سَمِعَهَا

جو انہیں حجاب میں رکھے ہوئے تھے اغیار (کی نگاہوں) سے - اور رویا ابلیس لعین آپ کی ولادت کے وقت ایسی آواز کے ساتھ

مِنْهُ الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنَّةِ وَبَشَّرَتْ لَأْمَهُ الْاُحْوَرُ بِظُهُورِ

جسے سنا تمام مخلوقات یعنی انسانوں اور جنات نے - اور بشارتیں دیں آپ کی والدہ کو حوروں نے ساتھ ظاہر ہونے

عُرَّةِ الْيَمِينِ وَالتُّورِ وَوُلِدَ مَدُّهُ وَهُوَ نَاعِطٌ طَاهِرٌ مَطْهَرٌ وَأَوْلَادٌ وَ

بیم و برکت اور نور و منیہ کی واضح علامت کے - اور پیدا کئے گئے اس شان کے ساتھ کہ تیل اور عطر لگا ہوا تھا اور طاهر و مطہر تھے اور آپ اس انداز

نُورٌ وَوَجْهُهُ يَتَوَقَّدُ وَمَا وُلِدَ قَطُّ مِثْلَهُ فِي الْوُجُوْدِ وَلَا يُوَلِّدُ اللَّهُمَّ

میں پیدا ہوئے کہ چہرہ انور کا نور چمک رہا تھا - اور نہ کوئی پیدا ہوا کبھی ان کی مانند عالم وجود میں اور نہ ہی پیدا ہوگا - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَمَلَتْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کے ساتھ حاملہ ہوئیں

بِهِ أُمُّهُ بِلَا نَصَبٍ وَلَا تَعَبٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ وَخَفَّتْ

آپ کی والدہ ماجدہ بغیر کسی مشقت اور کلفت کے ماہ رجب کی شب جمعہ میں - اور لہرائے

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ وَضْعِهِ وَقُوفًا يُنْظَرُونَ إِلَى

چھٹ جانے بادلوں کے (رُخ آفتاب)۔ اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر کہ ملائکہ ان کی ولادت کے وقت پرے جائے کھڑے تھے دیکھتے تھے جن

أُمِّهِ صُفُوفًا صُفُوفًا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ظَهَرَ لَأُمِّهِ عِنْدَ وَضْعِهِ

ان کی والدہ ماجدہ کے صفت بستہ۔ اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر کہ جن کی والدہ طاہرہ کے لیے ظاہر ہوئے آپ کی ولادت کے وقت

أُمُورٌ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ كَامِنَةً فَتَرَوَعَتْ مِنْهَا وَهِيَ مِنْهُ أَمِنَةٌ وَصَلَّ عَلَى

ایسے امور قبل ازیں ان سے مخفی تھے پس وہ خوفزدہ ہو گئیں۔ جبکہ وہ آپ کی برکت سے امن پانے والی تھیں۔ اور صلوات بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَ السَّعْدَ لِأُمِّهِ مَدَّ هَشَّ بَابِهِ وَجَلَّهَا الْعَرَبُ بَنُورًا

ہمارے سردار محمد علیہ السلام پر کہ جن کی والدہ کی سعادت مندی نے ان کے دروازے سے دشتوں کو دور کر دیا۔ اور انھیں عرب و شرفتے جلا بخشے آپ کے

شَهَابِيَّةً وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَصْبَحَ قَدْ رَأَى بَوَادِيَهُ سَعْظًا وَدُرًّا

شہاب نزر کے صدمتے میں۔ اور صلوات بھیج ہمارے مولانا محمد پر کہ جن کی ولادت باسعادت کے باعث ان کی امی جان کی تندر و منزلت عظیم ہو گئی

الشَّرَفَ بِحُلِيِّهَا مَنْظِمًا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَدْخَلَهُ رِضْوَانٌ تَحْتَ

اور شرف و نصیحت کا موتی ان کے زیورات کی سلک میں پرویا گیا۔ اور رضیں نازل فرما ہمارے آقا محمد پر جنہیں رضوان جنت داخل کیا اپنے

جَنَاحِهِ فَالْهَمَّةُ بِأَمْرِ اللَّهِ إِلَى رُشْدِهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

پرول کے نیچے اور اللہ تعالیٰ کے امر سے آپ کی رہنمائی کی رشد اور بھلائی کی طرف اور درود بھیج ہمارے سردار محمد پر جو کہ

عَادَ إِلَى أُمِّهِ وَالْأَنْوَارُ تَحْقُقُهُ وَالْمَلَائِكَةُ تَلْحُظُهُ وَتَكْنِفُهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لوٹے اپنی والدہ ماجدہ کی طرف اس شان سے کہ انوار انھیں محیط تھے۔ ملائکہ ان کی طرف نظر لگاتے ہوئے تھے اور ان کے گرد حلقہ بنتے ہوئے تھے اور درود بھیج ہمارے

الَّذِي رُدَّ إِلَى أُمِّهِ وَالْمَسْكُ يُعْبِقُ وَالْكَرْمُ حَشْوَاهَا بِهِ وَرُدَّ إِلَى أُمِّهِ وَقَدْ تَعَطَّرَتْ

محمد پر جو کہ لوٹے والدہ کی طرف در آنجا لیکہ ان سے بوٹے مشک مہک رہی تھی اور آپ سر با جو دو کم بنے ہوئے تھے۔ اور آپ والدہ ماجدہ کی طرف لٹائے گئے

أَرْدَانُهُ وَقَدْ نَشَّدَتْ أَرْكَانُهُ وَمِهْدٌ مِهْدًا وَمَكَانُهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

در آنجا لیکہ کہ امی استینیں عطر بیز تھیں۔ آپ کے اعضائے مبارکہ (بچی کپڑے سے) بندھے تھے۔ اور آپ کے پھوٹا اور مسند ترحمت تیار کی جا چکی تھی اور درود بھیج ہمارے آقا

الَّذِي رُدَّ إِلَى أُمِّهِ وَقَدْ لَفَّ فِي حَرِيرَةٍ خَضْرَاءَ يَنْبَعُ مِنْهَا الْمَاءُ الْعَذْبُ وَرُدَّ

محمد پر جو کہ والدہ ماجدہ کی طرف لٹائے گئے اس حال میں کہ انہیں سبز ریشم میں لپیٹا گیا تھا جس سے آب شیریں ٹپک رہا تھا اور جو کہ امی جان کی طرف





إِلَىٰ أُمِّهِ وَقَدْ قَبِضَ عَلَىٰ ثَلَاثِ مَفَاتِيحٍ مِّنَ اللُّوْلُؤِ الرَّطْبِ وَصَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اس شان سے لوٹائے گئے کہ آپ لولؤے آبدار کی تین چابیوں کو ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے اور درود بھیج سیدنا

مُحَمَّدَ الَّذِي وَقَفَ جِبْرَائِيلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَعْلَنَ رِضْوَانُ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ وَ

محمد پر کہ کھڑے ہوئے جبریل امین ان کے سامنے (تعظیم کے لیے) اور رضوان جنت نے ان کو علانیہ سلام پیش کیا اور

قَبْلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَبَادِرَ مِيكَائِيلُ إِلَىٰ خُدْمَتِهِ وَتَشَرَّفَ إِسْرَافِيلُ بِزِيَارَتِهِ

آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور جلدی سے پہنچے میکائیل ان کی بارگاہ میں، اور شرفیاب ہوئے اسرافیل آپ کی زیارت سے

وَقَدْ أَشْرَقَتْ الْأَرْضُ بِأَنْوَارِهِ وَتَزَيَّنَّ الْكُونُ بِطَالِعِ أَقْمَارِهِ وَرَدَّ لِأَقْبِهِ مَحْفُوفًا

اور جگمگا اٹھی زمین آپ کے انوار سے اور کائنات ان کے ماہتاب رخ کی طلعت سے مزین ہوئی۔ اور آپ کو حضرت آمنہ کی طرف لوٹایا گیا بلکہ

بِالْيَمِينِ وَالْإِقْبَالِ وَتَحْرُسُهُ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَعَرَجَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَعْلَامِهِ

آپ کی برکت اور سعادت مندی سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اور (ملائکہ) آپ کی حفاظت نگہبانی کرتے تھے ہر صبح اور شام اور بلندیوں کی طرف گئے

مُبَشِّرَاتٍ بِأَقْدَامِهِ وَصَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سُبِيَّ عَامٌ وَوَادَتْهُ عَامٌ

ملائکہ ان کی اطاعات کے ساتھ در آنجا نیکہ بشارت دینے والے تھے ان کی تشریف آوری کے ساتھ۔ اور درود بھیج ہمارے سردار محمد پر کہ جنکی ولادت باسعادت کے سال کو

الْخَيْرِ وَالْبِرْكَاتِ وَالزَّيْنِ وَتَزَخَّرَتْ بِنُورِ ظُهُورِهِ وَتَزَيَّنَتْ بِسَاطِعِ نُورِهِ وَ

نیر و برکت اور رونق و بہار کا سال کہا گیا۔ اور مزین ہوئے ان کے نورِ ظہور سے اور متور ہوئے ان کے غالب و کامل نور سے اور

أَضَاءَتْ لِهَوْلِهِ بَقَاءُ تَهَامَةٍ وَنَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَضْلَهُ وَأَدَامَهُ وَصَلَّ عَلَىٰ

چمک اٹھے ان کی ولادت سے تمام علاقہ جات۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھیلا یا آپ پر اپنے فضل و کرم (کے سایہ) کو اور اسے ہمیشہ بزرگوار اور قائم رکھا۔

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَجَلَّىٰ عَلَيْهِ الْمَنَاقِبُ الرَّفِيعَةُ وَالْمَكَارِمُ وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ

اور درود بھیج ہمارے سردار محمد پر کہ جن پر مناقب عالیہ روشن ہوئے اور بزرگیاں منکشف ہوئیں۔ اور آپ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے

الشَّرْفَ الدَّائِمَ لِعَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ الْمُطَلِّبِ وَهَاتَيْنِمْ وَصَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ابدی شرف و فضیلت کو کامل و مکمل فرمایا حضرت عبد اللہ اور عبد المطلب و ہاتھ کے لیے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد صلی

بِالَّذِي لَمْ يَزَلْ يَنْتَقِلُ نُورُهُ مِنَ الْأَرْحَامِ الرَّكِيَّةِ الْفَاخِرَةِ وَالْأَرْوَامَاتِ

کہ جن کا نور مقدس ہمیشہ منتقل ہوتا رہا پاکیزہ اور قابلِ فخر ارحام سے اور اصول شریف سے جن کی شرافت ظاہر تھی اور پاکیزہ



الثَّامِي الْأَخْرَو لَمْ يَرْضَعُهُ وَقِيلَ فِيهِ لِحَلِيمَةَ فِي النَّوْمِ الْهَاجِرِ الْبَشْرِي

پستان چھوڑ دیا اور اس سے دودھ نہ پیا۔ اور آپ کے متعلق حلیمہ کو گہری نیند میں کہا گیا تھے بشارت ہو دودھ

بَارِضًا عَلَيْكَ لِلضِّيَاءِ وَهِيَ الشَّفِيقَةُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الْقُوْتِ دَقِيقَةً وَكَانَ ثَدْيُهَا

پلانے کی۔ واسطے ضیاء (رأمت وکائنات) کے جبکہ وہ آپ کے لیے شفیق یعنی اور اپنے مقدار کفایت فرہ بھی زیادہ نہ پیا حالانکہ ان کے پستان

لَهُ يَفُورُ وَيَبْطُونُ النِّسَاءِ سِوَاهَا لَا صِقَةَ بِالظُّهُورِ وَتَرَكَتَهُ أُمُّهُ وَهُوَ ابْنُ

آپ کے لیے ایلٹے چشم کی مانند تھے اور اس کے علاوہ دوسری عورتوں کے شکم (بوجہ بھوک) ان کی پشتوں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو

أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ وَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ وَهُوَ ابْنُ اثْنَيْ عَشَرَ عَامٍ وَشَهْرَيْنِ وَعَشْرَةَ

دو بار مفارقت دیا جبکہ آپ چار سال کے تھے۔ اور آپ شام کی طرف تجارت کے لیے اتر لینگے جبکہ آپ کی عمر شریف بارہ سال دو ماہ اور دس دن تھی

أَيَّامٍ وَتَرَكَهُ جَدُّهُ عَبْدُ الْمَطْلِبِ هُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةِ أَعْوَامٍ وَشَهْرَيْنِ وَعَشْرَةَ

اور آپ کو آپ کے دادا عبدالمطلب نے دو بار مفارقت دیا جب کہ آپ آٹھ سال دو ماہ اور دس دن کے تھے

أَيَّامٍ وَكَانَ نَوْمُهُ يُظْهَرُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ وَجَدَّهِ قَبْلَ حَمْلِ أُمِّهِ وَمَوْلِدُهُ اللَّهُمَّ

اور آپ کا نور نور ظاہر ہوتا تھا آپ کے والد ماجد اور دادا جان کے چہرہ پر آپ کی والدہ ماجدہ کے حاملہ ہونے اور جنم دینے سے پہلے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَلْقَى فِي طِينَتِهِ

اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر کہ ملایا گیا ان کی طینت اور خمیر میں وہ نور

النُّورِ الَّذِي سَبَقَ فَخْرَهُ وَتَقَادَمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کہ سبقت لے گیا فخر اس کا اور (سب) مقدم ہو گیا۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُودِعَتْ طِينَتُهُ فِي ظَهْرِ أَبِيهِ أَدَمَ اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر کہ اس آقا کی طینت نوریہ ودیعت کی گئی ان کے باپ آدم کی پشت میں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَرَّ أَسْرَتُهُ

صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور ان کی آل پر کہ زیارت کی ملائکہ

الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

نے ان کی وقت ولادت میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر



الشَّرِيفَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْعَنَاصِرِ الظَّاهِرَةِ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ اللهُ رَحْمَةً وَّارْطَهَارًا

عناصر سے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو (ان اصلاب و ارحام سے) نکالا اس شان سے کہ وہ سراپا رحمت تھے اور آپ کی

لِقَدْرِ نَبِيِّهِ وَبَيِّنِ مَجْدَكَ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَصَلَّ عَلَى

قدر و منزلتِ ظاہر کرنے اور مجد اور تبت اجاگر کرنے کیلئے (فرمایا) اور نہیں ہے زیبا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ عذاب دے انہیں جبکہ آپ ان میں موجود ہو اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ تَرَأْمَهُ فِي حَالٍ وَضِعِهِ مَا رَأَتْهُ النَّفْسَاءُ وَلَمْ تَحْدُ أُمَّهُ

درد و بیچ ہمارے آقا محمد پر کہ جن کی والدہ ماجدہ نے آپ کو جنم دیتے وقت نہ دیکھی وہ آلائش جو بچوں کو جنم دینے والی عورتوں نے دیکھی، اور نہ محسوس کیا آپ کی والدہ

مِنْ ثِقَلِ الْحَمْلِ مَا وَجَدَتْهُ النَّسَاءُ وَلَهَا وَلَدَتْهُ أُمَّهُ وَضَعَتْهُ فِي الْأَرْضِ قَبْضَ

ماجدہ نے حمل کا ثقل اور گرانی جو عام عورتیں محسوس کرتی ہیں، اور جب ان کو جنم دیا ان کی والدہ ماجدہ نے تو آپ کو زمین پر رکھا تو آپ نے قبضہ فرمایا

عَلَى ثَلَاثِ مَفَاتِيحٍ مِنَ اللُّوْلُؤِ الْأَبْيَضِ وَأَعْلَمَهُ اللهُ بِعُلُوِّ دَرَجَتِهِ وَسَرَّعَتْ

سفید موتی سے نبی تین چابیوں پر اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی آپ کی بلند ہی درجات کی اور ملائکہ نے آپ کی تربیت میں

الْمَلَكَةُ فِي تَرْبِيَّتِهِ وَخَمَدَتْ نِيرَانُ فَارِسٍ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَغَاصَ مَاءٌ

ربغت ظاہر کی اور آتش کدہائے ایران کی آگ آپ کی ولادت کے وقت بجھ گئی اور ساوہ کا پانی آپ کی

سَاوَةٌ عِنْدَ ظُهُورِ عَلَامَتِهِ وَغَاصَ نَهْرُ الْأَرْدَنِ لِمُورِدِهِ وَأَضَاءَتْ لِمَوْلِدِهِ

علامات ظاہر ہونے پر خشک ہو گیا اور دریائے اردن جاری ہو گیا آپ کے درد و مسعودی وجہ سے اور آپ کی ولادت کی وجہ سے

الْأَفَاقُ وَاتَّصَلَتْ بِهِ بُشْرَى الْهَوَاتِيْفِ فِي الْعَيْشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَصَلَّ عَلَى

آفاق روشن ہو گئے اور سر و پیشِ غیبی کی بشارتیں آپ کی تشریف آوری کے متعلق صبح و شام ملنے لگیں۔ اور درود بھیجے اے اللہ ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَغِبَ الطَّيْرُ وَالسَّحَابُ وَالرِّيْحُ فِي إِرْضَائِهِ وَأَنْ يَكُونُوا

آقا محمد پر کہ رغبت ظاہر کی پرندوں، بادلوں اور ہواؤں نے ان کے راضی کرنے میں اور ان کے گروہ اور تابعین میں شامل

مِنْ أَشْيَاعِهِ وَاتَّبَاعِهِ وَلَهَا أَرْضَعَتْهُ حَلِيمَةً ذَرَّ كَبْنَهَا وَأَنْهَمَرَ فَكَانَتْ

ہونے میں اور جب انہیں حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے کا قصد کیا تو وہ پوری قوت سے اور کثرت سے جاری ہوا چنانچہ

تُرْضِعُ مَعَهُ عَشْرَةَ أَوْ أَكْثَرَ وَعَلِمَ أَنَّ لَهُ شَرِيكًَا فِي الرِّضَاعِ مَعَهُ فَتَرَكَ لَهُ

وہ آپ کے ساتھ دس بچوں یا ان سے بھی زیادہ کو دودھ پلاتی تھی اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ میرے ساتھ دودھ پینے میں حصہ دار ہے تو آپ نے اس کے لیے دوسرا



بِأُصْبِعِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَلَمَّا اشْرَقَ نُورُهُ فِي الْوُجُودِ أَعْلَنَ لِلَّهِ بِالسُّجُودِ وَبِأَنَّ

مکرم تھے تو اشارہ فرمایا اپنے اپنی انگلی کے ساتھ آسمان کی طرف اور جب منور ہوئے تو آپ کا نور عالم وجود میں اللہ کیلئے اعلان کیا ساتھ سجدہ کے اور حضور

الْحَرَمِ عِنْدَ مَوْلِدِهِ نُورًا وَرَقَصَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ عِنْدَ وَضْعِهِ فَرِحًا

دیا گیا جرم کعبہ آپ کے وقت ولادت میں نور کے ساتھ اور وجد و رقص کیا بیت حرام نے آپ کی پیدائش کے وقت فرحت و سرور

وَسُرُورًا وَجَعَلَ اللَّهُ دِينَهُ مُسْتَعْلِيًّا لَا مُسْتَعْلَى وَقَالَتْ لَهُ الْكَائِنَاتُ

کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو بلند اور غالب فرمایا اور لپٹ و مغلوب نہ بنایا۔ اور سب کائنات نے آپ کو وقت

عِنْدَ وِلَادَتِهِ أَهْلًا بِالْحَبِيبِ وَسَهْلًا وَوَلِدًا سَاجِدًا إِلَى الْأَرْضِ رَافِعًا

ولادت عرض کیا۔ حبیب مکرم کے لیے مرحبا اور خوش آمدید ہو۔ اور آپ پیدا ہو کر زمین پر سجدہ ریز ہوئے (پھر)

رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَوُلِدَ فِي خَوَارِقِ عَادَاتِهِ وَأَيَاتِ بَيِّنَاتِهِ اللَّهُمَّ

آسمان کی طرف سرناز کو بلند کرنے والے تھے اور پیدا ہوئے طرح طرح کے خرق عادات معجزات اور آیات بینکے ساتھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمَّاهُ

صلوٰۃ اور سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کو اللہ تعالیٰ نے موسوم فرمایا

اللَّهُ ذَكَرًا رَسُولًا وَوَلِدًا مَخْتُونًا مَكْحُولًا وَوَلِدًا نَظِيفًا مَقْطُوعَ السَّرَّةِ

ذکر اور رسول کے ساتھ اور آپ پیدا ہوئے تختہ شدہ اور سر مر لگائے ہوئے تھے، صاف ستھرے تھے اور نان بریدہ تھے

وَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرَائِيلُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَتَطَاوَلَتْ

اور آپ پر جبرئیل علیہ السلام چوبیس ہزار مرتبہ نازل ہوئے اور گردنیں اٹھائیں (دیدار کے لیے)

لِمَوْلِدِهِ الْجِبَالُ وَالْأَكْنَانُ وَمَالَ عِنْدَ مَوْلِدِهِ الْبَيْتُ وَالْأَرْكَانُ

آپ کی ولادت کے وقت پہاڑوں نے اور پہیوں میں رہنے والوں نے اور جھک گئے وقت ولادت میں بیت اللہ شریف اور اركان

وَبَيْنَ طَلْعَتِهِ الْمُبَارَكَةِ وَسَعَادَتِهِ وَضَعُ الْفَلَكَ لِوِلَادَتِهِ وَاهْتَزَّتْ

اور آپ کے رخ زیبایا کی طلعت مبارک کی برکت و سعادت کے طفیل آسمان (زمین کی طرف) جھک گیا وقت ولادت میں اور لرز گیا

لِمَوْلِدِهِ أَيُّوَانُ كَسْرَى وَعَايَنْتُ أُمَّهُ عِنْدَ وَضْعِهِ أَعْلَامَ بَصْرَى وَ

آپ کے وقت ولادت میں ایوان کسری اور شاہدہ کیا آپ کے وقت ولادت میں آپ کی والدہ ماجدہ نے لہری کے محلات اور بلند مقامات کا اور

الْعَاشِرَةَ مِنْ كَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ وَاعْتَدَلَ لِاِثْنِي عَشَرَ كَيْلَةَ خَلَّتْ مِنْ

(اور اعتدال پذیر ہوئے) جب کہ گزر چکی تھیں بارہ راتیں

شَهْرٍ رَابِعِ الْاَوَّلِ وَّوُلِدَ لثَلَاثِ وَسِتِّينَ وَاَرْبَعِ مِائَةٍ وَاَرْبَعَةَ

ماہ ربیع الاول سے اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی چار سو تریسٹھ اور چار

اَلْفِ سَنَةٍ مِّنْ مَّهْبِطِ اَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْجَنَّةِ وَّوُلِدَ بِاَوَّلِ

ہزار سال سال گزرنے پر آدم علیہ السلام کے جنت سے اترنے کے بعد۔ اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی

الْحَوْتِ فِي السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ مِنْ كَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ وَّوُلِدَ بِتِلْكَ الطَّوَالِحِ

اول حوت میں سوموار کی رات کی دسویں ساعت میں۔ اور آپ ان سیارگان کے ان مواقع پر موجود ہونے کے دوران پیدا ہوئے

وَهِيَ طَوَالِحُ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ

اور یہی طوالح اور ستارے ہیں انبیاء کے صلوات اللہ و سلام علیہ و علیہم

اَجْمَعِينَ وَّوُلِدَ فِي عَامِ الْفَيْلِ وَالشَّمْسُ عَلَى اَطْرَافِ الذَّخِيْلِ

اجمعین۔ اور پیدا ہوئے آپ عام فیل میں جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی جبکہ سورج راہل کفر کا کھجوروں کے سروں

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

پر تقاضا فرمایا ہوئے کہ تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا

لَمَّا اسْتَقَرَّ فِي بَطْنِ اُمِّهِ وَاسْتَوٰى اَمْرَ اللّٰهِ الرِّضْوَانُ اَنْ يُزَيِّنَ جَنَّةَ

قرار پذیر ہوئے والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں اور آپ کی جسمانی ساخت مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے رضوان جنت کو جنت الماویٰ بنانے

الْمَاوٰى وَقِيْلَ لِاُمِّهِ فِي الْمَنَامِ حَمَلْتِ بِخَيْرِ الْاَنَامِ وَتُوْدِيَتْ اُمُّهُ

کا حکم دیا اور آپ کی والدہ ماجدہ کو خواب میں کہا گیا کہ تم خیر الانام کے ساتھ حاملہ ہو چکی ہو اور آپ کی والدہ کو نداء دی گئی

بِصَوْتِ تَسْمَعُهُ طُوْبٰى لِشَدِيْ يَرْضَعُهُ وَقَالَ الْاَنْبِيَاءُ فِي الْمَنَامِ لِاُمِّهِ

ایسی آواز کے ساتھ جسے وہ سن رہی تھیں۔ مبارک باد دی ہے اس پستان کیلئے جو اس محبوب کو دودھ پلائے گا۔ اور انبیاء و علیہم السلام نے کہا خواب میں

حَمَلْتِ بِشَمْسِ الْفَلَاحِ وَنَجْمِهِ وَلَمَّا وَضَعْتَهُ اُمُّهُ عَزِيْزًا مُّكْرَمًا اَوْحٰى

آپ کی والدہ ماجدہ کو تم حاملہ ہو گئی ہو فلاح و کامیابی کے آفتاب اور نجم کے ساتھ اور جب جنم دیا انہیں ان کی امی جان نے درآئیکہ وہ معزز اور

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَأَ رِضْوَانٌ فِي أذُنَيْهِ وَقَبْلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ

محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کے کانوں میں رضوان جنت نے قراوت کی اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى بِقَوْلِ الْعَلِيمِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر جو مراد و مقصود ہیں اللہ علیم و حکیم کے اس قول سے

الْحَكِيمِ أَنِّي لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

دوسری کس جگہ سے ہے ان کیلئے نصیحت حاصل کرنے کی گنجائش حالانکہ آپ کے ہیں ان کے پاس رسول کریم۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد اور آپ کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْرَقَ نُورُهُ فِي وَجْهِ آدَمَ وَجِبْهَتِهِ وَزَيْنَ

آل پر کہ جن کا نور چمکا آدم علیہ السلام کے چہرہ اور ان کی جبین میں اور مزین فرمایا

اللَّهُ اسَارِيرُ وَجْهِ آدَمَ بِاشْرَاقِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اللہ تعالیٰ نے آدم کی جبین کی سلوٹوں کو آپ کے نور کی شمعوں سے۔ اے اللہ درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَلَا نُورُهُ فِي وَجْهِ آدَمَ وَلَاخَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

کہ جگہ یا نور ان کا آدم علیہ السلام کے چہرہ میں اور نمودار ہوا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرمائیے

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَعَطَّرَ عَيْبُرُ الْعَنْبَرِ مِنْ شَمَائِلِهِ وَقَاخَ اللَّهُمَّ

محمد اور آپ کی آل پر کہ معطر ہوئیں عنبر می خوشبو میں ان کے شامل سے اور مہک اٹھیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ نُورُهُ فِي وَجْهِ

درود و سلام نازل فرما محمد کریم اور آپ کی آل پر کہ جن کا نور آدم علیہ السلام کے چہرہ سے

آدَمَ مُشْرِقًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ضوفشاں تھا۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر کہ جن کی

كَانَ طَائِرُ سَعْدِهِ حَوْلَ كِبَالِهِ مُحَدِّقًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

سعادت مندی کا نقش ازل ان کے کمالات کے گرد احاطہ کئے ہوئے تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي افْتَخَرَ بِهِ آدَمُ وَحَوَّاءُ فِي السَّمَاءِ بِظُهُورِ نُورِهِ فِيهِمَا عَلَمًا

آل پر کہ جن سے فخر حاصل ہوا آدم و حواء کو آسمانوں میں بسیدب ظاہر ہونے آپ کے نور کے ان دونوں میں واضح طور پر۔

مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَتْ الْوَحُوشُ وَالطُّيُورُ لِبَابِهِ مُنْقَادَةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ جنگلی جانور اور پرندے حاضر ہوئے ان کے درپر تا بعد از بن کر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَزَلَتْ النُّجُومُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ

ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر کہ اترے ستارے ان کی ولادت کے وقت

عَلَى السَّقُوفِ وَرَفَعَتْهُ الْمَلَائِكَةُ تَدْوِيرًا بِهِ عَلَى الْخَلَائِقِ وَتَطُوفُ

مکانوں کی چھتوں پر اور اٹھا لیا ان کو ملائکہ نے جبکہ وہ ان کو لے کر خلائق پر گردش اور طواف کرتے تھے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ مَهْدُهُ يَتَحَرَّكُ

اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر کہ جن کا پتھر ڈرا ملائکہ کے بلانے سے ہلتا تھا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ الْمَلَائِكَةُ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جس سے ملائکہ

بِهِ تَتَبَرَّكُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

برکات حاصل کرتے تھے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آل محمد پر جو کہ

أَوْ فِي النَّاسِ وَصَامَ رَمَضَانَ وَهُوَ فِي الْمَهْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سب سے زیادہ وقار دار تھے اور جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے عالم مہم میں رکھے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ الْقَمَرُ يَحْدِثُهُ فِي حَالَةِ الصَّغَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آپ کی آل پر کہ جن کے ساتھ چاند کلام کرتا تھا عالم صغر میں۔ اے اللہ رحمتیں

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ الْقَمَرُ تَلْهِمُهُ عَنِ الشِّفَاءِ

اور سلامتی نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جنہیں چاند بہلاتا تھا بیماری سے

وَالسَّهْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَسْمَعُ

اور بیداری سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جو سنا کرتے تھے

وَجِبَةَ الْقَمَرِ مِنَ الْفَرَشِ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

چاند کی ٹھوکر (کی آواز) کو فرش زمین پر جبکہ وہ سجدہ ریز ہوتا تھا عرش خداوند تعالیٰ کے نیچے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا

سَبَّأْتَهُ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ

کی انگلی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل ہو محمد کریم اور آپ کی آل پر کہ جن کے

اللَّهُ نُورًا أَصْحَابَهُ الْكِرَامِ فِي بَقِيَّةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اصحاب کے نور کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بقیہ جسمِ رحیمین اور چہرہ کے علاوہ حصہ میں پیدا فرمایا۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَلَا لَأْتُ أَصَابِعُ آدَمَ بِنُورِهِ نُورًا وَازْدَادَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ آپ کے نور کی بدولت چمک اٹھیں آدم علیہ السلام کی انگلیاں اور ان کی رونق بڑھ گئی

بِهِ بِهَجَةٍ وَسُورًا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اور ان کے سرور میں اضافہ ہوا۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد کریم اور آپ کی آل پر کہ

لَمْ تَزَلْ أَنْوَارِ أَصْحَابِهِ فِي أَصَابِعِ آدَمَ تَتَلَا لَأُوتِرْدَادُ فِي كُلِّ وَقْتٍ حُسْنًا وَجَمَالًا

ہمیشہ آپ کے اصحاب کے انوار آدم علیہ السلام کی انگلیوں سے جھلکتے رہتے اور ہر لحظہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا رہا

اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ بِهِ نُورًا بِي بَكْرٍ

اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ آپ کی بدولت ابوبکر صدیق کا نور

فِي الْوَسْطَى مِنْ أَصَابِعِ آدَمَ يَطْهَرُ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

آدم علیہ السلام کی درمیانی انگلی میں ظہور پذیر تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ بِهِ نُورٌ عَمْرِي فِي الْبَصْرِ مِنْ أَصَابِعِ آدَمَ يَزْهَرُ اللَّهُ صَلِّ

سیدنا محمد پر کہ آپ کے طفیل عمر فاروق کا نور آدم علیہ السلام کی آنکھت شہادت کے ساتھ والی چھوٹی انگلی میں ظاہر ہوتا تھا۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ بِهِ نُورٌ عَمْرِي فِي الْخَنْزِرِ

و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آل محمد پر کہ آپ کی بدولت عثمان ذی النورین کا نور آدم علیہ السلام کی چھنگلی

مِنْ أَصَابِعِ آدَمَ يَلُوحُ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

میں سے چمکتا تھا۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد کریم اور ان کی آل پر

الَّذِي كَانَ بِهِ نُورٌ عَمْرِي فِي الْإِبْهَامِ مِنْ أَصَابِعِ آدَمَ أَوْضَعَ الْوُضُوحَ اللَّهُ صَلِّ

کہ جن کی بدولت علی مرتضیٰ کا نور آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں کامل نورانیت کے ساتھ نمایاں تھا۔ اے اللہ درود



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْرَقَ نُورُهُ فِي

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر کہ روشن ہوا ان کا نور

وَجْهِ حَوَاءَ الطَّاهِرَةِ وَسَبَّاقَتْ رَهَابُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پاک حواء کے چہرہ میں اور بلند ہوئی اس کی قدر و منزلت بسبب اس نور کے دنیا و آخرت میں۔ لے اللہ صلوات و سلام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ نُورُهُ فِي عُرَّةِ آدَمَ الطَّاهِرَةِ وَأَقْنَا

نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کا نور آدم کی روشن پیشانی میں تھا اور ہماری قابل فخر ماں

حَوَاءَ الْفَاخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

حواء کی جبین میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ

لَمْ يَزَلْ فِي وَجْهِ آدَمَ سَاطِعًا وَفِي جَبِينِهَا لَمَعًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہمیشہ رہا ان کا نور، آدم علیہ السلام کے چہرہ میں روشن اور ان کی جبین سے جھلکنے والا۔ لے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَمَلَتْ بِهِ آدَمَ وَحَوَاءَ بَلُوغَ الْمَنَاءِ وَتَمَّ لَهُمَا بِهِ

محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت کامل ہوئی آدم و حواء کے لیے رسائی مطالب کی اور مکمل ہوئی ان دونوں کیلئے بسبب

الْقَبُولِ وَالْهِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی قبولیت اور شادی و محوشی۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل ہو سیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر کہ

الَّذِي افْتَخَرَ بِهِ آدَمُ لِحَوَاءَ لِيَخْرُوجَ مِنْ صُلْبِهِ وَتَوَسَّلَ بِهِ إِلَى رَبِّهِ

جن کے ساتھ فخر ظاہر کیا آدم نے حواء پر بسبب ظاہر ہونے آپ کے ان کی پشت سے اور توسل کیا انہوں نے ساتھ آپ کے بارگاہ خداوند تعالیٰ میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اشْتَقَّ آدَمُ لِرُؤْيَيْهِ

لے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر کہ مشتاق ہوئے آدم علیہ السلام آپ کے دیدار کے

وَتَمَّتْ آدَمُ وَحَوَاءُ مَشَاهِدَةً طَلَعَتْ زِيَا أَوْجُهَيْنِ اِقْدَسِ كَمْ مَشَاهِدَةٍ لَيْسَ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور دل و جان سے آرزو کی آدم و حواء نے آپ کی طلعت زیا اور جبین اقدس کے مشاہدہ کی لے اللہ صلوات و سلام نازل ہو ہمارے آقا

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا اشْتَقَّ آدَمُ إِلَى جَلَالَتِهِ جَعَلَ اللَّهُ نُورَهُ فِي

محمد اور آپ کی آل پر کہ جب مشتاق ہوئے آدم آپ کی شان جلالت کے تو نظر ہر کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا نور ان کی شہادت

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رُدَّ اِلَىٰ

درود اور سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر جو اس شان سے والدہ ماجدہ کے

اُمِّهِ وَقَدْ قَبِضَ عَلٰی ثَلَاثِ مَفَاتِيحَ مِنَ اللّٰوِلُوِّ الرَّطْبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

حوالے کئے گئے کہ اپنی مٹھی میں لیے ہوئے تھے لولوئے آبدار سے بنی ہوئی تین چابیاں۔ لے لے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَتَمَ رِضْوَانُ

وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کے دونوں کندھوں کے درمیان رضوان

بَيْنَ كِتْفَيْهِ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ وَالْحَفَةِ بِرِدَاةِ الْفِتْوَةِ وَالْمُرُوَّةِ اَللّٰهُمَّ

جنت نے خاتم نبوت کے ساتھ مہر گائی اور انہیں اوڑھائی فتوت اور موت کی چادر۔ لے لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَقَفَ

صلوٰۃ وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے

جِبْرَائِيْلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَضَمَّتْ اِلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

جبرئیل علیہ السلام ان کے سامنے اور انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ لے لے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اَعْلَنَ الرِّضْوَانَ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ

محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کو رضوان جنت نے علانیہ سلام پیش کیا

وَقَبَلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ

اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ لے لے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَادَرَ مِيكَائِيْلُ اِلَىٰ خِدْمَتِهِ وَتَشَرَّفَ اِسْرَافِيْلُ

آل پر کہ جلدی کی میکائیل علیہ السلام نے ان کی خدمت کے لیے اور مشرف ہوئے اسرافیل علیہ السلام

بِزِيَارَتِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان کی زیارت کے ساتھ۔ لے لے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي رُدَّ اِلَيْهِ وَقَدْ اَشْرَقَتْ الْاَرْضُ بِانْوَارِهِ وَتَزَيَّنَّ الْكُوْنُ

جن کو اپنی والدہ ماجدہ کی طرف اس شان سے لوٹا یا گیا کہ زمین روشن ہو چکی تھی ان کے انوار کیساتھ اور سارا جہان ان کے

أَهْلَهَا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اہل دنیا نے۔ لے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

الَّذِي كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الرِّبِّينِ وَشَرَّفَهُ وَفَضَّلَهُ عَلَى مَنْ سَلَفَ اللَّهُمَّ

جنہیں اللہ تمنا لے نے زیب و زینت کی خلعت پہنائی۔ اور تمام سابقین پر شرف و فضل عطا فرمایا۔ لے اللہ

صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَادَ إِلَى أُمِّهِ

درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر جو لوٹے اپنی والدہ ماجدہ کی طرف (ملائکہ کے طواف کرانے کے بعد)

وَالْأَنْوَارِ تَحْفَهُ وَالْمَلَائِكَةُ تَدْحِظُهُ وَتَرْفَعُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اس شان سے کہ انوار انہیں ہر طرف سے ڈھانپے ہوئے تھے اور ملائکہ ان پر نظریں جماتے ہوئے تھے اور انہیں دو لہانے ہوئے تھے۔ لے اللہ درود و سلام

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَادَ لِأُمِّهِ وَالْهَيْسُكَ يُعْبِقُ مِنْ

نازل فرما ہمارے آقا و مولیٰ محمد اور آپ کی آل پر جو کہ (سیر ملکوت کے بعد) اپنی والدہ کی طرف لوٹے اور پورے مشک ان کے کپڑوں سے

أَثْوَابِهِ وَالْكَرْمُ حَشُوا هَابِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بھوٹ رہی تھی۔ اور ان کے لباس بشری میں سرسکرم وجود ہی بھرا تھا۔ لے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رُدَّ إِلَى أُمِّهِ وَقَدْ تَعَطَّرَتْ أَرْضَانَهُ

اور آپ کی آل پر جو اپنی امی جان کی طرف اس شان سے لوٹائے گئے تھے کہ ان کی آستینیں معطر ہو چکیں تھیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي رُدَّ لِأُمِّهِ وَقَدْ شُدَّتْ أَرْكَانُهُ وَمِهْدًا مِهْدًا وَمَكَانَهُ اللَّهُمَّ

جو امی جان کی طرف اس حال میں لوٹائے گئے کہ ان کے اعضاء ریشمی کپڑے کیساتھ بندھے تھے اور ان کی خوب لگاؤ اور جگے استراحت تیار کی جائی

صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رُدَّ إِلَى

تھی۔ لے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر جو اپنی والدہ ماجدہ کی طرف لوٹائے گئے

أُمِّهِ وَقَدْ دَلَفَ فِي حَرِيرَةٍ خَضْرَاءَ يَنْبَعُ مِنْهَا الْمَاءُ الْعَذْبُ اللَّهُمَّ

اس شان سے کہ آپ کے گرد لپیٹا گیا تھا سبز ریشمی لباس کہ جس سے آب شیریں نیک رہا تھا۔ لے اللہ

مِنْهَا وَهِيَ مِنْهُ أَمِنَهُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہو گئیں اور وہ آپ کی بدولت امن والی ہو گئیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَ السُّعُدُ بِهِ لِأُمِّهِ مُدْهَشٌ بِأَبِيهِ وَجَلَّهَا الْعَزُوبُ بِشَهَابِهِ

کہ جن کی بدولت دور کردیا نیک بختی نے ان کی والدہ ماجدہ کے در سے ان کی دہشتوں کو اور ان کو عز و شرف نے جلابختی آپ کے نور شہابی

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَصْبَحَ

ساتھ۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی ولادت با سعادت کی

قَدْرُ أُمِّهِ بِوِلَادَتِهِ مُعْظَمًا وَدُرُّ الشَّرَفِ بِحَدِيثِهَا مُنْظَمًا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

وجہ سے ان کی والدہ ماجدہ کی قدر و منزلت عظیم ہو گئی۔ اور در شرف ان کے زیور میں پرویا گیا۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحْفَ الْفَخْرُ أُمَّهُ بِرِدَائِهِ

ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی امی جان کو فخر و ناز نے اپنی چادر پہنائی

وَتَوَجَّهَ الْعَزُوبُ بِهَاءِهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور عز و فخر نے اپنی بہار اور رونق کا تاج پہنایا۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي اكْتَمَلَ فِي وَجْهِهِ نُورُ النُّبُوَّةِ وَلَا حَ وَانْتَقَلَ إِلَى حُجْرَتِهَا

آل پر کہ کمال پذیر ہوا ان کی والدہ ماجدہ کے چہرہ میں نور نبوت اور چمکا اور منتقل ہوا ان کے حجرہ کی طرف

كُوكَبُ الْفَلَاحِ وَالتَّجَارِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کامیابی اور کامرانی کا ستارہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل ہو ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَدْخَلَهُ رِضْوَانٌ تَحْتَ جَنَاحِهِ وَالْهَمَّةُ بِأَمْرِ اللَّهِ إِلَى

پر کہ جس آقا کو رضوان جنت نے اپنے پروں کے نیچے داخل کیا اور اللہ کے امر سے آپ کو

رُشْدِهِ وَصَلَاحِهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

رشد اور بھلائی کا امام کیا۔ اے اللہ درود اور سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَبِضَ عَلَى مَفَاتِيحِ الدُّنْيَا كُلِّهَا وَأَذْعَنَ لَهُ بِالطَّاعَةِ جَمِيعٌ

جس (سید کائنات) نے قبضہ میں لے لیا ساری دنیا کے خزانوں کی چابیوں کو اور جن کی اطاعت کو تسلیم کیا تمام

يُنْسَاءُ أَشْرَافَ يُشْبِهْنَ نِسَاءَ بَنِي عَبْدِ مَنَاةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

ان شرافت مآب عزتوں کے ساتھ جو بنی عبد مناف کی عزتوں کے مشابہ تھیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْزَلِ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ تَبِيئَهَا

محمد اور آپ کی آل پر کہ جن پر نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ حکم آپ کی امت کو نصبر دار کرنے

لِأُمَّتِهِ وَتَعْلِيمًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا

اور انہیں تعلیم دینے کے لیے کہ اگر پہنچیں تیرے پاس (ماں باپ میں سے) بڑھاپے کو ایک یا دونوں تو نہ کہہ انہیں

أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اُف اور نہ جھڑک انہیں اور کہہ انہیں عزت و تحکیم والی بات۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَدَّ لِأُمِّهِ دِيْبَابَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَ

اور آپ کی آل پر کہ جن کی والدہ ماجدہ کے لیے ریشمی چادر آسمان و زمین کے درمیان پھیلائی گئی اور

أَنَارَتْ بِهِ الْأَفَاقَ فِي الطُّوْلِ وَالْعَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

روشن ہو گئے بسبب اس کے تمام آفاق طول و عرض میں۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحَاطَتْ أُمَّهُ أَجْنَحَةُ السَّعْدِ وَالْفَلَاحِ

محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی والدہ ماجدہ کا احاطہ کیا نیک بختی اور فلاح کے بازوؤں نے

وَخَفَضَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ الْجَنَاحَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور جھکا دئے ان کی تعظیم کے لیے، ملائکہ نے اپنے نورانی پر۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد پر

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ وَضْعِهِ وَقُوفًا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ

اور آپ کی آل پر کہ جن کی ولادت باسعادت کے وقت ملائکہ پرے جھائے کھڑے تھے اور ان کی والدہ ماجدہ کی طرف

أُمَّهُ صُفُوفًا صُفُوفًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

دیکھ رہے تھے صفیں بانڈھ کر۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي ظَهَرَ لِأُمِّهِ عِنْدَ وَضْعِهِ أَمُورًا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ كَأَنَّهُ قَتَرَتْ رِعْتًا

کہ جن کی ولادت باسعادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ پر وہ امور ظاہر ہوئے جو اس سے قبل ان پر نہ تھے تو وہ ان سے خوف زدہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَظَرْتُ لِأُمِّهِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ عِيُونَ

ہمارے سردار محمد اور آپ کی آل پر کہ متوجہ ہوئیں ان کی والدہ کی طرف سعادت مندی کی

السَّعَادَةِ وَقَلَّدْتُ بِهِ أَحْسَنَ قِلَادَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

نگاہیں آپ کی ولادت کے وقت اور ان کے گلے کا حسین نقلاہ اور ہارن گئیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَازَتْ أُمُّهُ بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَهَا وَضَعَتْ

آپ کی آل پر کہ جن کی والدہ ماجدہ کامیاب اور فائز ہوئیں دنیا و آخرت کے شرف و فضل کے ساتھ جب اُس نے

هَذِهِ السَّمَةَ الْمُبَارَكَةَ الظَّاهِرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اس مبارک اور پاکیزہ شخصیت کو جنم دیا۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَصْبَحَتْ أَعْصَانُ السَّعْدِ فِي حُجْرَةِ أُمِّهِ مَائِلَةً وَ

آل پر کہ رجن کی بدولت ہو گئیں سعادت مندی کی شاخیں جھکنے والیں ان کی والدہ کے حجرہ کی طرف اور

وَقَعَتْ فِي رِيَاضِ عِزِّهَا وَأَمْنِهَا قَابِلَةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہو گئیں ان کی عزت و امن کے باغات میں قبولیت پانے والیں۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَبَادَرَتْ لِأُمِّهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ الْبَشَائِرُ وَرَفَعَتْ

اور ان کی آل پر کہ آپ کی وجہ سے سبقت لے جانے لگیں آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف بشارتیں اور بلند کئے

عَنْ حُجْرَتِهَا أَعْلَامَ الْأَشَائِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

گئے ان کے حجرہ مبارک سے اشکات کے علم۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَتْ أُمُّهُ عِنْدَ وَضْعِهِ نِدَاءً مِّنَ الْأَرْضِ وَنِدَاءً

پر کہ جن کی والدہ ماجدہ نے ان کو جنم دیتے وقت زمین سے ندا سنی اور

مِّنَ السَّمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آسمان سے بھی۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي لَمْ تَجِدْ أُمَّهُ بِحَمْلِهِ حَمًا وَلَا وَحْمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

کہ جن کی والدہ ماجدہ نے نہ محسوس کیا آپ کے حمل کے دوران تپ اور نہ مشقت و شدت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ہمارے

مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اخْتَصَرْتَ الدُّنْيَا يَوْمَ وِلَادَتِهِ وَ

آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ سرسبز اور شاداب ہو گئی دنیا ان کی ولادت کے دن اور

اسْتَنَارَ بِهِ الْكُونُ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

منور و روشن ہو گیا جہاں تمام اطراف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَادَرَتْ أُمُّهُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ بِوَادِ السَّعَادَةِ

اور ان کی آل پر کہ جن کی بدولت سہولت سے گئی۔ ان کی والدہ سعادت اور نیک بختی کی وارثوں میں ان کے ولادت کے وقت

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قِيلَ

اے اللہ درود و سلام ہر ہمارے سردار محمد اور آپ کی آل پر جن کی امی جان کو

لِأُمَّهِ عِنْدَ وَضْعِهِ تِلْكَ مَوْلُودٌ أَيْسُودُ أَهْلَ السِّيَادَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

وضع کے وقت کہا گیا کہ وہ ایسے بچے کو جنم دیں گی کہ وہ اہل سیادت کے بھی سردار اور قائد ہوں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَفَّتْ أُمُّهُ عِنْدَ وَضْعِهِ زُفْرُ

فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی والدہ ماجدہ کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا آپ کی ولادت کے وقت

الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بزرگ ملائکہ کی جماعتوں نے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد کریم اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي تَوَاضَعَ لِمَوْلِدِهِ رُؤُوسُ الْمُقَرَّبِينَ الْعِظَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

جن کی ولادت با سعادت کے وقت جھک گئے (ادب و نیاز سے) مقربین عظام کے سر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا اشْتَدَّ بِأُمِّهِ عِنْدَ وَضْعِهِ

نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی والدہ طاہرہ کو آپ کی ولادت کے وقت سخت پیاس لگی

الظَّمَا سَقَاهَا اللَّهُ شَرِبَةً أَنْزَلَهَا مِنَ السَّمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شربت پلایا جسے آسمان سے نازل فرمایا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْسَ اللَّهُ أُمَّهُ عِنْدَ وَضْعِهِ

سیدنا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو اطمینان و سکون عطا کیا آپ کو جنم دیتے وقت

بَطَالِحِ أَقْبَارِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

رخِ زِيَاةً كَمَا مَهْتَابَ كِي طَلْعَتِ سَيِّدِنَا (منور) مزین ہو چکا تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي رُدَّ لِأُمِّهِ مَحْفُوفًا بِالْيَمِينِ وَالْإِقْبَالَ وَعَيْنُ الْعِنَايَةِ

پر جو اپنی والدہ ماجدہ کی طرف لوٹائے گئے اس شان سے کہ یمن و برکت اور نجات و اقبال سے ڈھکے ہوئے تھے اور عنایت

الرَّبَّائِيَّةِ تَحْرُسُهُ فِي الْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ربانیہ کی آنکھ آپ کی نگرانی کر رہی تھی صبح اور شام۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَرَجَتْ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ بِأَعْلَامِهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے علم اٹھائے ہوئے ملائکہ

مُبَشِّرَاتٍ لِأَهْلِ السَّبْعِ السَّمَوَاتِ بِأَقْدَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

بلندیوں کی طرف متوجہ ہوئے جبکہ وہ بشارت دے رہے تھے ساتوں آسمانوں کے مکینوں کو ان کی تشریف آوری کی۔ اے اللہ درود اور

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَصْلَحَ

سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی

اللَّهُ بِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

دُنْيَا اور دین کی۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سُبِّيَ عَامٌ وَوَلِدَتْهُ

محمد اور آل محمد پر کہ جس (آقا) کی ولادت باسعادت کے سال کو موسوم کیا گیا

عَامَ الْخَيْرِ وَالْبُرْكَهِ وَالزَّيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

خیر و برکت اور زیب و زینت کے سال کے ساتھ۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَزَحَّرَفَتْ الدُّنْيَا

محمد اور آپ کی آل پر کہ آراستہ ہو گئی ساری دُنْيَا

بِنُورِ ظُهُورِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان کے ظہور کے نور کے ساتھ۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر



اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَزَيَّدَتْ الدُّنْيَا بِسَاطِعِ نُورِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

کہ مزین اور آراستہ ہو گئی دنیا ان کے بلند مرتبت اور غالب نور کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ اور

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اَضَاءَتْ بِمَوْلِدِهِ

سلام بیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ روشن ہو گئے ان کی ولادت سے

بِقَاعِ تَهَامَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

تمام کے قطعات اور علاقے۔ اے اللہ درود و سلام بیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي نَشَرَا لَلّٰهُ عَلَيْهِ فَضْلُهُ الْعَظِيْمُ وَاَدَامَةَ

آل پر جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل عظیم کو پھیلا اور اسے برقرار رکھا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود و سلام بیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

الَّذِي تَجَلَّى بِحَلِيَّتِهِ الْمَنَاقِبَ الرَّفِيعَةَ وَالْمَكَارِمَ الْعَلِيَّةَ اَللّٰهُمَّ

کہ جن کی زینت اور زیور سے مناقب رفیعہ اور مکارم عالیہ نے جلا پائی۔ اے اللہ درود

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَمَلَّ

و سلام بیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت کامل فرمایا

اَللّٰهُ بِهِ الشَّرْفَ الدَّائِمَ لِعَبْدِ اللّٰهِ وَعَبْدِ الْمَطْلُوبِ وَهَاشِمِ

اللہ تعالیٰ نے دائمی شرف حضرت عبد اللہ، عبد المطلب اور ہاشم کے لیے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

الَّذِي لَمْ يَزَلْ يَنْتَقِلُ نُورُهُ مِنَ الْاَمْرُحَامِ الرَّكِيَّةِ

کہ جن کا نور ہمیشہ منتقل ہوتا رہا پاکیزہ اور قابل فخر

الْفَاخِرَةِ وَالْاَمْرُومَاتِ الشَّرِيْفَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْعَنَاصِرِ

ارحام میں اور شرافت پناہ اصول و آباء میں اور ایسے عناصر میں



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَضَعَ اللّٰهُ فِي ظُهْرِ اٰدَمَ

وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر کہ اللہ تعالیٰ نے رکھے آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں

اَنْوَارُهُ الْمُبَارَكَةُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کے انوار مبارک۔ اے اللہ درود و سلام بھیج سیدنا محمد اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي بِسَبَبِ نُورِهِ سَجَدَتْ لِاٰدَمَ الْمَلٰٓئِكَةُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بطفیل آپ کے نور کے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو محمد کریم

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ظَهَرَتْ بِهٖ شَرَفُ اٰدَمَ فِي السَّمٰوٰتِ وَبِبَرَكَتِهٖ عَلِمَهُ

اور آپ کی آل پر کہ بطفیل آپ کے ظاہر ہوا آدم علیہ السلام کا شرف و فضل آسمان میں اور آپ کی برکت سے ہی

اللّٰهُ الْاَسْمَاءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ تعالیٰ نے انھیں اسماء کی تعلیم دی۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر

الَّذِي اَقْبَلَ عَلَيْهِ اٰدَمَ وَضَمَّهُ اِلَيْهِ وَقَبَلَهُ ثَلَاثًا يِّنْ عَيْنَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ پوری طرح متوجہ ہوئے آدم آپ پر اور آپ کو سینہ سے لگایا اور تین مرتبہ آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اے اللہ درود و سلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ظَهَرَتْ بِمَوْلِدِهِ الْعَجَابُ

نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر کہ آپ کی ولادت کی وجہ سے عجائبات ظاہر ہوئے

وَبَدَتْ بِظُهُورِهِ الْغَرَائِبُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

اور آپ کے ظہور کی وجہ سے انوکھے امور دیکھنے میں آئے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَفَاخَرَتِ الْاَرْضُ بِمَوْلِدِهِ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَتَبَا شَرَتْ بِهٖ

کہ فخر کا اظہار کیا زمین نے آسمان پر آپ کی ولادت کی وجہ سے اور باہم ٹھوٹھیں دیاں

الْمَلٰٓئِكَةُ الْعَظِيْمٰتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عظیم ملائکہ نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر

الَّذِي تَبَا شَرَتْ الْاَكْوَانُ يَوْمَ وِلَادَتِهٖ بِطَلْعَةِ السُّعْدِ فِي عِبَادَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ کائنات کو مسرتی حاصل ہوئی آپ کی ولادت کے دن بسبب طلوع فرمانے نجم سعادت کے بندگان خداوند تعالیٰ میں اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَدَأَ بِدُرِّ نُبُوَّتِهِ شُرْقًا وَحَسَنًا

نازل فرمایا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی نبوت کا ماہ تمام چمک دوسکے ساتھ نمودار ہوا اور ان کا سر و تازہ حسین

نَبَاتِهِ مَوْقًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

برگ و بار لایا۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر جن کے

غَيْبِ اللَّهِ نُورُهُ فِي عِلْمِهِ حَتَّى أَظْهَرَ فِي وَجْهِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

لورحیقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے پردہ میں غائب کیے دکھائی کہ اسے ظاہر فرمایا آپ کے والدین کے چہروں سے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا انْقَضَى الشَّهْرُ التَّاسِعُ مِنْ حَمَلِهِ

ہمارے آقا محمد پر اور ان کی آل پر کہ جن کے شکم مادر میں آنے کے بعد جب گزرانا نواں مہینہ

ظَهَرَ لِأَبِيهِ كَمَا لُفِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو آپ کی والدہ ماجدہ پر آپ کا کمال فضل ظاہر ہوا۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

الَّذِي اشْرَقَتْ الدُّنْيَا بِبَهْجَتِهِ وَأَضَاءَتْ الْأَرْضُ بِأَنْوَارِ طَلْعَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ روشن ہو گئی ساری دنیا آپ کے (نور) اور بہار ولادت سے۔ اور جگمگ ہوئی تمام زمین آپ کے (رخ زیبائے) انوار طلعت سے

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ لَهُ كُلَّ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ تھا ان کے لیے ہر روز

يَوْمٍ مُعْجَزَةٌ خَارِقَةٌ وَأَيَّةٌ ظَاهِرَةٌ صَادِقَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

معجزہ اور کمال امتیازی۔ اور علامت صدق اور حقانیت ظاہر و باہر۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَظَاهَرَتْ الْآيَاتُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَ

محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی ولادت باسعادت کے وقت آیات قدرت کیے بعد دیگرے نمودار ہوئیں اور

تَبَيَّنَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

نمایاں ہوئیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ زمین نے

أَخَذَتْ الْأَرْضُ زُحْرَ فَهَاجَتْ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَتَزَيَّنَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اُہراشش و زرباشش حاصل کی آپ کی ولادت کے وقت اور مزین اور آراستہ ہو گئی۔ اے اللہ درود و سلام بھیج

الطَّيِّبَةِ الظَّاهِرَةِ اسْتُخْرِجَهُ اللهُ رَحْمَةً لِأَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

جو طیب و طاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر فرمایا۔ دُنیا و آخرت والوں پر رحمت فرمانے کے لیے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر (جو آقا)

بِالْمَعْنَى بِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ إِظْهَارًا لِقُدْرَةِ نَبِيِّهِ بَيْنَ

کہ مقصود و مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے جو کہ (نازل کیا گیا) نبی اللہ علیہ السلام کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے

أُمَّتِهِ وَبَيْنَ مَجْدِهِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ

اور ان کی بزرگی کو امت میں ظاہر کرنے کے لیے یعنی نہیں زبیرا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ انہیں عذاب دے در آغا لیکہ تم

فِيهِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ان میں موجود ہو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ تَرَأْمَهُ فِي حَالٍ وَضِعَهُ مَا سَرَّ أَنْتَ التُّفْسَاءُ

جو (ظہور فرما ہوئے اس شان سے) کہ نہ دیکھی آپ کی والدہ طاہرہ نے وہ آلائش جو دیکھتی ہیں نفاس والی عورتیں

وَلَمْ تَجِدْ مِنْ ثِقَلِ الْحَمْلِ مَا وَجَدَتْهُ النِّسَاءُ اللَّهُمَّ

اور نہ محسوس کیا انہوں نے حمل کی گرانی کو جس طرح کہ محسوس کرتی ہیں حاملہ عورتیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل امجاد پر کہ

لَمَّا وَكَلَتْهُ أُمُّهُ وَضَعَتْهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْضَ عَلَى ثَلَاثِ مَفَاتِيحٍ

جب جنم دیا انہیں والدہ ماجدہ نے تو رکھا انہیں زمین پر اس شان سے کہ قبضہ کر رکھا تھا آپ نے سفید موتی

مِنَ اللَّوْلُوِّ الْأَبْيَضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سے نبی تین چابیوں پر۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا اور مولیٰ محمد اور آپ

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْلَمَهُ اللهُ بِعُلُوِّ دَرَجَاتِهِ

کی آل اطہار پر جس ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے علم بخشا ہے اپنے درجات کی بلندی و رفعت کا۔



وَرَغِبْتَ الْمَلَائِكَةَ فِي تَرْبِيَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

اور ملائکہ نے ان کی تربیت اور پرورش میں دلی رغبت ظاہر کی۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَمِدَتْ نِيرَانُ فَارِسَ

محمد اور آپ کی آل پر کہ آتشکدہ ہائے فارس بجھ گئے۔

عِنْدَ وِلَادَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان کی ولادت کے وقت۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي غَاصَ مَاءُ سَاوَةِ عِنْدَ ظُهُورِهِ

کی آل پر کہ زمین کی گہرائی میں چلا گیا پانی ساوہ ان کے علامات ظاہر

عَلَامَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ہونے پر۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَطَلَتْ الْكُهَانَةُ لِمَوْلِدِهِ وَغَاصَ

کہ باطل ہو گئی کہانت کابھوں کی ان کی ولادت پر اور خشک ہوا

نَهْرُ الْأُرْدُنِّ لِمَوْلِدِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

دریائے اردن ان کے چشمہ فیض سے۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَضَاءَتْ لِمَوْلِدِهِ

محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی ولادت کے وقت روشن ہو گئے

الْأَفَاقُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سب آفاق اور اطراف جہاں۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انصَلَّتْ بِهِ بَشَرِي الْهُوَائِفِ فِي الْعِشِيِّ

کہ لے ان کے متعلق سروسش غیب کے بشارات شام

وَالْإِشْرَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور صبح۔ اے اللہ درود اور سلام بھیج ہمارے آقا اور مولیٰ محمد اور



اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَغِبَ الطَّيْرُ وَالسَّحَابُ وَالرِّيْحُ

آپ کی آل پر کہ رحمت کی طيور اور بادلوں اور ہواؤں نے

فِي اِرْضَاءٍ ۚ وَ اَنْ يَكُوْنُوْا مِنْ اَشْيَاعِهِ وَ اَتْبَاعِهِ

ان کے راضی کرنے میں اور ان کی جماعت اور متبعین میں سے ہونے کی۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر۔

اَلَّذِي لَمَّا اَرْضَعْتُهُ حَلِيْمَةً دَرَسَ لَبْنَهَا وَ اَنْهَرَ فَكَانَتْ تُرْضِعُهُ

کہ جب اخیلیں حلیمہ سعیدیہ نے دودھ پلایا تو خشک ہو چکنے کے باوجود ان کا دودھ اتر آیا اور بہت زیادہ ہو گیا تو وہ پلاتی تھی

مَعَهُ عَشْرَةٌ اَوْ اَكْثَرَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

آپ کے ساتھ دس بچوں کو بلکہ ان سے بھی زیادہ کو۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلِمَ اَنْ لَهُ شَرِيْكَا فِي الرِّضَاعِ فَتَرَكَ

آپ کی آل پر جس آقائے کریم نے جان لیا کہ ان کے ساتھ دوسرا بچہ بھی دودھ میں حصہ دار ہے تو آپ نے اس کیلئے چھوڑ دیا

لَهُ التَّدْيِ الْاٰخِرَ وَ لَمْ يَرْضَعُهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دوسرے پستان کو اور اس سے بالکل دودھ نہ پیا۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد

وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قِيْلَ فِيْهِ لِحَلِيْمَةٍ فِي التَّوْمِ الْهَاجِعِ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے متعلق کہا گیا حلیمہ سعیدیہ کو گہری نیند میں

اَبْتَشِرِيْ بِاِرْضَاعِكَ لِلضِّيَاءِ اللّٰمِعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

بشارت قبول کر اپنے دودھ پلانے کی اس مولود مسعود کو جو ہم ضیاء اور روشنی ہے۔ اے اللہ درود اور سلام بھیج ہمارے

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ حِيْنَ تُرْضَعُهُ حَلِيْمَةً

سردار محمد اور آپ کی آل پر کہ اس حبیب کو حلیمہ شفقہ دودھ پلاتی تھی

السَّفِيْقَةَ لَمْ يَزِدْ عَلٰى الْقُوْتِ دَقِيْقَةً اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

تو وہ مقدار کفایت سے ایک ذرہ بھی زائد نہیں پیتے تھے۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ ثَدْيِي حَلِيمَةً لَهُ

کی آل پر کہ ان کے لیے حلیمہ سعدیہ کے پستان دودھ کے ساتھ اُبلتے تھے

يَقْوَمُ وَبَطُونُ النِّسَاءِ سِوَاهَا لِاصْفَةِ بِالظُّهُورِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

جبکہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں کے شکم بھی (بھوک کی وجہ سے) پشتوں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعْتَهُ

وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جس حلیمہ کو حلیمہ نے اٹھایا تو

حَلِيمَةً دَهْمِي فِي اَضْيَاقِ وَفْتٍ وَحَالٍ فَتَرَىٰ لَهَا الْمَتَاعَ وَالْمَالَ

وہ انتہائی تنگدستی کی حالت میں تھی پس بڑھ گیا آپ کی برکت سے اس کا ساز و سامان اور مال و منال۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جس

الَّذِي تَرَكْتَهُ اُمَّهُ وَهُوَ ابْنٌ اَرْبَعَةَ اَعْوَامٍ اَوْ سِتَّةَ اَعْوَامٍ اَللّٰهُمَّ

کو داغ جہاں دیا ان کی مادر شفقت نے جبکہ چار سال یا چھ سال کے تھے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَرَجَ

درود اور سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر جو کہ نکلے طرف

اِلَى الشَّامِ وَهُوَ ابْنٌ اِثْنَيْ عَشَرَ عَامًا وَشَهْرَيْنِ وَعَشْرَةَ اَيَّامٍ اَللّٰهُمَّ

شام کے جبکہ وہ بارہ سال۔ دو ماہ اور دس دن کے تھے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جنہیں

تَرَكْتَهُ جَدًّا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ ابْنٌ ثَمَانِيَةَ اَعْوَامٍ وَشَهْرَيْنِ وَ

داغ مفارقت دیا ان کے جد امجد جناب عبدالمطلب نے جبکہ وہ آٹھ سال۔ دو ماہ اور

عَشْرَةَ اَيَّامٍ بَلَا كَذِبٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دس دن کے تھے جس میں ذرہ بھر خلاف حقیقت واقع نہیں ہے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ نُورًا يَظْهَرُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِيهِ

پر اور آپ کی آل پر کہ جس حبیب کا نور نمایاں ہوتا تھا اپنے والد اور دادا

وَجَدِّهِ قَبْلَ حَمْلِ أُمِّهِ بِهِ وَمَوْلِدِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

کے چہرے سے ان کی والدہ ماجدہ کے ان کے ساتھ حاملہ ہونے اور انہیں جنم دینے سے پہلے اے اللہ درود و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَشْرَفَ بِهِ شَهْرُ

ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ مشرف ہوا ساتھ اس (محبوب کی ولادت) کے

رَبِّيعِ الْأَوَّلِ وَبِسِرِّ الْمَصُونِ الْأَكْمَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ماہ ربیع الاول اور ساتھ اس ستر و حرمت کے جو محفوظ بھی تھا اور کامل ترین بھی۔ اے اللہ درود و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَشَأَفِي الْحُرَّاتِ

ہمارے سردار محمد اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے نشوونما پائی عظیم عزتوں میں

الْعِظَامِ بَيْنَ زُمُرٍ وَالْمَقَامِ وَعَرَفَتْ الْمَلَائِكَةُ فَضْلَهُ الْعَالَمِ

زمرم اور مقام ابراہیم کے درمیان اور پہچان کرادی ملائکہ نے ان کے فضل و کمال کی تمام جہان کو

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ أَدَمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قبل اس کے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَضَّ عَلَىٰ النِّكَاحِ وَلَمْ يَكُنْ فِي

اور آپ کی آل پر کہ انہوں نے نکاح کی (امت کو) ترغیب دی۔ اور نہیں تھا

أَبَائِهِ مِنْ لَدُنْ أَدَمَ سَفَاحَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

آپ کے آباء و اجداد میں آدم علیہ السلام کے دور سے زنا اور بدکاری۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَيَّبَ اللَّهُ مَعَادِنَهُ

محمد اور آپ کی آل پر کہ پاک اور منزه فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاون اور

الشَّرِيفَةَ وَعَنَّاصِرَهُ الْكَرِيمَةَ وَانْتَقَلَ مِنَ الْأَصْلَابِ الْكَرِيمَةِ

اصول شریفہ کو اور آپ کے عناصر کریمہ کو اور آپ منتقل ہوئے پاکیزہ پشتوں سے





إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

طاہر ارحام کی طرف ۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر کہ

طَافَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى الْخَلَائِقِ بِطِينَتِهِ لِيَهْتَدُوا وَإِلَى مَعْرِفَتِهِ وَ

طواف کرایا ملائکہ نے تمام مخلوق پر ان کی طینت طیبہ کو تاکہ انھیں آپ کا عرفان اور آپ کی شریعت کی طرف

شَرِيعَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشَّجَرَةِ الطَّيِّبَةِ

رہنمائی حاصل ہو جائے۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو کہ پاکیزہ اور مبارک

الْمُبَارَكَةِ وَعَرِضَ عَلَى كُلِّ رُوحَانِيٍّ مِّنَ الْإِنْسِ وَالْمَلَائِكَةِ

درخت ہیں اور آپ کو پیش کیا گیا تمام روحانی مخلوق پر یعنی انسانوں ، ملائکہ

وَالْجِنِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحْيَاهُ اللَّهُ لَهُ

اور جنوں پر ۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے مخدوم محمد پر کہ جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین

أَبُوَيْهِ فَأَمَّنَابَهُ وَسَلَّمَا عَلَيْهِ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

کو زندہ فرمایا پس وہ دونوں آپ کے ساتھ ایمان لائے اور آپ پر سلام بھیجا۔ اے اللہ میں بار بار تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تیرا کوئی

لَبَّيْكَ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ

شریک نہیں ہے میں بار بار حاضر خدمت ہوں وہی اللہ واحد احد بیکتا اور بے نیاز ہے جس نے نہ بیوی

صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

اختیار کی اور نہ کوئی لڑکا۔ کہہ دیجئے وہ اللہ بیکتا ہے

اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنما اور نہ

يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

وہ جنما گیا اور نہ تھا اس کے لیے

كُفُوًا أَحَدٌ

کوئی مثیل



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَهَبِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اے اللہ تعالیٰ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول کے تصدق میں۔

وَبِرَهْبِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِمَرْبِ بِسْمِ اللّٰهِ

اور بطفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خوف و جلال کے۔ اور بسم اللہ الرحمن

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ

الرحیم کے مقام ربط و تعلق کے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو سب جہازوں کا پالنے والا ہے۔ دنیا میں مومن و کافر پر فضل و احسان

الرَّحِیْمِ ۝ مَا لِكَ یَوْمَ الدِّیْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

کرنے والا ہے۔ (آخرت میں صرف مومنین پر فضل و احسان فرمانے والا ہے۔ روز قیامت کا مالک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی

نَسْتَعِیْنُ ۝ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ

تو فریق اور قدرت طلب کرتے۔ ہمیں چلا سیدھی راہ پر۔ راہ ان

الَّذِیْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا

لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ

الضَّالِّیْنَ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ حَمْدٌ أَيْفُوقُ

راہ راست سے بھٹنے والوں کی۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے ایسی تعریف جو فوقیت پانے والی ہو

حَمْدُ الْحَامِدِیْنَ رَبِّ الْأَوَّلِیْنَ وَالْآخِرِیْنَ حَمْدٌ أَيْ كَوْنُ

سب حمد کرنے والوں کی حمد پر حمد اس ذات کی جو اولین و آخرین کا رب ہے۔ ایسی حمد کہ جو ہو

لِی رِضًا وَحِفْظًا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

میرے لیے سراسر رضاء و خلاقندی اور سراسر حفظ و امان نزدیک رب کائنات کے جو رحمن رحیم

مَا لِكَ یَوْمَ الدِّیْنِ ۝ الَّذِیْ لَیْسَ لَكَ فِی الْمَلِكِ مُنَازِعٌ

مالک یوم الدین ہے۔ جس کے لیے ملک (کونین) میں کوئی بھی نزاع و اختلاف کرنے والا نہیں ہے



وَلَا قَرِينَ وَلَا وَزِيرٌ وَلَا مُشِيرٌ طَبْلٌ كَانَ قَبْلَ وُجُودِ الْعَالَمِ

اور نہ ساتھی اور نہ ہی وزیر اور مشیر بلکہ وہ پہلے موجود تھا جہاں کے وجود سے

وَالْعَوَالِمِ أَجْمَعِينَ أَنْتَ أَحَاطَتِي وَعُدَّتِي مِنْ جَمِيعِ

اور تمام اہل جہاں کے وجود سے۔ (اے اللہ) تو ہی (ہر طرف سے میری حفاظت کے لیے) مجھے احاطے کئے ہوئے ہے اور میرا سر و سامان (دفاع) ہے

الشَّيَاطِينِ وَعَوْنِي عَلَى الْآبَعْدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَوَجْهَتِي

تمام شیاطین سے اور میرا معاون ہے بعید تر اور قریب تر لوگوں پر۔ اور میرا مرکز توجہ ہے

عَلَى الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفِينَ إِيَّاكَ تَعْبُدُ يَا أَقْرَارِ نَخَجَلُ

مختلف اجناس و اقسام کے لوگوں پر۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں جبکہ زبانی اقرار کرنے والے بھی ہیں شرمندہ ہوتے ہیں

مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا وَتَتُوبُ إِلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ

اپنے گناہوں اور خطاؤں سے اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں گناہوں سے۔

وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نَدَّ لَهُ

اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو کہ یکتا ہے اس کا شریک نہیں ہے اور نہ کوئی تڑ مقابل

وَلَا شَبِيهَ لَهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَنَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَ

اور نہ اس کے مشابہ کوئی ہے۔ جلالت اور عزت و اکرام کا مالک ہے۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سرور اور

رَبِّنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاكَ

ہمارے نبی محمد اس کے عبد خاص اور رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور تجھی سے

نَسْتَعِينُ عَلَى كُلِّ حَاجَةٍ وَأَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

توفیق اور قدرت طلب کرتے ہیں ہر حاجت اور ہر معاملہ میں خواہ امور دنیا سے ہو یا امور آخرت سے

يَا هَادِيَ الْمَضِلِّينَ هِدَايَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطِ

اے گمراہوں کو ہدایت بخشنے والے۔ ہمیں چلا راہ راست پر جو راستہ ہے

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكَافِرِينَ

ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے نہ کہ جن پر غضب کیا گیا ہے یعنی کفار



وَالْمُنَافِقِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَلَا الضَّالِّينَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَا

منافقین اور فاسق لوگوں کا۔ اور راہ راست سے بھٹک جانے والوں کا۔ اے اللہ! ہمارے پروردگار بنا

تَجْعَلْنَا مِنَ الْمَغْضُوبِينَ وَالْمَقْهُورِينَ وَلَا الضَّالِّينَ ط

ہمیں ان لوگوں سے جن پر (تیرا) غضب اور قہر ہے اور نہ گمراہوں میں سے

أَمِينَ ط أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ

آمین۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان رجیم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام ملائکہ

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

درود بھیجتے ہیں نبی مکرم پر۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر صلوات و سلام بھیجو

تَسْلِيمًا ط اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا الذُّنُوبَ الذُّنُوبَ الْكُبْرَاءِ وَالصَّغَائِرِ

جیسے کہ حق ہے سلام بھیجنے کا۔ اے اللہ بخش دے ہمارے لیے تمام گناہ کبائر و صغائر

بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ الرَّاهِرِ وَالْأَوْلِيَاءِ الْبَاهِرِ الصَّلَاةِ وَ

بطفیل عزت و کرامت انبیاء کرام کے نورانی آقا اور اولیاء عظام کے نورانی سردار کے۔ درود اور

السَّلَامِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ

سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے رسول۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے

اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ط الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

اللہ تعالیٰ کے نبی۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے حبیب۔ صلوات و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا خَلِيلَ اللَّهِ ط الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اللَّهِ

آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے خلیل۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے انتخاب

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ ط الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

صلوات و سلام ہو آپ پر اے اللہ کی ساری مخلوق سے افضل و برتر۔ صلوات و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ ط الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ أُمَّةٍ

آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے نائب (مطلق) صلوات و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے



الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَاتِحَ اللَّهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا مُطَيَّبَ

صلوة و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے مخلوق اول اور نبی اول صلوة و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے پاک

اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طَيِّبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

کئے ہوئے۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے ہاں پاکیزہ۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے

طَاهِرَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُطَهِّرَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک اور منزه۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی طہارت بیان کرنے والے صلوة و سلام ہو آپ پر

يَا مُبَيِّنَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُطِيعَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

اے اللہ تعالیٰ کی ذات معظمہ کو بیان کرنے والے صلوة و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار۔ صلوة و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَامِدَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَ

آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی دلیل و برهان۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے حمد کرنے والے۔ صلوة و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا كَلِيمَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ الصَّلَاةُ

سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہونے والے۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے امین اور محرم اسرار صلوة

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَيَانَ رَسُولِ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ

و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے رسول اور سراپا بیال صلوة و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے نور

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَوَادَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

صلوة و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے منور و عطاء۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے

شَكُورَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُنِيرَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

اللہ تعالیٰ کے بہت ہی شکر گزار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے رہنما ہونے اور روشن چراغ۔ صلوة و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا قَرِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا يَتِيمَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَ

آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے (چنے ہوئے) گمراہ کیلئے۔ صلوة و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَشِيرَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَذِيرَ اللَّهِ

سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں دینے والے۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والے



الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر لے عبد اللہ کے نحت جگر صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر لے

رَحِيمَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَلِيمَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے مظهرِ رحمت۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر لے اللہ تعالیٰ کے مظهرِ حلم۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر

يَا مَنِيْبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَزِيْزَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

لے اللہ تعالیٰ کی طرف (دل و جان سے) رجوع کرنے والے۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر۔ لے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزیز و مکرّم۔ صلوٰۃ و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا فَصِيْحَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَ

آپ پر لے اللہ تعالیٰ سے صاف گوئی کے مالک۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر لے اللہ تعالیٰ کی رحمت مجسم۔ صلوٰۃ و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا كَرِيْمَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُكْرَمَ اللَّهِ الصَّلَاةُ

سلام ہو آپ پر لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت و کرامت کے مالک۔ صلوٰۃ و سلام ہو۔ آپ پر لے اللہ تعالیٰ کے ہاں کرامت و عزت والے۔ صلوٰۃ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غَنِيَّ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَدِيْقَ اللَّهِ

و سلام ہو آپ پر لے اللہ تعالیٰ کی صفت غنا کے مظهر۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر لے اللہ تعالیٰ کے مخلص دوست

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُتَّصِدِقَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سراسر حق و صدق کے ترجمان۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر لے

كَرَامَةَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَعُوْفَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

اللہ تعالیٰ کی عزت و کرامت کے مظهر۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر لے اللہ تعالیٰ کے مظهرِ رافت۔ صلوٰۃ و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَرِيْبِيَّ اللَّهِ الصَّلَاةُ

آپ پر لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفیعِ خلاق۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قریش میں ظاہر کئے جانے والے۔ صلوٰۃ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَكِّيَّ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَدَنِيَّ اللَّهِ

و سلام ہو آپ پر لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ میں بھیجے ہوئے۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر لے اللہ تعالیٰ کے مدینہ منورہ میں بھیجے ہوئے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اخْتَارَهُ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر لے وہ ذات والا جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر



يَا مَنْ عَظَمَهُ اللهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَضْرَتَ اللهِ الصَّلَاةُ وَ

لے وہ ذات کرم جن کی اللہ تعالیٰ نے عظمت بیان فرمائی۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے وہ ذات کرم کی بارگاہ بارگاہ خدا تعالیٰ ہے۔ صلوات و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَامِرَ كَعْبَةَ اللهِ

سلام ہو آپ پر لے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے کعبۃ اللہ کو آباد کرنے والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ

صلوات و سلام ہو آپ پر لے اللہ تعالیٰ کے نور۔ صلوات و سلام نازل ہو آپ پر لے محمد

رَسُولُ اللهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ التَّاجِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

رسول اللہ۔ صلوات و سلام نازل ہو آپ پر لے تاجدارِ خلائق۔ صلوات و سلام نازل ہو

عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْمِعْرَاجِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَاكِبَ الْبُرَاقِ

آپ پر لے معراج والے۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے براق کے سوار

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُخْتَرِقَ السَّبْعِ الطَّبَاقِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

صلوات و سلام ہو آپ پر لے ساتوں آسمانوں کو عبور کرنے والے۔ صلوات اور سلام ہو آپ پر

يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْمِحْرَابِ

لے حوض کوثر اور نہر کوثر کے مالک۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے محراب اور منبر

وَالْمِنْبَرِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ التَّعْمَةِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

کے مالک۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے ہر نعمت کے مالک۔ صلوات و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا دَافِعَ التَّكَاثُرِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّ وَ

آپ پر لے بلائیوں کے دور کرنے والے۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے (روح) نبوت و رسالت کے

الرِّسَالَةِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْقُرْآنِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

نقشِ آخرین صلوات و سلام ہو آپ پر لے صاحبِ قرآن۔ صلوات و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا فَصِيحَ اللِّسَانِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْمَكِّيِّ الصَّلَاةُ

آپ پر لے فصیح اللسان (صاف گو) صلوات و سلام ہو آپ پر لے مکی نبی۔ صلوات



وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْمَدَنِيِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْعَرَبِيِّ

و سلام ہو آپ پر لے مدنی نبی صلاۃ و سلام ہو آپ پر لے عربی نبی

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْحَرَمِيِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ

صلواتہ و سلام ہو آپ پر لے نبی حرم صلاۃ و سلام ہو آپ پر لے حجازی

الْحِجَازِيِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْأَبْطَحِيِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

نبی - صلاۃ و سلام ہو آپ پر لے ابطی نبی - صلاۃ و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ التَّهَامِيِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْهَاشِمِيِّ الصَّلَاةُ

آپ پر لے نبی تہامی - صلاۃ و سلام ہو آپ پر لے ہاشمی نبی - صلاۃ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْقُرَشِيِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الزُّرَيْكِيِّ

و سلام ہو آپ پر لے قریشی نبی - صلاۃ و سلام ہو آپ پر لے پاکیزہ نبی

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْأُمِّيِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

صلواتہ و سلام ہو آپ پر لے امی نبی - صلاۃ و سلام ہو آپ پر لے

صَاحِبَ الشَّفَاعَةِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُدَنِيِّينَ

شفاعت کے مالک (بازن اللہ) - صلاۃ و سلام ہو آپ پر لے گنہگاروں کو شفاعت سے نوازنے والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

صلواتہ و سلام ہو آپ پر لے سب رسولوں کے سردار - صلاۃ و سلام ہو آپ پر

يَا سَيِّدَ النَّبِيِّينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّلَاةُ وَ

لے سب انبیاء کے سردار - صلاۃ اور سلام ہو آپ پر لے سب مومنین کے سردار - صلاۃ و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَّقِينَ

سلام ہو آپ پر لے سب اہل اسلام کے آقا - صلاۃ و سلام ہو آپ پر لے سب متقیوں کے آقا -

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الصَّادِقِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

صلواتہ و سلام ہو آپ پر لے راست گو لوگوں کے سردار اور پیشوا صلاۃ و سلام ہو آپ پر لے





سَيِّدَ الْمُصَدِّقِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الصَّابِرِينَ الصَّلَاةُ وَ

تصدیق کرنے والوں کے مقتدا صلوات و سلام ہو آپ پر اے صبر کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الشَّاهِدِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمَشْهُودِينَ

سلام ہو آپ پر اے (حق کی گواہی دینے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے (حق گوئی کی شہادت دینے والوں کے سردار

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُفْلِحِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

صلوات و سلام ہو آپ پر اے فلاح پانے والوں کے سردار صلوات و سلام ہو آپ پر اے زاہدوں

الزَّاهِدِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ التَّائِبِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

کے آقا۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے توبہ کرنے والوں کے پیشوا۔ صلوات و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْخَائِفِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُحِبِّينَ

آپ پر اے خوف خدا رکھنے والوں کے آقا۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے (اللہ سے) محبت رکھنے والوں کے سردار

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُحِبُّوبِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

صلوات و سلام ہو آپ پر اے (اللہ کے) محبوبین کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر

يَا سَيِّدَ الْقَائِمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الرَّاعِينَ الصَّلَاةُ وَ

اے نمازیں اقام کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے رکوع کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ السَّاجِدِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

سلام ہو آپ پر اے ساجدین کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے (قرآن کی) قراءت کرنے

الْقَارِعِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُصَلِّينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

والوں کے سردار۔ صلوات اور سلام ہو آپ پر اے نمازیوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الشَّاكِرِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْقَاعِدِينَ

آپ پر اے شکر گزاروں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے (مغود اور تشہد) والوں کے سردار

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَمْرِهِدِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

صلوات و سلام ہو آپ پر اے سراپا زہد حضرت کے آقا۔ صلوات و سلام ہو آپ پر

يَا سَيِّدَ الْقَانِعِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْحَافِظِينَ الصَّلَاةُ

لے قناعت کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے (قرآن مجید کے احفاظ کے سردار۔ صلوات

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْحَامِدِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

و سلام ہو آپ پر لے حمد کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے حمد کئے جانے والے

الْمَحْمُودِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُوَحِّدِينَ الصَّلَاةُ وَ

لوگوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے والوں کے سردار۔ صلوات و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُبَارِكِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

سلام ہو آپ پر لے بابرکت لوگوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے سب محافظوں

الْقَاطِرِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ النَّاصِرِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے مددگار ان خلق کے سردار۔ صلوات و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمَنْصُورِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الظَّاهِرِينَ

آپ پر لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت پانے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے غلبہ پانے والوں کے سردار

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْوَارِثِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

صلوات و سلام ہو آپ پر لے وراثت پانے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے

سَيِّدَ الرَّاشِدِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْتَدِينَ الصَّلَاةُ وَ

راست رو لوگوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے راہ راست دکھانے والوں کے سردار۔ صلوات و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الرَّاجِحِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُشْفِقِينَ


سلام ہو آپ پر لے (اللہ کی طرف) راغب لوگوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے مشفقین خلائق کے سردار

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الظَّافِرِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

صلوات و سلام ہو آپ پر لے ارباب ظفر کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے

سَيِّدَ الْمُظْفَرِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الرَّاحِمِينَ الصَّلَاةُ

فتح و ظفر دے ہوئے لوگوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے رحم کرنے والوں کے سردار۔ صلوات



وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمَرْحُومِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

و سلام ہو آپ پر اے رحمت دئے ہوؤں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے مغفرت دئے

الْمَغْفُورِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ التَّوَّابِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

ہوؤں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمَسَاكِينِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُوَافِقِينَ

آپ پر اے مساکین کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے موافقت کرنے والوں کے سردار

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْفَاعِزِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

صلوات و سلام ہو آپ پر اے کامیاب لوگوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے

يَا سَيِّدَ النَّاجِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُنَاجِحِينَ الصَّلَاةُ

نجات پانے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے (اللہ سے) سرگوشی کرنے والوں کے سردار۔ صلوات

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الظَّاهِرِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

و سلام ہو آپ پر اے پاکیزہ لوگوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے پاک کرنے والوں

الْمُطَهَّرِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَطَهِّرِينَ الصَّلَاةُ وَ

کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے کامل طہارت والوں کے سردار۔ صلوات و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُطِيعِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

سلام ہو آپ پر اے اطاعت گزاروں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے (حق کی) اتباع

التَّابِعِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الظَّالِمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے ظالمین حق کے سردار۔ صلوات و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُطَلُوبِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

آپ پر اے مطلوبان خداوند تعالیٰ کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے مشتاقان خداوند تعالیٰ

الْمُشْتَقِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْعَاشِقِينَ الصَّلَاةُ

کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے عاشقوں کے سردار۔ صلوات

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمَعْشُوقِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

و سلام ہو آپ پر اے معشوقوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے نصیحت

الْوَاعِظِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الدَّاكِرِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

گروں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے ذکر کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمَذْكُورِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُنْعَمِينَ

آپ پر اے ذکر کئے جانے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے انعام یافتہ لوگوں کے سردار

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُعْظَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

صلوات و سلام ہو آپ پر اے تعظیم کئے جانے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے

سَيِّدَ الْمُفَسِّرِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُبَلِّغِينَ الصَّلَاةُ وَ

مفسرین کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے پیغام حق پہنچانے والوں کے سردار۔ صلوات و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْوَاصِلِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

سلام ہو آپ پر اے واصِلانِ حق کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے باہم وصل و پیوند

الْمُتَوَاصِلِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُقَدَّسِينَ الصَّلَاةُ وَ

نبھانے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے مقدس لوگوں کے سردار۔ صلوات و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُحَاضِرِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

سلام ہو آپ پر اے (غیر کی طرف) اسبقیت لے جانے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے

سَيِّدَ الْمُرَابِطِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُجْتَهِدِينَ الصَّلَاةُ

باہم ربط رکھنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے مجتہدین کے سردار۔ صلوات

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُجَاهِدِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

و سلام ہو آپ پر اے راہِ خدا میں جہاد کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے رسولوں

الْمُرْسَلِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے مومنین کے سردار۔ صلوات و سلام ہو



عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْفَاتِحِينَ

آپ پر اے اہل اسلام کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے فتح مندوں کے سردار

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُقْبِلِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

صلوات و سلام ہو آپ پر اے نیک نیتوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے

سَيِّدَ الْحَافِظِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْعُلَمَاءِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

حافظوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے سب اہل جہان کے سردار۔ صلوات و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْقَائِمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الصَّائِمِينَ

سلام ہو آپ پر اے قیام کرنے والوں (نمازیوں) کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے روزداروں کے سردار

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُشَاهِدِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

صلوات و سلام ہو آپ پر اے دیدار خدا کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر

يَا سَيِّدَ الْمُتَشَاهِدِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُحَجَّلِينَ الصَّلَاةُ

اے باہم دیدار حق کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے زورانی اعضاء والوں کے سردار صلوات

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَّبِعِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَهَلِّلِينَ

و سلام ہو آپ پر اے اتباع حق کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے سردار

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُسَبِّحِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

صلوات و سلام ہو آپ پر اے سبحان اللہ کہنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے

سَيِّدَ الْمُحَقِّقِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَحَقِّقِينَ الصَّلَاةُ

حق کو مدلل انداز میں جاننے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے حقائق کی تہ تک پہنچنے والوں کے سردار۔ صلوات

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُظْهِرِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

و سلام ہو آپ پر اے حق کا اظہار کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے احرام باندھنے

الْمُحْرِمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُحَلِّقِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے (دوران حج) حلق کرانے والوں کے سردار۔ صلوات و



السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُقَصِّرِينَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

سلام ہو آپ پر اے (دورانِ حج و عمرہ) قصر کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے معین

الْمُعَلِّمِينَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَهَجِّدِينَ الصَّلَاةِ وَ

کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے تہجد گزاروں کے سردار۔ صلوات و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُهْجِدِينَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

اسلام ہو آپ پر اے (اللہ تعالیٰ کی) بزرگی بیان کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے استغفار

الْمُسْتَغْفِرِينَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَشَهِّدِينَ الصَّلَاةِ

کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے شہادت توحید دینے والوں کے سردار۔ صلوات

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُسْتَشْهِدِينَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

و سلام ہو آپ پر اے گواہ قائم کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے

سَيِّدَ الْمُتَّقِينَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُصَلِّينَ الصَّلَاةِ وَ

متقین کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے نماز گزاروں کے سردار۔ صلوات و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَفَقِّهِينَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

سلام ہو آپ پر اے راہِ خدا میں تشریح کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے باہم الفت

الْمُؤَلِّفِينَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُبْلِغِينَ الصَّلَاةِ وَ

پیدا کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے مبلغین (حق) کے سردار۔ صلوات اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُخْلِصِينَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

سلام ہو آپ پر اے اربابِ اخلاص کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے مقدس

الْمُقَدَّسِينَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُعْظَمِينَ الصَّلَاةِ

لوگوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے اصحابِ عظمت کے سردار۔ صلوات

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُعْرِفِينَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

و سلام ہو آپ پر اے حق کی پہچان کرنے والوں کے سردار۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے مبارک



الْمُبَارَكِينَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرَاقِبِينَ الصَّلَاةَ وَ

لوگوں کے سردار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنے والوں کے سردار۔ صلوة و

السَّلَامَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمَعَايِينِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

سلام ہو آپ پر اے عفو و درگزر کرنے والوں کے سردار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ

الْمُنَاجِيْنَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُنْجِيْنَ الصَّلَاةَ وَ

سے مناجات کرنے والوں کے سردار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے نجات دلانے والوں کے سردار۔ صلوة و

السَّلَامَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُفْرِحِينَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا

سلام ہو آپ پر اے فرحت کا ساز و سامان کرنے والوں کے سردار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے

سَيِّدَ الْمُتَعَمِّدِينَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُمَكِّنِينَ

انعام بخشنے والوں کے سردار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے قدرت و قوت دینے والوں کے سردار

الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَمَكِّنِينَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ

صلوة و سلام ہو آپ پر اے قدرت پانے والوں کے سردار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر

يَا سَيِّدَ الْمُؤْتَلِّدِينَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُبَيِّنِينَ

اے دائمی عزت و عظمت والوں کے سردار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے حق کو واضح کرنے والوں کے سردار

الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَبَيِّنِينَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ

صلوة و سلام ہو آپ پر اے ہدایت خود واضح (نور) والوں کے سردار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر

يَا سَيِّدَ الْمُهْلِحِينَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَوَكِّلِينَ

اے عمدہ اور ملیح کلام والے۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے متوکلین کے سردار

الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُعْتَكِفِينَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ

صلوة و سلام ہو آپ پر اے اعتکات بیٹھنے والوں کے سردار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر

يَا سَيِّدَ الْمُقَرَّبِينَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُشْفَعِينَ الصَّلَاةَ

اے مقربین کے سردار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے ارباب شفاعت کے سردار۔ صلوة



وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُكْرَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

و سلام ہو آپ پر اے ارباب کرامت کے سردار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے ارباب

الْمُتَوَاضِعِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُحْفُوظِينَ الصَّلَاةُ

تواضع کے سردار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے (اللہ تعالیٰ) کی حفاظت پائیموالوں کے سردار۔ صلوة

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمَرْحُومِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

و سلام ہو آپ پر اے رحمت پانے والوں کے سردار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے

سَيِّدَ الْمَغْفُورِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمَطْلُوبِينَ

معفرت پانے والوں کے سردار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے مطلوبان حق کے سردار

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمَحْبُوبِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

صلوة و سلام ہو آپ پر اے محبوبان حق کے سردار۔ صلوة و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمَعْشُوقِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

آپ پر اے معشوقان حق کے سردار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے چادر

الْمُرْمَلِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُدَّثِّرِينَ الصَّلَاةُ وَ

اڈھنے والوں کے سردار۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے کبل پوشوں کے سردار۔ صلوة و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُشْتَاقِينَ إِلَى لِقَاءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ

سلام ہو آپ پر اے سردارِ شوق رکھنے والوں کے۔ طرف رب العالمین کی ملاقات کے۔ صلوة

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْإِخْدُ بِالْحُجْرَاتِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

و سلام ہو آپ پر اے حجرات مبارکہ بنانے والے صلوة و سلام ہو آپ پر

يَا إِخْدُ الْهَدَايَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْآخِرُ الصَّلَاةُ وَ

اے (صرف) ہدایا کے قبول کرنے والے۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے آخر الزمان پیغمبر۔ صلوة و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَحْرَايَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْأَمْرُ

سلام ہو آپ پر اے جائے پناہ صلوة و سلام ہو آپ پر اے صاحب امر





الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْأَمِنُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيَّةَ اللَّهِ الصَّلَاةُ

صلوات و سلام ہو آپ پر اے صاحب امن و سلامتی۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی آیت قدرت، صلوات

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْأَبْرُّ بِاللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ الصَّلَاةُ

و سلام ہو آپ پر اے بہت زیادہ احسان کر میرے اللہ کی توفیق سے صلوات و سلام ہو آپ پر اے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے باپ صلوات

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الطَّاهِرِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الطَّيِّبِ الصَّلَاةُ وَ

و سلام ہو آپ پر اے ابوالطاہر رضی اللہ عنہ۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے ابوالطیب (رضی اللہ عنہ) صلوات و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْأَمْرِ امِلِ الصَّلَاةُ وَ

سلام ہو آپ پر اے ابو القاسم (رضی اللہ عنہ) صلوات و سلام ہو آپ پر اے بیوگان کے سرپرست۔ صلوات و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْأَبْطَحِيُّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْأَبْلَجُ الصَّلَاةُ

سلام ہو آپ پر اے ابھی (دوائی بٹھا کے مین) صلوات و سلام ہو آپ پر اے ماہ جمن۔ صلوات

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْأَبْيَضُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْأَجَلُ الصَّلَاةُ

اور سلام ہو آپ پر اے چمیلی سفید رنگت والے۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے صاحب جلال عظمتی۔ صلوات

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْأَجُودُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَجِيدُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

و سلام ہو آپ پر اے سب سے زیادہ جود و عطا والے۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے اجر عظیم والے۔ صلوات و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا أَحَادُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْأَحْسَنُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

آپ پر اے یتائے خلاق۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے احسن خلاق۔ صلوات و سلام ہو آپ پر

يَا أَيُّهَا الْأَحْتَمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْأَخْشَى بِاللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

اے بے پایاں حشمت والے۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے۔ صلوات و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا أَحْوَنَاخُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْأَدْعَجُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

آپ پر اے اخوناخ۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے عظیم آنکھوں والے۔ صلوات و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا أَدْوَمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْأَرْحَمُ وَأَرْحَمُ النَّاسِ عَقْلًا

آپ پر اے دائمی (نبوت والے) صلوات و سلام ہو آپ پر سب سے ذہنی شخصیت اور اہل ترین عقل والے



الصلوة والسلام عليك يا أيها الأرحم وأرحم الناس بالعباد الصلوة والسلام

صلوة و سلام ہو آپ پر لے سراپا رحم و کرم اور سب سے زیادہ بخدگان خدا پر رحم کر تھو لے صلوة و سلام ہو

عليك يا أيها الأزج الصلوة والسلام عليك يا أيها الأزكى الصلوة والسلام

آپ پر لے دراز اور باریک ابرؤں والے۔ صلوة و سلام ہو آپ پر لے سب سے زیادہ پاکیزہ۔ صلوة و سلام ہو

عليك يا أيها الأسلم وأسلم الناس وأشجع الناس الصلوة والسلام

آپ پر لے سزا پناہ دہی اور سب لوگوں سے زیادہ صاحب سلامت اور صاحب شجاعت۔ صلوة و سلام ہو

عليك يا أيها الأندد حياءً من العذراء في خدرهن الصلوة والسلام

آپ پر لے وہ ذات اقدس کہ جو زیادہ شرمیلے ہیں کنواری عورتوں سے جو اپنے پردوں میں ہوں صلوة و سلام ہو

عليك يا أيها الأصدق في الله وأصدق الناس قولاً ولهجته الصلوة والسلام

آپ پر لے سب سے زیادہ سچے اللہ تعالیٰ کے حق میں اور سب سے زیادہ راست گو اور سچے قول اور لہجہ کے۔ صلوة و

السلام عليك يا أيها الأطيب وأطيب الناس ريحاً الصلوة والسلام

سلام ہو آپ پر لے سراپا طیب و طہارت اور سب سے پاکیزہ تر اور لے خوشبو کے۔ صلوة و سلام ہو

عليك يا أيها الأعز وأعظم وأعلى الصلوة والسلام عليك يا أيها الأعلم

آپ پر لے عزیز ترین۔ عظیم ترین اور بزرگ ترین مہتمی۔ صلوة و سلام ہو آپ پر لے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ علم رکھنے

بالله الصلوة والسلام عليك يا أيها الأعز الصلوة والسلام عليك يا أفصح

والے۔ صلوة و سلام ہو آپ پر لے عزیز تر۔ صلوة و سلام ہو آپ پر لے فصیح ترین

العرب الصلوة والسلام عليك يا أيها الأكرم ويا أكرم الناس الصلوة

عرب۔ صلوة و سلام ہو آپ پر لے مجسمہ کرامت اور سب سے زیادہ کرامت والے۔ صلوة

والسلام عليك يا أيها الإكليل ويا أكرم أولاد آدم من الصلوة والسلام

و سلام ہو آپ پر لے سرتاج اور لے تمام اولاد آدم سے زیادہ باکرامت۔ صلوة و سلام ہو

عليك يا أيها الأبعى الصلوة والسلام عليك يا أيها الإمام ويا

آپ پر لے حقائق شناس۔ صلوة و سلام ہو آپ پر لے امام مطلق اور لے



إِمَامَ الْخَيْرِ وَيَا إِمَامَ الْمُرْسَلِينَ وَيَا إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَيَا إِمَامَ الْمُتَّقِينَ

امام خیر - اے امام مرسلین اور اے امام انبیاء - اور اے امام متقین

وَيَا إِمَامَ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْأَمَانُ وَيَا أَمْنَةَ

اور سب اہل جہان کے امام - صلوات و سلام ہو آپ پر اے سراپا امان اور بالخصوص اپنے صحابہ کرام

أَصْحَابِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْأَمْجَدُ وَيَا أَيُّهَا الْأُمِّيُّ الصَّلَاةُ

کے لیے سراپہ حفظ و امان - صلوات و سلام ہو آپ پر اے بزرگ تر اور بنی امی - صلوات

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلَ شَافِعٍ وَيَا أَوَّلَ مُشَفِّعٍ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

اور سلام ہو آپ پر اے اولین شافع اور اولین مقبول شفاعت والے - صلوات و سلام ہو آپ پر اے

أَوَّلَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ

سب انبیاء و رسل سے مقدم رسول - صلوات و سلام ہو آپ پر اے سب ایمان والے والوں سے پہلے

الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلَ مَنْ تَنَشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ

ایمان لانے والے - صلوات و سلام ہو آپ پر اے اولین ان تمام لوگوں کے جن سے زمین قبر الگ ہوگی

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْبَارُّ وَيَا أَيُّهَا الْبَارِقُطُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

صلوات و سلام ہو آپ پر اے سراپا برو احسان اور اے سب سے زیادہ حمد کرنے والے (حامد) - صلوات و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْبَالِغُ وَيَا أَيُّهَا الْبَالِغُ الْبَيَانِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

آپ پر اے (مقاصد تک) پہنچنے والے اور اے بیان مراد پر کامل قدرت والے - صلوات و سلام ہو آپ پر

يَا أَيُّهَا الْبَاهِيُّ وَيَا أَيُّهَا الْبَرِّقُطُسُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بُشْرَى وَيَا

اے صاحب فخر - اور اے سب سے زیادہ عظمت والے - صلوات و سلام ہو آپ پر اے بشارتوں والے اور اے

بُشْرَى عَيْسَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْبُرْهَانُ وَيَا أَيُّهَا الْبَدِيعُ

بشارت عیسی - صلوات و سلام ہو آپ پر اے برہان (خداوند تعالیٰ) اور اے توکھے شہکار قدرت

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْبِهَاءُ وَيَا أَيُّهَا الْبِهِيُّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

صلوات و سلام ہو آپ پر اے سراپا بہار اور رونق اور اے رونق و بہار والے - صلوات و سلام ہو



عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَيَا أَيُّهَا التَّذَكُّرَةُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا التَّقْلِيظُ

آپ پر اے تلاوتِ قرآن فرمانے والے اور اے سراپا تذکرہ نصیحت۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے تقلیظ

وَيَا حَاطَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْجَدُّ وَيَا أَيُّهَا الْجَوَادُ الصَّلَاةُ

اے حاط۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے مجسمہ بخت و اقبال اور اے صاحبِ جود و نوال۔ صلوات

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْحَامِدُ وَيَا حَامِلَ لُؤَاءِ الْحَمْدِ الصَّلَاةُ وَ

و سلام ہو آپ پر اے حمد بجانے والے۔ اور اے لواءِ حمد کے اٹھانے والے۔ صلوات اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْحَامِي وَيَا أَيُّهَا الْحَرَمِيُّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

سلام ہو آپ پر اے بہت حمایت کرنے والے اور اے صاحبِ حرم (کعبہ)۔ صلوات و سلام ہو آپ پر

يَا أَيُّهَا الْحَاكِمُ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ وَيَا حَبِيبَ اللَّهِ وَيَا حِزْبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَ

اے اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے مطابق حکم دینے والے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اللہ تعالیٰ کی جماعت۔ صلوات و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْحَرِيصُ عَلَى الْإِيمَانِ وَيَا حَرِيصُ عَلَيْكُمْ وَيَا

سلام ہو آپ پر اے (بذاتِ خود) ایمان پر حرص فرمانے والے اور امت (کے ایمان) پر حرص فرمانے والے اور اے

حَرِيصُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْحُجَّةُ لِلَّهِ عَلَى الْخَلَائِقِ وَيَا أَيُّهَا

(مخیر اور بھلائی پر) حرص فرمانے والے۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اس کی رحمت و برہان۔ اور اے سراپا حق

الْحَقُّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْحَلِيمُ وَيَا أَيُّهَا الْحَكَمُ وَيَا أَيُّهَا

و صلوات۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے صاحبِ حلم اور اے حکم۔ اور اے صاحبِ حکمت

الْحَكِيمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْخَازِنُ لِمَالِ اللَّهِ وَيَا خَطِيبَ

بالغہ۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے مال کے خازن۔ اور اے بارگاہ

الْوَافِدِينَ عَلَى اللَّهِ وَيَا خَلِيفَةَ اللَّهِ وَيَا خَلِيلَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

خداوندی میں حاضری دینے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے۔ اے خلیفہِ خدا اور اے خلیلِ خداوند تعالیٰ۔ صلوات

عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْحَنِيفُ وَيَا ذَا السِّيفِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا

و سلام ہو آپ پر اے دینِ حق پر کاربند۔ اور صاحبِ سیف۔ صلوات و سلام ہو آپ پر اے پیکر



الْخَاشِعُ وَيَا أَيُّهَا الْخَاضِعُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْخَالِصُ وَيَا

خشوع اور لے مجسٹہ مضوع - صلوات و سلام ہو آپ پر لے پیکر خلوص - اور لے

أَيُّهَا الْخَافِضُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْخَيْرُ وَيَا خَيْرَ

لے باطل کو بہت کرنے والے - صلوات و سلام ہو آپ پر لے سراسر عیسر اور بھلائی - اور لے (خیر کے)

الْأُولَىٰ وَيَا خَيْرَ الْآخِرِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الْخَلْقِ وَخَيْرَ خَلْقِ

اختیار کرنے والے - اور تمام اولین و آخرین سے بہتر و بزرگتر - صلوات و سلام ہو آپ پر لے سید خلق - اور لے خلق خدا کے

اللَّهِ وَيَا خَيْرَةَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ وَيَا خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ

مہتر - اور لے انتخاب خداوند تعالیٰ صلوات و سلام ہو آپ پر لے خلافت سے بہتر و بزرگتر - اور لے اس امت کے سرور

وَيَا خَيْرَ الْعَالَمِينَ طَرَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الرَّافِعُ وَيَا أَيُّهَا الْوَاضِعُ

اور سب جہانوں کے سرور - صلوات و سلام ہو آپ پر لے بلند بنانے والے - اور لے (آئین شرع کے)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الرَّاعِبُ وَيَا رَفِيعَ الرَّتَبِ وَيَا أَيُّهَا الرَّهَابُ

وضع کرنے والے صلوات و سلام ہو آپ پر لے (اللہ تعالیٰ کی) رغبت رکھنے والے - اور بلند مراتب والے - اور لے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے

يَا طَابَ يَا طَابَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الرُّوحُ وَيَا رُوحَ الْقِسْطِ وَيَا

اے طاب (طیب) - صلوات و سلام ہو آپ پر لے روح (جسم) لے روح عدل - اور لے

رُوحَ الْقُدُسِ وَيَا رُوحَ الْحَقِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الرَّاجِمُ وَيَا

روح عدل - اور لے روح مقدس اور لے روح حق - صلوات و سلام ہو آپ پر لے آہستہ بولنے والے اور لے

أَيُّهَا الظَّاهِرُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الشَّكَّارُ وَيَا أَيُّهَا الشُّكُورُ وَيَا شَهِيدَ

ظاہر - صلوات و سلام ہو آپ پر لے بہت شکر گزار لے شکر اور لے مشہور جہان

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الشَّدْقَمُ وَيَا أَيُّهَا الشِّهْمُ وَيَا أَيُّهَا الْفِدْعَمُ

صلوات و سلام ہو آپ پر لے دلیر و بہادر - اور لے نافذ حکم والے اور لے رعب دار جسم والے

وَيَا أَيُّهَا الْغَطْمُ وَيَا سَيْفَ الْإِسْلَامِ وَيَا أَيُّهَا السَّيْفُ الْمَخْدَمُ الصَّلَاةُ وَ

اور لے بجزو خوار اور لے اسلام کی تلوار - اور لے مزین تلوار - صلوات و



السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الشَّارِعُ وَيَا أَيُّهَا الشَّفِيعُ الصَّلَاةُ وَ

سلام ہو آپ پر اے شریعت کو جاری کرنے والے۔ اے شفاعت فرماتے والے۔ اے قبول شفاعت صلوة

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الضَّحُوكُ وَيَا أَيُّهَا الضَّحَاكُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

سلام ہو آپ پر اے ہنس مکھ۔ اور اے بہت زیادہ تبسم فرماتے والے۔ صلوة و سلام ہو آپ پر

يَا أَيُّهَا الْقَتُّومُ وَيَا قَتْمَ وَيَا أَيُّهَا الضَّارِبُ بِالْحُسَامِ الْمَلْتُومُ وَيَا أَيُّهَا الضَّيِّعُ

اے بہت عطا کرنے والے اور اے سخی۔ اور مارنے والے ساتھ لپیٹی اور ڈھکی ہوئی تلوار کے اور اے ہسار و شجاع

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الضَّمِينُ وَيَا قَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ وَيَا أَيُّهَا

صلوة و سلام ہو آپ پر۔ اے صاحب ضمانت۔ اے نورانی صورت اور نورانی اعضاء والوں کے سردار۔ اور اے

الْفِطْنُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْعَلَامَاتِ الْبَاهِرَاتِ وَيَا صَاحِبَ

صاحب فطنت۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے ظاہر علامات والے۔ اور اے بندی

الْعُلُوقِ وَالذَّرَجَاتِ وَيَا صَاحِبَ الْمُدْرَعَةِ وَيَا صَاحِبَ الْمَدِينَةِ وَيَا أَيُّهَا

اور درجات والے۔ اور اے جبر و جبر والے اور اے مدینہ والے۔ اور اے

الْعُدَّةُ وَيَا أَيُّهَا الْعُمْدَةُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا السَّرِيعُ وَيَا صَاحِبَ

سرو سامان۔ اور اے عمدہ۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے نیکیوں کی طرف اعلیٰ کرنے

الشَّرْعِ وَيَا أَيُّهَا الصَّارِعُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْمُسْتَعِيدُ وَيَا

والے اے صاحب شریعت۔ اے بارگاہِ خدادی میں زاری کرنے والے صلوة و سلام ہو آپ پر اے پناہ کے طلب گار اور اے

مَاذُ وَيَا مَاذُ وَيَا مَوْزُ وَيَا مَوْزُ وَيَا مَوْزُ وَيَا مَوْزُ وَيَا أَيُّهَا النَّابِذُ وَيَا أَيُّهَا

ماذ۔ اور اے ماذ، اے موز، اے موز اور اے میز۔ اے میز اور اے پھینکنے والے۔ اور کنز

الْكَنْزِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْمَاءُ الْمَعِينُ وَيَا أَيُّهَا الْمَامُونُ وَ

خداوند تعالیٰ صلوة و سلام ہو آپ پر اے صاف و شفاف پانی اور اے امن دے ہوئے۔ اور نامیدوں

مُبَشِّرِ الْيَأْسِيِّنَ وَيَا أَيُّهَا اللَّسَنُ وَيَا أَيُّهَا اللِّسَانُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

کو بشارت دینے والے۔ اور اے واضح کلام والے۔ اور اے ترجمان (حق) صلوة و سلام ہو آپ پر

يَا أَيُّهَا الْمُبْتَلُ وَيَا أَيُّهَا الْمُؤَقَّلُ وَيَا أَيُّهَا الْمُبْتَلُ وَيَا أَيُّهَا الْمُحَلَّلُ وَيَا أَيُّهَا

لے بارگاہ خداوندی میں آزماری کرنے والے۔ لے امید دلانے والے۔ لے غیروں سے رشتہ توڑنے والے اور لے (پاکیزہ اشیاء کو حلال ٹھہرانے  
الْمُرْسَلُ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْمُتَلَوُّ وَيَا أَيُّهَا الْمُتَلَوُّ عَلَيْكَ وَيَا مَدْعُو

والے اور لے مرسل۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے (کتب نماویہ میں تلاوت کئے جانے والے۔ اور لے وہ ذات کہ جن پر تلاوت (روحی) کی جاتی

وَيَا أَيُّهَا الْعَفْوُ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْغَوْثُ وَيَا أَيُّهَا الْغَيْثُ وَيَا أَيُّهَا

ہے۔ لے وہ ذات جو نگاہ التفات کے لیے پکارے ہوئے ہیں اور لے عفو و درگزر والے صلوات و سلام ہو آپ پر لے فریاد رس لے بارگاہ رحمت اور

الْغِيَاثُ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الصَّادِعُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَيَا صِرَاطَ

لے مجھ فریاد رس۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے پھٹ پڑنے والے امر خداوندی کے ساتھ۔ اور لے اللہ تعالیٰ کی راہ

اللَّهُ وَيَا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَيَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ الصَّلَاةَ وَ

لے راہ ان لوگوں کی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ لے صراط مستقیم۔ صلوات و

السَّلَامَ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ وَيَا إِمَامَ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ

سلام ہو آپ پر لے اولین و آخرین سے بہتر و بزرگتر اور لے سب جہانوں کے امام۔ صلوات و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا مَحَبَّبَنَا الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا مَحْبُوبَنَا الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ

آپ پر لے ہمارے محب۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے ہمارے محبوب۔ صلوات و سلام ہو آپ پر

يَا مَقْصُودَنَا الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا مَطْلُوبَنَا الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ

لے ہمارے مقصود۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے ہمارے مطلوب۔ صلوات و سلام ہو آپ پر

يَا قَلْبِي الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا رُوحِي الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا سِرِّي

لے میرے قلب (وجہاً صلوات و سلام ہو آپ پر لے میری روح صلوات و سلام ہو آپ پر لے میرے سرنہاں

الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَنَا الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّنَا الصَّلَاةَ

صلوات و سلام ہو آپ پر لے ہمارے رسول۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے ہمارے نبی۔ صلوات

وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا شَافِي الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا كَافِي الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ

اور سلام ہو آپ پر لے شفا دینے والے (بافان اللہ صلوات و سلام ہو آپ پر لے (بافان اللہ کفایت کرنے والے صلوات و سلام ہو



عَلَيْكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَنْعَمَ الْمُتَعَبِّينَ الصَّلَاةُ

اپ پر لے سب عزت والوں سے عزیز تر۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے سب انعام کرنے والوں سے زیادہ انعام فرماتے والے

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَزِينَ الْمَزِيئِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَشْرَفَ

صلوات و سلام ہو آپ پر لے سب زینت دینے والوں سے زیادہ زینت دینے والے۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے تمام ارباب شرف سے زیادہ

الْمُشْرِفِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَخْلَصَ الْمُخْلِصِينَ الصَّلَاةُ وَ

صاحب شرف۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے تمام مخلصین سے زیادہ مخلص صلوات و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَفْضَلَ الْفَاضِلِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَخْشَعَ

سلام ہو آپ پر لے تمام ارباب فضیلت سے افضل۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے تمام ارباب خشوع سے زیادہ خشوع اور

الْخَاشِعِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَخْضَعَ الْخَاضِعِينَ الصَّلَاةُ وَ

عاجزی ظاہر کرنے والے۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے تمام ارباب خضوع سے برتر۔ صلوات و

لَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَحْمَدَ الْحَامِدِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَجُودَ الْجُودِينَ

سلام ہو آپ پر لے سب سے زیادہ حمد بخالانے والے۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے سب سے زیادہ جود و نوال والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَصْبَرَ الصَّابِرِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَقْرَبَ

صلوات و سلام ہو آپ پر لے تمام صابریں سے صبر میں برتر۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے سب سے زیادہ

الْمُقَرَّبِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحِمَةَ اللَّهِ الْوَاسِعَةَ عَلَى الْعَالَمِينَ

مقرب خداوند تعالیٰ۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے اللہ کی رحمت مجسم جو تمام جہانوں کو محیط ہے۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ الْمُنِيبِطِ فِي الْخَلَائِقِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

صلوات و سلام ہو آپ پر لے اللہ تعالیٰ کے نور جو تمام مخلوق میں پھیلانا ہوا ہے۔ صلوات و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا فخر آدم وَمَنْ بَعْدَهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَرَفَ إِبْرَاهِيمَ وَ

آپ پر لے حضرت آدم کے فخر اور ان کے بعد والوں کے۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے شرف اور بزرگی حضرت ابراہیم کی اور

مَنْ دُونَهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَحْرَ الْوِلَايَةِ الَّذِي عَيْسَى مِنْ جَدَائِلِهِ

ان کے علاوہ سب کی۔ صلوات و سلام ہو آپ پر لے ولایت کے سمندر جس کی ندیوں میں سے حضرت عیسیٰ بھی ایک ندی اور نالی ہے۔



الصلوة والسلام عليك يا طومر النبوة الذي موسى من جوانب الصلوة والسلام

صلوة و سلام ہو آپ پر اے نبوت کے کوہ طور کہ حضرت کلیم بھی اس کا ایک کنارہ ہیں۔ صلوة و سلام ہو

عليك يا من خلفاء أركان الدين الحنفي الكمالي الصلوة والسلام

آپ پر اے ذات والا کہ جن کے خلفاء ارکان ہیں دین حق اور شرع کامل کے۔ صلوة و سلام ہو

عليك يا من أصحابه نجوم فلک الهداية الصلوة والسلام عليك

آپ پر اے ذات مقدس کہ جن کے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ صلوة و سلام ہو آپ پر

يا من أمته خير الأمم الصلوة والسلام عليك يا من شريعته ناسخ

اے ذات مقدس کہ جن کی امت خیر ام ہے۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے ذات معنی کہ جن کی شریعت ناسخ ہے

الشرايع الصلوة والسلام عليك يا من طريقتك بين الجمال والجلال

پہلی تمام شریعتوں کی۔ صلوة و سلام ہو نازل ہو آپ پر اے ذات معنی کی جن کا طور و طریقہ جمال و جلال کے درمیان ہے نہ

لا يغلب جماله على جلاليه ولا جلاليه على جماله الصلوة والسلام عليك

تو ان کا جمال جلال پر غالب آتا ہے اور نہ جلال جمال پر۔ صلوة و سلام ہو آپ پر

يا من ظهر فيه الأسماء والصفات الإلهية كلها على وجه الاعتدال

اے اللہ تعالیٰ کے منظر اسماء و صفات کہ جن میں وہ سب (اسماء و صفات) ظہور پذیر ہیں کامل اعتدال کے ساتھ

التامة بلا غلبة ومغلوبية الصلوة والسلام عليك يا من جواب سلامه

بغیر غلبہ اور مغلوبیت کے۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے وہ ذات اقدس کہ جن کا جواب

شفاء المرضى وسلامة أصحاب الأفة الصلوة والسلام عليك


سلام مریضوں کے لیے سراسر شفا ہے اور آفت زدگان کے لیے سراسر سلامتی۔ صلوة و سلام ہو آپ پر

يا من أتوقع وأرجو اعتماداً على كرمه العام الذاتي والصفاتي جواب

اے رسول معظم کہ میں توقع اور آرزو رکھتا ہوں اعتماد کرتے ہوئے ان کے کرم عظیم ذاتی اور صفاتی پر اسلام کا جواب دینے

سلام حتى أسلم عن جميع الأفات وأتوسل بكرمه إليه في هذا المطلب

کے لیے، اپنے اسلام پیش کرنے پر تاکہ میں تمام آفات سے سلامت رہوں۔ اور میں وسیلہ بکرمہ تا ہوں انہیں کے کرم سے طرف ان



الْعَالِي الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَرْكَعَ الرَّاِكِعِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اس بلند مرتبت مقصد میں۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے سب سے زیادہ رکوع کرنے والے۔ صلوة و سلام ہو آپ پر

يَا أَسْجَدَ السَّاجِدِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَعْرَفَ الْمَعْرِفِينَ الصَّلَاةُ

اے سب سے زیادہ سجدے کرنے والے۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے سب سے زیادہ جاننے والے۔ صلوة

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ زَيَّنَهُ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ شَرَّفَهُ اللَّهُ

و سلام ہو آپ پر اے وہ ذات والا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مزین فرمایا۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے وہ ذات والا جنہیں اللہ تعالیٰ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ كَرَّمَهُ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ غَفَرَ

نے شرف مال بخشا۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے وہ ذات والا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کرم بنایا۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے وہ ذات والا جس

لَهُ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَرَّبَهُ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

کہ مغفرت کا اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صلوة و سلام ہو آپ پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقرب ٹھہرایا۔ صلوة و سلام ہو آپ پر کہ

يَا مَنْ اخْتَارَهُ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے وہ ذات کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا۔ صلوة و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا مَنْ طَلَبَهُ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بَشَّرَهُ اللَّهُ الصَّلَاةُ

آپ پر اے وہ ذات کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں طلب فرمایا۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے وہ ذات کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دیں۔ صلوة

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ ذَكَرَهُ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ دَنَاهُ اللَّهُ

و سلام ہو آپ پر اے ذات مقدس کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے ذات مقدس کہ اللہ تعالیٰ نے قریب بنا

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ مَنَّ عَلَيْهِ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ

صلوة و سلام ہو آپ پر اے ذات مقدس کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی احسان فرمایا۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے ذات مہلی کہ

الطَّفَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَجَبِينَا وَشَفِيعِنَا الْمَشْفَعَةِ فِينَا مُحَمَّدٍ

اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم فرمایا۔ اے اللہ صلوة بھیج ہمارے سردار اور نبی اور حبیب و شفیع اور ہمارے حق میں مقبول الشفاعت محمد

خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الشَّاهِدِ

خاتم انبیاء اور سید مرسلین پر۔ امام المتقین اور رسول رب العالمین پر جو امت کے (احوال کا) مشاہدہ کرتے والے ہیں۔

الْبَشِيرِ الدَّاعِي إِلَيْكَ بِأَذْنِكَ السَّرَاحِ الْمُنِيرِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

بشارت دینے والے تیری طرف بلانے والے ہیں تیرے امر سے جو روشن چراغ ہیں اور انہیں پر سلام ہو۔ اے اللہ صلوات بھیج

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْهَارِهِ

محمد کریم پر اور آپ کی آل۔ اصحاب۔ اولاد اور ازواج و ذریات پر اور اہل بیت اور آپ کے دامادوں پر

وَأَنْصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَمُحِبِّيهِ وَأُمَّتِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ وَعَلَى أُمَّتِهِ جَمِيعٍ

اور آپ کی نصرت و امداد کرنے والوں اور آپ کی جماعتوں اور جملہ مجاہدین اور تمام اُمت پر اور ہم پر بھی ان سب کے ساتھ اور تمام

الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْأَوَّلِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرِينَ

انبیاء کی امتوں پر۔ اے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر تمام اولین میں۔ اور صلوات بھیج محمد کریم پر تمام آخرین میں

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي النَّبِيِّينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اور صلوات بھیج محمد کریم پر تمام انبیاء میں۔ اور صلوات بھیج محمد کریم پر تمام مرسلین میں۔ اور صلوات بھیج محمد کریم پر

فِي الْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ

ملائکۃ اعلیٰ اور ارباب شرف میں قیامت تک کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکت عطا فرما ہمارے آقا محمد پر جو تیرے

وَرَسُولِكَ وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَصَفِيَّكَ وَمُوسَى كَلِيمِكَ وَنَجِيَّكَ وَعِيسَى

نبی و رسول ہیں۔ اور ابراہیم پر جو تیرے خلیل ہیں اور موسیٰ پر جو تیرے کلیم ہیں اور سرگرمی کرنے والے اور عیسیٰ پر جو

رُوحِكَ وَكَلِمَتِكَ وَعَلَى جَمِيعِ مَلَائِكَتِكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَخَيْرَتِكَ مِنْ

تیرے پسندیدہ و روح ہیں اور کلمہ کن سے پیدا ہونے والے ہیں۔ اور اپنے تمام ملائکہ اور رسل پر اور تمام انبیاء پر اور اپنے منتخب

خَلْقِكَ وَأَصْفِيَاءِكَ وَخَاصَّتِكَ وَأَوْلِيَاءِكَ مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ وَ

لوگوں پر ساری مخلوق سے۔ اور اپنے مخصوص افراد اور خواص پر۔ اور اپنے تمام دوستوں پر خواہ اہل ارض سے ہوں یا اہل سما سے۔ اور

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِي نُورُهُ مِنْ نُورِ الْأَنْوَارِ وَأَشْرَقَ بِشَعَاعِ سِرِّهِ

صلوات و سلام بھیج محمد کریم اور آل محمد پر جن کا نور خالص ترین انوار سے ہے اور ان کی شعاع باطن سے جگمگا اٹھے ہیں تمام اسرار

الْأَسْرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْإِبْرَارِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ

مفتی۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج محمد کریم اور آپ کی آل اور تمام اہل بیت پر جو نیکو کار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ بِحُرِّ أَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ أَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعَرْوَسِ

صلوة نازل فرما محمد کریم اور آپ کی آل پر جو محبوب، کثیرے انوار کے سمندر ہیں اور تیرے اسرار کی کان اور تیری حجت کے ترجمان مہلکتک و خلیفۃ ملکک و امام حضرتک و خاتم انبیاءک صلوة تدوم اور تیری مملکت کے دوہما۔ اور تیرے ملک میں نائب طلق تیری بارگاہ میں امام (صلاتی) اور تیرے انبیاء کے خاتم ہیں ایسی صلوة

بَدَاؤِ امِّكَ وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ صَلْوَةٌ تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَتَايَا

جو دائم ہو تیرے دوام کے ساتھ اور باقی رہے تیری بقا کے طفیل ایسی صلوة جو تجھے راضی رکھے اور اخصی راضی رکھے اور نور راضی ہو

بِيَدَيْعِ الرَّاضِي الرَّضِي اللَّهُ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ فِي السَّمَاءِ مَحْمُودٌ وَفِي الْأَرْضِ

اس کے صدرتے میں ہم سے لے انوہی تخلیق والے۔ لے رضا مند اور راضی کئے ہوئے۔ لے اللہ صلوة بھیج اس ذات اقدس پر جو آسمان میں حمد کئے ہوئے ہیں

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مَا حَى الضَّيْرُ وَمُطَهِّرِ سِرِّ الضَّيْرِ وَ

اور زمین میں ہمارے آقا ہیں اور بار بار حمد کئے ہوئے ہیں۔ لے اللہ صلوة وسلام اور برکت عطا فرما ضرر کو مٹانے والی ذات پر۔ اور دونوں کے مخفی اسرار کے ظاہر کرنے

قَائِدِ الْخَيْرِ وَفَاتِحِ الْبُرُوقِ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ اللَّهُ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

والے پر خیر اور بھلائی میں قائد نبی کے آغاز کرنے والے۔ نبی رحمت اور امت کے سردار پر۔ لے اللہ صلوة نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ نُورِ الْأَنْوَارِ وَسِرِّ الْأَسْرَامِ وَسَيِّدِ الْأَبْرَامِ وَمُرْسِلِ الْمُرْسَلِينَ الْأَخْيَارِ وَ

محمد پر جو انوار میں سے عظیم نور اور اسرار قدرت میں سے عظیم سر ہیں۔ مبین کے سردار بزرگ و برتر۔ رسولوں کی زینت اور ان تمام لوگوں سے

الْكَرْمِ مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ عَدَدَ مَا نَزَلَ مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَى

عزت والے ہیں جن پر لرات سایہ ظن ہوئی اور دن صوف ظن ہوا مطابق گنتی ان کے جو نازل ہوئے ابتداء کائنات سے آخر تک

أَخْرَاهَا مِنْ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ مَا نَبَتَ مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَى آخِرِهَا مِنَ النَّبَاتِ

بارشوں کے قطرات سے۔ اور مطابق تعداد ان کے جو پیدا ہوئے ابتداء دنیا سے اس کی انتہاء تک نباتات اور پودوں

وَالْأَشْجَارِ صَلْوَةٌ دَائِمَةٌ بَدَاؤِ امِّكَ وَبَدَاؤِ امِّ مَلِكِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اللَّهُ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ

سے۔ ایسی صلوة جو دائم ہو ساتھ دوام ملک باری تعالیٰ کے جو واحد قہار ہے۔ لے اللہ صلوة نازل فرما اپنے رسول

أَبِي الْقَاسِمِ اللَّهُ صَلِّ عَلَى الْمَنْصُورِ الْمُوَيْدِ اللَّهُ صَلِّ عَلَى الْبَحْتَارِ الْمَجِيدِ

ابو القاسم پر۔ لے اللہ صلوة بھیج اس ذات پر جو تیری طرف نصرت اور قوت دینے ہوئے ہیں۔ لے اللہ صلوة بھیج اس ذات اقدس پر جو کائنات سے چنے ہوئے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اور تیری دے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوات بھیج ہمارے آقا و مولیٰ محمد کریم پر۔ اے اللہ صلوات بھیج سیدنا محمد پر بن کے

مَلَأَتْ قَلْبَهُ مِنْ جَلَالِكَ وَعَيْنُهُ مِنْ جَبَالِكَ فَأَصْبَحَ فَرِحًا مَوْيِدًا مَنصُورًا

دل کو ترے بھر دیا ہے اپنے جلال کے ساتھ اور ان کی آنکھ کو اپنے جمال کے ساتھ پس وہ ہو گئے شاداں تاشیداں اور نصرت یافتہ

وَعَلَى إِلَيْهِ وَصْحِيهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ حَمْدًا كَثِيرًا اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر اور سلامتی بخش جیسے کہ حق ہے سلامتی کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے اس پر حمد ہے حمد اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ خَلْقِكَ وَ

صلوات و سلام اور برکت نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو (آقا) تیری تمام مخلوق سے اکرم ہیں اور

سِرَاجِ أَفْقِكَ وَأَفْضَلِ قَائِمِ بِحَقِّكَ الْمَبْعُوثِ بِتَيْسِيرِكَ وَمَرْفِقِكَ صَلَوَاتُ

تیرے افق (جہان) کے لیے چراغ ہیں۔ اور تیرے حقوق کو قائم کرنے والوں سے افضل ہیں جو بھیجے گئے تیری طرف سے سہولت اور رفیق کے ساتھ ایسی صلوات

يَتَوَالِي تَكَرُّرُهَا وَتَلَوُّهُ عَلَى الْأَكْوَانِ أَنْوَارُهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى

کہ مسلسل ہو سحر اس کا۔ اور ظاہر ہوں کائنات پر انوار اس کے۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکت عطا فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَهْدٍ وَجِ بِقَوْلِكَ وَأَشْرَفِ دَائِرِ

سیدنا محمد اور آپ کی آل پر جو (آقا) تمام مہدومین سے برتر مہدوم ہیں ساتھ تیرے قول کے اور بزرگتر داعی ہیں واسطے تنگ

لِلْإِعْتِصَامِ بِحَبْلِكَ وَخَاتَمِ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ صَلَوَاتُ تَبْلِغْنَا فِي الدَّارِ الْبَرِّ عَمِيمِ

کرنے کے ساتھ تیری رسی کے اور ختم تیرے انبیاء و رسل سے آخری نبی و رسول ہیں۔ ایسی صلوات جو پہنچائے ہیں دونوں جہان میں تیرے فضل عمیم

فَضْلِكَ وَكَرَامَةِ رِضْوَانِكَ وَوَصْلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تیم اور تیری رضامندی اور وصل کے اعزاز تک۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکت نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ الْكَرَمَاءِ مِنْ عِبَادِكَ وَأَشْرَفِ الْمُنَادِينَ لِطَرِيقِ

آپ کی آل پر جو (آقا) تیرے باکرامت بندوں میں سب اکرم ہیں اور بزرگتر ہیں ان تمام سے جو زندا دینے والے ہیں تیری جلالی والے راہوں

رَشَادِكَ وَسِرَاجِ أَقْطَارِكَ وَيَلَدِكَ صَلَوَاتُ لَا تَفْنِي وَلَا تَبِيدُ تَبْلِغْنَا بِهَا

کی طرف اور جو چراغ ہیں تیرے (جہان کے) اطراف اور تمام بلاد کے۔ ایسی صلوات جو فنا پذیر اور زوال آستانہ ہو پہنچائے کہ ہمیں اس کی



كَرَامَةِ الْمَزِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

بدولت مزید کرامت ہم۔ لے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّفِيعِ مَقَامُهُ الْوَاجِبُ تَعْظِيمُهُ وَاحْتِرَامُهُ صَلَوةٌ لَا تَنْقَطِعُ

جن کا مقام بلند ہے۔ جن کی تعظیم و تحمیم واجب ہے ایسی صلوات جو کبھی منقطع نہ ہو اور کسی

أَبَدًا وَلَا تَفْنَى سُرْمَدًا أَوْ لَا تَنْحَصِرُ عَدَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دور میں فنا پذیر نہ ہو اور اس کا ازروئے عدد نہ ہو سکے۔ لے اللہ صلوات ہمارے آقا محمد پر

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الظَّاهِرِ البَطْهَرِ وَعَلَى إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ

جو نبی امتی ہیں اور ظاہر و مطہر ہیں اور آپ کی آل پر۔ لے اللہ صلوات بھیج اور ہر اس ذات اقدس کے جس کے ساتھ تم فرمایا کرتے

وَأَيَّدْتَهُ بِالنَّصْرِ وَالْكَوْنِ وَالشَّفَاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

رسالت کو۔ اور تائید فرمائی ان کی ساتھ اپنی نصرت کے اور کون و شفاعت کے۔ لے اللہ درود بھیج ہمارے آقا و مولے

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْحَكِيمِ وَالْحَكِيمَةِ السَّرَاجِ الْوَهَّابِ الْمَخْصُوصِ بِالْخُلُقِ

محمد پر جو نبی حاکم ہیں اور سراپا حکمت اور پچھتا چراغ ہیں۔ جو خاص کئے گئے ہیں خلق

الْعَظِيمِ وَخَتَمَ الرُّسُلِ ذِي الْمِعْرَاجِ وَعَلَى إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَاتَّبَعِهِ السَّالِكِينَ

عظیم کے ساتھ اور ختم رسل ہونے اور صاحب معراج ہونے کے ساتھ اور آپ کے اہل و اصحاب اور اتباع پر جو آپ

عَلَى مَنْهَجِهِ الْقَوِيمِ فَأَعْظُمُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِهِ مِنْهَا جُجُومُ

شاہراہ شریعت قیوم پر چلنے والے ہیں پس ان کو عظمت بخش۔ لے اللہ صلوات بھیج اس ذات اقدس پر جن کی بدولت ہے کشادہ راستہ جو

الْإِسْلَامِ وَمَصَابِيحِ الظَّالِمِ الْمُهْتَدَى بِهِمْ فِي ظُلْمَةِ لَيْلِ الشُّكِّ الدَّارِجِ صَلَوةٌ

اسلام کا۔ اور ظلمتوں کے چراغوں کا جن کے ذریعے ہدایت حاصل کی جاتی ہے شک و تردد کی سیاہ رات کی تاریکی میں ایسی صلوات

دَائِمَةٌ مُسْتَهْرَةٌ مَا تَلَطَّطَتْ فِي الْأَبْحَرِ الْأَمْوَاجِ وَطَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

جو دائم اور ہمیشہ برقرار ہو جب تک پھینڈیڑے کھاتی رہیں سمندروں میں موجیں۔ اور طواف کرتے رہیں بیت عتیق کے

مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ الْحُجَّاجِ وَأَفْضَلُ الصَّلَوةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ

گرد ہر گہرے راستے سے آئے والے حجاج کرام۔ اور افضل ترین صلوات و سلام ہو محمد پر جو کہ اس کے رسول



الْكَرِيمِ وَصَفْوَتِهِ مِنَ الْعِبَادِ وَشَفِيعِ الْخَلَائِقِ فِي الْمَبْعَادِ صَاحِبِ الْمَقَامِ

کریم ہیں اور اس کے بندگان خاص سے چنے ہوئے ہیں اور شفیع ہیں ساری مخلوقات کے قیامت کے دن۔ مالک ہیں مقام محمود

الْمَحْمُودِ وَالْحَوْضِ الْمَوْرُودِ النَّاهِضِ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَالتَّبْلِيغِ الْأَعْمَرِ

کے اور حوض کے جس پر پیا سے وارد ہونے والے ہیں جو قیام فرمائے والے ہیں رسالت کی اور تبلیغ عام کی عباؤں کے ساتھ اور

الْمَخْصُوصِ بِشَرَفِ السَّعَايَةِ فِي الصَّلَاةِ الْأَعْظَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

مخصوص کئے گئے ہیں عظیم تر صلاح اور بہتری کے لیے سعی و کوشش کے شرف کے ساتھ صلوات بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر

صَلَاةً دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةً الدَّوَامِ عَلَىٰ مَرَّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ فَهُوَ سَيِّدُ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْ

ایسی صلوات جو دائم اور مستمر ہو تمام گزرتی راتوں اور دنوں میں پس وہ سردار ہیں سب اولین و آخرین کے

الْآخِرِينَ وَأَفْضَلُ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمُصَلِّينَ وَأَزْكَى

اور افضل ہیں اولین و آخرین سے۔ انہیں پر ہو افضل ترین صلوات سب صلوات بھیجنے والوں سے اور

سَلَامٍ الْمُسَلِّمِينَ وَأَطْيَبُ ذِكْرِ الدَّائِرِينَ وَأَفْضَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَحْسَنُ صَلَوَاتِ

پاکیزہ تر سلام۔ سب سلام بھیجنے والوں سے اور پاکیزہ تر ذکر تمام ذکر کرنے والوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صلوات سے افضل ترین صلوات اور احسن ترین

اللَّهِ وَأَجَلُّ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَجْمَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَكْمَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَسْبَغُ صَلَوَاتِ

صلوات اور صلوات اللہ میں سے بزرگتر صلوات اور صلوات اللہ میں سے انتہائی جمیل صلوات اور صلوات اللہ میں سے کامل ترین صلوات اور صلوات اللہ

اللَّهِ وَأَتْعُّ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَظْهَرُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَعْظَمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَسْرُكِي

میں سے وسیع تر صلوات اور صلوات اللہ میں سے اعلیٰ ترین اور صلوات اللہ میں سے روشن تر اور صلوات اللہ میں سے عظیم تر صلوات اور صلوات اللہ میں

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَطْيَبُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَبْرَكُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَزْكَى صَلَوَاتِ اللَّهِ

سے پاکیزہ ترین صلوات اور تمام صلوات اللہ میں سے زیادہ طیب صلوات اور تمام صلوات اللہ میں سے زیادہ بابرکت صلوات اور تمام صلوات اللہ میں سے پاکیزہ

وَأَنْبَى صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَوْفَى صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَسْنَى صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَعْلَى

ترین صلوات اور سب صلوات اللہ میں سے زیادہ صلوات اور سب صلوات اللہ میں سے اعلیٰ صلوات اور تمام صلوات اللہ میں سے بلند مرتبہ صلوات اور تمام صلوات

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَكَثْرُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَجْمَعُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَعْمُ صَلَوَاتِ

اللہ میں سے عالی مرتبتہ صلوات اور تمام صلوات اللہ میں سے کثیر صلوات اور تمام صلوات اللہ میں سے جامع تر صلوات اور تمام صلوات اللہ میں سے عام تر



اللَّهُ وَأَدْوَمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَبْقَى صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَعَزُّ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَرْفَعُ

اور تمام صلوات اللہ سے دوام میں زائد صلوات۔ اور تمام صلوات اللہ سے بقا میں زائد صلوات۔ اور تمام صلوات اللہ سے عزیز تر صلوات۔ اور سب

صلوات اللہ وَأَعْظَمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَى أَفْضَلِ خَلْقِ اللَّهِ وَأَحْسَنِ خَلْقِ اللَّهِ

صلوات اللہ سے بلند تر صلوات اور تمام صلوات اللہ سے عظیم ترین صلوات ہو اس ذات اقدس پر جو سب مخلوق خدا سے افضل ترین اور احسن ترین ہیں۔

وَأَجَلِّ خَلْقِ اللَّهِ وَآكْرَمِ خَلْقِ اللَّهِ وَأَجْمَلِ خَلْقِ اللَّهِ وَأَكْمَلِ خَلْقِ اللَّهِ وَآتَمَّ

اور سب مخلوق خدا سے جلیل ترین۔ اور سب مخلوق سے اکرم اور خلق خدا سے اجمل۔ اور خلق خداوند تعالیٰ سے اکمل اور تمام مخلوق سے کامل ترین

خَلْقِ اللَّهِ وَأَعْظَمِ خَلْقِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ وَنَبِيِّ اللَّهِ وَحَبِيبِ اللَّهِ وَ

اور تمام مخلوق سے عظیم ترین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے عبد خاص اور اس کے رسول اور نبی اور حبیب اور

صَفِيِّ اللَّهِ وَنَجِيِّ اللَّهِ وَخَلِيلِ اللَّهِ وَوَلِيِّ اللَّهِ وَأَمِينِ اللَّهِ وَخَيْرَةِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِ

صفی ہیں اس کے ہمکلام۔ اور خلیل۔ اللہ تعالیٰ کے دوست اور اللہ کے امین اور اس کے چنے ہوئے ہیں ساری مخلوق سے

اللَّهُ وَنُجْبَةِ اللَّهِ مِنْ بَرِيَّةِ اللَّهِ وَصَفْوَةِ اللَّهِ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَعُرْوَةِ اللَّهِ وَعَصْمَةِ

اللہ کے منتخب کئے ہوئے ہیں مخلوق خداوند تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے خالص کئے ہوئے ہیں تمام انبیاء اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کا مضبوط وسیلہ ہیں

اللَّهُ وَنِعْمَةِ اللَّهِ وَمِفْتَاحِ رَحْمَةِ اللَّهِ الْمُخْتَارِ مِنْ رُسُلِ اللَّهِ الْمُنْتَخَبِ مِنْ

اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور اس کی نعمت۔ اور رحمت خداوندی کی چابی جو کہ تمام رسولوں میں سے چنے ہوئے ہیں اور انتخاب کئے ہوئے

خَلْقِ اللَّهِ الْفَائِزِ بِالْمَطْلَبِ فِي الْمَرْهَبِ وَالْمَرْغَبِ الْمَخْلَصِ فِي مَا وَهَبَ الْكَرَمِ

ہیں خلق خداوند تعالیٰ سے۔ جو کامران ہیں اپنے مطلب کے ساتھ ہر مقام میں خوف کا ہو یا رغبت کا اور ممتنا نظر رائے ہوئے ہیں جملہ عطیات

مَبْعُوثِ أَصْدَقِ قَائِلِ أَنْجَحِ شَافِعٍ وَأَفْضَلِ مُشَفِّعِ الْأَمِينِ فِيمَا اسْتَوْدِعَ

میں انتہائی صاحب کرامت رسول ہیں اور سب سے زیادہ سچے قول والے ہیں۔ کامیاب ترین شفیع ہیں۔ اور حق شفاعت دئے جانے والوں میں سے افضل ہیں امانتدار

الصَّادِقِ فِيمَا بَلَغَ الصَّادِعِ بِأَمْرِ رَبِّهِ الْمُضْطَلِعِ بِمَا حَمَلَ أَقْرَبِ رُسُلِ اللَّهِ إِلَى

ہیں تمام امانتوں میں جو ان کے سپرد کی گئیں۔ سچے ہیں اور تبلیغی ہیں۔ پوری قوت صرف کرنے والے ہیں اپنے رب کے امین مضبوطی وثبات قدسی سے کام لینے والے ہیں اس

اللَّهُ وَسَيْلَهُ وَأَعْظَمِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَفَضِيلَةً وَآكْرَمِ الْأَنْبِيَاءِ الْكِرَامِ

جو بھری جوان بڑا لایا گیا تمام رسل سے قریب ترین طرف اللہ کے از روئے وسیلہ کے اور ان تمام سے عظیم ترین روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں از روئے منزلت اور فضیلت کے



الصَّلَاةَ عَلَى اللَّهِ وَأَحِبَّهُمْ إِلَى اللَّهِ وَأَقْرَبَهُمْ زُلْفَى لَدَى اللَّهِ وَأَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ وَ

اور چنے ہوئے انبیاء و کرام میں سے استثنائی بزرگ ہیں اللہ کے ہاں اور سب محبوب تر ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور ان سے قریب تر ہیں باعتبار قرب اللہ تعالیٰ کے ہاں۔

أَحْظَاهُمْ وَأَرْضَهُمْ لَدَى اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِخَيْرِ نَوَارِكٍ وَمَعْدِنِ

اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اکرم ہیں اس کے نزدیک اور عظیم تر حصے والے ان تمام سے۔ اور ان سب پسندیدہ اللہ کے نزدیک سارے اللہ صلوات بھیج ہمارے آقا محمد پر جو تیرے

أَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعَرُوسِ مُمْلِكَتِكَ وَإِمَامِ حَضْرَتِكَ وَطَرِيزِ مُلْكِكَ وَ

انوار کا سمندر اور ترسے اسرار کی مدد کان ہیں تیری حجت کے ترجمان تیری مملکت کے دو لہا تیری بارگاہ کے امام۔ تیرے ملک کا نقش و نگار۔

خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيقِ شَرِيعَتِكَ الْمُتَلَدِّ بِتَوْحِيدِكَ أُنْسَانَ عَيْنِ الْوُجُودِ

تیری رحمت کے خزانے ہیں اور تیری شریعت کا راستہ۔ ذوق حاصل کرنے والے ہیں تیری توحید کے ساتھ۔ چشم وجود کا نور ہیں

وَالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ عَيْنِ أَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُورِ ضِيَائِكَ صَلَاةً

اور تمام موجودات کا سبب ایجاد تیری مخلوق کے ارکان و اصول کی اصل اور بنیاد ہیں۔ سب مخلوق سے مقدم ہیں تیرے نور ضیاء سے۔ اسی صلوات

تَدْوُمِ بَدَاؤِكَ وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لِهَادُونَ وَعَلَيْكَ صَلَاةٌ تَرْضِيكَ

جو دائم ہو تیرے دوام کے سبب اور باقی رہے تیری بقا کی بدولت جس کی انتہاء نہ ہو سو تیرے علم کے۔ اسی صلوات جو تجھے راضی کرے

وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَتَا يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَشِيرِ عَنْ سَاعِدِ

اور انھیں راضی کرے اور تو سبب اس کے راضی ہو جائے ہم سے۔ اے رب العالمین۔ اے اللہ صلوات نازل فرما جو ہر دم کے دست دوازو سے آستینیں

الْجِدِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُسْتَعِينِ فِي مَرْضَاتِكَ غَايَةَ الْجُهْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

چڑھانے والے پر۔ اے اللہ صلوات بھیج اس ذات اقدس پر جو کام میں لانے والے ہیں تیری رضامندی میں اپنی پوری قوت کو۔ اے اللہ صلوات بھیج

النَّبِيِّ الْخَاتِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّسُولِ الْخَاتِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُصْطَفَى الْقَائِمِ

نبی آخر الزمان پر۔ اے اللہ صلوات بھیج رسول آخر الزمان پر۔ اے اللہ صلوات بھیج مصطفیٰ پر جو تیرے حقوق کے ساتھ قائم ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءِ الرَّحْمَةِ وَمِيمِ الْمُلْكِ وَدَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ

اے اللہ صلوات بھیج ہمارے آقا محمد پر جو رحمت کی حاء ہیں۔ اور ملک کا میم۔ دوام کی دال ہیں۔ سردار ہیں

الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ عَدَدَ مَا فِي عَيْنِكَ كَأَنَّ أَوْقَدَ كَانَ كَلِمًا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ

صاحب کمال ہیں۔ اول نبی ہیں۔ اور آخری نبی بھی مطابق احوال ان اشیاء کے جو تیرے علم میں ہیں موجود ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں جب بھی ذکر کرے

الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ صَلَوَاتُ دَائِمَةٍ بَدَأَ بِكَ

تیرا اور ان کا ذکر کرنے والے اور جب کبھی غافل ہوں تیرے ذکر سے اور ان کے ذکر سے غفلت والے ایسی صلوات جو دائم ہوتی رہے دوام تک

بَاقِيَةٌ بِبِقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ

اور باقی ہوتی رہے بقا تک جس کی انتہاء نہ ہو بغیر تیرے علم کے بیشک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ أَبِي نَسْرٍ

صلوات بھیج ہمارے آقا محمد پر جو نبی امی ہیں اور آپ کی آل پر جو (آقا) سب آفتابانے ہدایت سے زیادہ

الْهُدَى نُورًا وَأَبْهَرَهَا وَأَسِيرَ الْأَنْبِيَاءِ فَخَرَّوْا أَشْهَرَهَا وَنُورَهُ أَنْ هَرَّ أَنْوَارُ الْأَنْبِيَاءِ

ہی روشن ہے باعتبار نورانیت اور سب زیادہ نمایاں ہے۔ اور سب انبیاء سے اعلیٰ سیرت والے ہیں انروئے خیر کے اور سب مشہور ترین اور ایک نور سب

وَأَشْرَفَهَا وَأَوْضَحَهَا وَأَمْرُكِي الْخَلِيقَةَ أَخْلَاقًا وَأَطْهَرَهَا وَأَكْرَمَهَا وَ

انبیاء کے نور سے زیادہ طاہر ہے اور شرف میں زائد۔ اور واضح ترین۔ اور ساری مخلوق سے پاکیزہ ترین انروئے اخلاق کے اور زیادہ طاہر اور کرامت والے اور

أَعَدَلُهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ أَبِي مِنَ الْقَبْرِ النَّامِ

سب عادل ترین ہیں اے اللہ صلوات بھیج ہمارے آقا محمد پر جو کہ بجز صوفیوں کے جاننے سے بھی زیادہ روشن ہیں

وَأَكْرَمُ مِنَ السَّحَابِ الْمُرْسَلَةِ وَالْبَحْرِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور بارش کے ساتھ بھیجے ہوئے بادلوں سے اور ٹھٹھیں ہاتھ سمندروں سے بھی زیادہ صاحبِ جود و کرم ہیں۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِي قُرِنَتْ الْبُرُكَةُ بِدَائِمَتِهِ وَمَحْيَاةُ

جو کہ نبی امی ہیں اور آپ کی آل پر جس (آقا) کی ذات کے ساتھ برکت کو متصل کروا گیا اور ان کے چہرہ اقدس کے ساتھ

وَتَعَطَّرَتْ الْعَوَالِمُ بِطَيْبِ ذِكْرِهِ وَسَرِيَاةُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُصْطَفَى

اور معطر ہو گئے ہیں تمام جہان ان کے ذکر کی خوشبو سے اور ان کے حسین منظر سے۔ اے اللہ صلوات بھیج اپنے نبی مصطفیٰ

وَسَسْؤَلُكَ الْمُرْتَضَى وَوَلِيِّكَ الْمُجْتَبَى وَأَمِينِكَ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ

اور رسول مرتضیٰ پر اور اپنے ولی مجتبیٰ پر اور آسمانی وحی میں اپنے امین پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ الْأَسْلَافِ الْقَائِمِ بِالْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ

اے اللہ صلوات بھیج محمد پر جو تمام اسلاف سے عزت والے ہیں اور عدل و انصاف کے قائم کرنے والے ہیں

الْمَنْعُوتِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ الْمُنْتَخِبِ مِنْ أَصْلَابِ الشَّرَافِ وَالْبَطُونِ

جن کی نعت وثناء سورہ اعراف میں کی گئی ہے۔ جو منتخب اور خلاصہ ہیں بزرگ اصلاہ اور عمدہ ارحام سے (ظاہر ہونے والوں کا)

الْطَّرَافِ الْمُصَفَّى مِنْ مُصَاصِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الَّذِي

صاف اور منزہ ہیں عبد المطلب بن عبد مناف کی نسل سے جن کی بدولت

هَدَيْتَ بِهِ مِنَ الْخِلَافِ وَبَيَّنْتَ بِهِ سَبِيلَ الْعَفَافِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تو نے ہدایت اور رہنمائی فرمائی اخلاقی امور میں۔ اور ان کے ذریعے واضح کیا پاکدامنی کا راستہ لے اللہ صلواتہ بیج

مُحَمَّدًا نُورِ الْهُدَى وَالْقَائِدِ إِلَى الْخَيْرِ وَالِدَاعِي إِلَى الرَّشْدِ نَبِيِّ

محمد کریم پر جو نور ہدایت ہیں۔ اور خیر کی طرف قیادت کرنے والے اور بھلائی کی دعوت دینے والے ہیں۔ نبی

الرَّحْمَةِ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ كَمَا بَلَغَ

رحمت ہیں۔ متقیوں کے امام اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کے بعد نبی نہیں بنایا جائے گا (ایسی صلواتہ بیج) جیسے کہ

رِسَالَتِكَ وَتَصَرُّعِ عِبَادِكَ وَتَلَايَايَتِكَ وَأَقَامَ حَدُودَكَ وَوَفَّى بِعَهْدِكَ وَأَنْفَذَ

انہوں نے تیرے احکام پہنچائے۔ اور غزواتی فرمائی تیرے بندوں کے لیے، تیری آیات کی تلاوت کی۔ تیرے حدود کو قائم کیا تیرے عہد کو پورا کیا

حُكْمَكَ وَأَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَوَالَى وَلِيِّكَ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ تُؤَالِيَهُ وَعَادَى

اور نافذ کیا تیرے حکم کو اور تیری اطاعت کا حکم دیا۔ اور دوست رکھا تیرے ان دوستوں کو جن سے دوستی تجھے پسند تھی۔ اور عداوت رکھی

عَدَاوَةَ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ تُعَادِيَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

تیرے ان اعداء سے جن کے ساتھ عداوت تجھے پسند تھی۔ اور صلواتہ بیجے اللہ تعالیٰ ہمارے آقا محمد پر۔ لے اللہ صلواتہ بیج

عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

نبی ہاشمی محمد پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور سلام بیججے جیسے کہ سلام کا حق ہے۔ لے اللہ درود بیججے

مُحَمَّدَ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ صَلَوَاتُكَ تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا أَرْحَمَ

محمد کریم پر جو ساری مخلوق کے سردار ہیں۔ ایسا درود جو تجھے پسند ہو اور اس محبوب کا پسندیدہ ہو اور راضی ہو جائے تو بسبب اس کے ہے کہ

الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا طَيِّبًا

لے ارحم الراحمین۔ لے اللہ صلواتہ بیججے محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور سلام بیججے کثیر تعداد میں جو طیب اور



مُبَارَكًا فِيهِ جَزِيلًا جَمِيلًا دَائِمًا يَدَاؤُهُ وَأَمْرًا مَلِكِ اللَّهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ شَابًا زَكِيًّا

بارکت ہر عظیم و جلیل ہو اور دائمی ہو ساتھ دوام ملک باری تعالیٰ کے اور صلوات بھیج محمد کریم پر جبکہ وہ جوان و پاکیزہ ہیں

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَهْلًا مَرْضِيًّا وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَنْدُوكَانَ فِي الْمُهْدِ صَبِيًّا وَ

اور صلوات بھیج محمد کریم پر جبکہ وہ بچہ عمر اور پسندیدہ (اخلاق) ہیں اور درود بھیج محمد کریم پر جب کہ وہ بچے تھے پلنگھڑے میں اور

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

صلوات بھیج محمد کریم پر حتی کہ نہ باقی رہے صلوات سے کوئی شے۔ اے اللہ صلوات بھیج محمد پر

إِلْمَاعُوتٍ مِنْ تَهَامَةٍ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِسْتِقَامَةِ وَالشَّفِيعِ لِأَهْلِ الذُّنُوبِ

جو بھیجے گئے ہیں تہامہ سے اور نیچی اور راست روی کا حکم دینے والے ہیں۔ اور شفیع ہیں گناہگاروں کے ایسے

فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ أَنْبِيَائِكَ وَأَكْرَمِ أَصْفِيَائِكَ

اوقات قیامت میں۔ اے اللہ صلوات بھیج محمد پر جو تیرے تمام انبیاء سے افضل اور اصفیاء سے اکرم ہیں

وَأِمَامِ أَوْلِيَائِكَ وَخَاتَمِ أَنْبِيَائِكَ وَحَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَشَهِيدِ الْمُرْسَلِينَ

اور تیرے تمام اولیاء کے امام اور تیرے سب انبیاء کے خاتم ہیں اور حبیب ہیں رب العالمین کے اور گواہ ہیں تمام رسولوں کے

وَشَفِيعِ الْمُنْذَرِينَ وَسَيِّدِ وُلْدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ الْمَرْفُوعِ الذِّكْرِ فِي الْمَلْعَكَةِ

اور شفیع عاصیاں ہیں اور سردار ہیں تمام اولاد آدم کے جن کا ذکر ملائکہ مقررین میں

الْمُقَرَّبِينَ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ السَّرَاحِ الْمُنِيرِ الصَّادِقِ الْأَمِينِ الْحَقِّ الْمُبِينِ الرَّؤُوفِ

بلند کیا ہوا ہے جو راہل طاعت کو بشارت دینے والے اور راہل عصیان کو ٹرانے والے ہیں۔ روشن چراغ ہیں۔ صادق و امین ہیں

الرَّحِيمِ الْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي آتَيْتَهُ سَبْعًا مِنَ الثَّنَائِي وَالْقُرْآنِ

واضح حق ہیں اور بہت مہربان رحم فرمانے والے ہیں۔ رہنمائی فرمانے والے ہیں صراط مستقیم کی جن کو عطا کیں تو نے سات آیات تکرار کی جا جو اہلین زمانہ

الْعَظِيمِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَهَادِي الْأُمَّةِ أَوَّلِ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَيَدْخُلُ

اور قرآن عظیم جو رحمت والے نبی ہیں اور امت ہادی۔ پہلے فرد جن سے حجاب قبر چھٹ کر الگ ہوگا اور پہلے شخص جو داخل ہوں گے

الْجَنَّةِ وَالْمُوَيْدِ بِجَبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ الْمُبَشِّرِ بِهِ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنجِيلِ الْمُصْطَفَى

جنت میں۔ جن کو نائید و تقویت دی گئی ہے جبرئیل اور میکائیل کے ساتھ۔ جن کی بشارت دی گئی ہے تورات و انجیل میں جو مصطفیٰ

الْمُجْتَبَى الْمُنْتَخَبِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ

مجتبے اور منتخب ہیں البراقم محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَوَّابِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ الْمَنْعُوتِ فِي الْكِتَابِ

اے اللہ صلوات بھیج محمد پر جو (نیری طرف) بہت رغبت رکھنے والے نبی اور حق کے ساتھ کلام کرنا والے ہیں جو تبارک نے اپنے نبیوں کے لئے اللہ کی

النَّبِيِّ عَبْدِ اللَّهِ النَّبِيِّ كُنْزِ اللَّهِ النَّبِيِّ حُجَّةِ اللَّهِ النَّبِيِّ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ

کتابوں میں۔ ایسے نبی جو اللہ کے بعد خاص ہیں۔ ایسے نبی جو اللہ کا خزانہ ہیں۔ ایسے نبی جو اللہ کی برہان ہیں۔ ایسے نبی جو ان کی اطاعت کرے

أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الرَّمَزِيِّ

اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ایسے نبی جو عربی، قریشی ہیں اور رمزی،

الْمَكِّيِّ التَّهَامِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ قَاهِرِ الْمُضَادِّينَ مُبِيدِ الْكُفْرَيْنِ

مکہ اور تھامہ والے ہیں۔ اے اللہ صلوات بھیج محمد پر جو مخالفین پر قہر فرمانے والے ہیں، کفار کو ہلاک کرنے والے ہیں

وَقَاتِلِ الْمُشْرِكِينَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحْجَلِينَ إِلَى جَدَّتِ النَّعِيمِ وَجَوَارِ الْكَرِيمِ

مشرکین کو قتل کرنے والے اور نورانی چہروں اور روشن اعضاء والوں کے قائد ہیں جنات نعیم کی طرف اور الشکریم کے قرب کی طرف

صَاحِبِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَشَفِيعِ الْمَدْنِيِّينَ وَ

جو جبرئیل کے ساتھی ہیں۔ رب العالمین کے رسول۔ شفیع عاصیاں ہیں اور

غَايَةِ الْغَمَامِ وَمُصْبِحِ الظُّلَامِ وَقَمِيرِ التَّهَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ

بادلوں کی غایت ہیں اور تاریکیوں میں روشن چراغ ہیں اور ماہ تمام ہیں۔ درود بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر

الْمُصْطَفَيْنِ مِنْ أَطْهَرِ جِبَلَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ مِنْ

جو چنے ہوئے ہیں پاکیزہ ترین جبلت اور تمیر سے۔ اے اللہ صلوات بھیج محمد پر جنہیں ارسال فرمایا اللہ تعالیٰ نے

أَرْجِحِ الْعَرَبَ مِيزَانًا وَأَوْضَحِهَا بَيَانًا وَأَفْضَحِهَا لِسَانًا وَأَشْهَخِهَا إِيْمَانًا وَ

اس شان سے کہ وہ سب عرب پر وزنی ہیں انروئے میزان کے اور سب سے واضح ترین ہیں باعتبار کلام کے اور فصیح ترین ہیں باعتبار زبان کے اور بلند ترین

أَعْلَاهَا مَقَامًا وَأَحْلَاهَا كَلَامًا وَأَوْفَاهَا ذِمَامًا وَأَصْفَاهَا رَغَامًا وَأَعْلَى

انروئے ایمان کے۔ بلند ترین انروئے مقام کے اور شیریں ترین ہیں باعتبار کلام کے اور سب سے زیادہ نھانے والے ذمہ داروں کے اور بہت صافی ہیں انروئے جہر و طہیت

النَّاسِ قَدْرًا وَأَعْظَمَهُمْ مَحَلًّا وَكَبَلَهُمْ مَحَاسِنًا وَفَضَلًا وَأَفْضَلَ الْأَنْبِيَاءِ

کے اور بلند ترین ہیں تمام لوگوں سے ازروئے قدر کے اور عظیم ترین ہیں ازروئے مقام کے اور کامل ترین ہیں ازروئے محاسن اور فضائل کے اور افضل ہیں تمام

دَرَجَةً وَكَبَلَهُمْ شَرِيعَةً وَأَشْرَفَ الْأَنْبِيَاءِ نَصَابًا وَأَيَّنَهُمْ بَيَانًا وَخَطَابًا

انبیاء سے ازروئے درجات کے اور کامل ترین ہیں باعتبار شریعت کے اور بزرگتر ہیں تمام انبیاء سے ازروئے اصل کے اور ان سے واضح ترین

وَأَفْضَلَهُمْ مَوْلِدًا وَمَهَا جِرًا وَعِثْرَةً وَأَصْحَابًا وَكَرَمَ النَّاسِ أَمْوَمَةً وَ

ازروئے بیان اور خطاب کے۔ اور ان سے افضل ہیں باعتبار دار ولادت اور دار ہجرت کے اور ازروئے اولاد و اصحاب کے۔ اور تمام لوگوں کے اکرم ہیں باعتبار خیر

أَشْرَفَهُمْ جُرْتُمَةً وَخَيْرَهُمْ نَفْسًا وَأَطْهَرَهُمْ قَلْبًا وَأَصْدَقَهُمْ قَوْلًا

اور بزرگتر ہیں باعتبار اصل کے اور بہتر ہیں ازروئے نفس کے اور پاکیزہ ترین ہیں ازروئے قلب کے اور سب سے زیادہ سچے ہیں اقوال میں۔

وَأَزْكَاهُمْ فِعْلًا وَأَثْبَتَهُمْ أَصْلًا وَأَوْفَاهُمْ عَهْدًا وَأَمْكَنَهُمْ مَجْدًا وَ

اور سب سے پاکیزہ ترین ہیں افعال میں اور مضبوط ترین ہیں ازروئے اصل کے اور بہت پورا کرنے والے ہیں عہد کے اور راستح ترین ہیں ازروئے مجر کے اور

أَكْرَمَهُمْ طَبْعًا وَأَحْسَنَهُمْ صُنْعًا وَأَطْيَبَهُمْ فِرْعًا وَأَكْثَرَهُمْ طَاعَةً وَ

ان سے اکرم ہیں ازروئے طبع کے۔ اور خوبتر ہیں ازروئے صنعت کے اور پاکیزہ ترین ہیں ازروئے فرع کے اور اکثر ہیں باعتبار طاعت کے اور

سَمْعًا وَأَعْلَاهُمْ مَقَامًا وَأَحْلَاهُمْ كَلَامًا وَأَزْكَاهُمْ سَلَامًا وَأَجَلَّهُمْ

سمیع کے اور بلند ترین ہیں باعتبار مقام کے اور شیریں ترین ہیں ازروئے کلام کے اور پاکیزہ ترین ہیں ازروئے سلام کے اور بزرگتر ہیں

قَدْرًا وَأَعْظَمَهُمْ نَسَبًا وَأَسْنَاهُمْ فَخْرًا وَأَرْفَعَهُمْ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى

ان تمام سے ازروئے منزلت کے۔ اور بلند ترین ہیں ازروئے نسب کے اور روشن ترین ازروئے فخر کے اور ان سے بلند ترین ہیں ملائعہ الاعلیٰ میں

ذِكْرًا وَأَوْفَاهُمْ عَهْدًا وَأَصْدَقَهُمْ وَعْدًا وَأَكْثَرَهُمْ شُكْرًا وَأَعْلَاهُمْ

باعتبار ذکر کے اور زیادہ وفا کرنے والے ہیں ان تمام سے عہد کی اور سب سے زیادہ سچے ہیں وعدہ میں اور سب سے زیادہ شکر گزار ہیں اور بلند ترین ہیں

أَمْرًا وَأَجَلَّهُمْ صَبْرًا وَأَحْسَنَهُمْ خَيْرًا وَأَقْرَبَهُمْ يُسْرًا وَأَبْعَدَهُمْ

ازروئے امر کے اور مجید ترین ہیں ازروئے صبر کے۔ اور حسین ترین ہیں ازروئے خیر کے۔ اور قریب ترین ہیں ازروئے یسر کے اور بلند ترین ہیں

مَكَانًا وَأَعْظَمَهُمْ شَأْنًا وَأَثْبَتَهُمْ بُرْهَانًا وَأَسْرَجَهُمْ مِيزَانًا وَأَوْلَاهُمْ

باعتبار منزلت کے۔ اور عظیم ترین شان والے ہیں اور مضبوط ترین برہان والے اور انتہائی وزنی میزان والے۔ اور سب سے اول ہیں۔



إِيمَانًا وَأَوْضَحِهِمْ بَيَانًا وَأَفْصَحَهُمْ لِسَانًا وَأَظْهَرَهُمْ سُلْطَانًا فَأَوْضَحَ

ازروئے ایمان کے۔ اور واضح تر یہی ازروئے بیان کے۔ اور فصیح تر یہی ازروئے زبان کے اور غالب تر یہی ازروئے حکومت کے،

الطَّرِيقَةَ وَنَصَحَ الْخَلِيقَةَ وَشَهَرَ الْإِسْلَامَ وَكَسَّرَ الْأَصْنَامَ وَ

پس آپ نے واضح کر دیا طریقت کو اور نصیحت فرمائی مخلوق کو اور ظاہر کیا اسلام کو اور ٹکڑے ٹکڑے کیا اصنام کو اور

أَظْهَرَ الْأَحْكَامَ وَحَظَرَ الْحَرَامَ وَعَمَّرَ بِالْإِنْعَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَفْضَلِ

ظاہر کیا احکام اسلام کو۔ اور ممنوع ٹھہرایا حرام کو اور سب کا احاطہ کیا ساتھ انعام کے۔ صلوات بھیجی اللہ تعالیٰ افضل ترین ذات

مَنْ طَابَ مِنْهُ النَّجَارُ وَسَمَّيَاهِ الْفَخَامُ وَأَسْتَنَارَتْ بِنُورِهَا جَبِينُهُ

پر جن کی بدولت پاکیزہ ہوئے حسب اور نسب۔ اور بلند ہوئے سامان فخر اور روشن ہوئے ان کے نور جبین سے

الْأَقْمَارُ وَتَضَاءَ لَتْ عِنْدَ جُودِ يَمِينِهِ الْغَمَائِمُ وَالْبَحَارُ سَيِّدِنَا وَ

ماہتاب۔ اور حقیر معلوم ہونے لگے۔ ان کے دست جو دروزنال کے آگے بادل اور سمندر ہمارے آقا اور

نَبِينَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَبَاهِرَ آيَاتِهِ أَضَاءَتْ الْأَنْجَادُ وَالْأَغْوَامُ وَ

نبی محمد جن کی روشن آیات کے ساتھ نورانی ہو گئے فراز اور نشیب۔ اور

بِعُجْزَاتِ آيَاتِهِ نَطَقَ الْكُتُبُ وَتَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ان کے معجزات آیات کے ساتھ لطق کیا کتب الیہ نے اور متواتر ہوئیں ان کی خبریں۔ اے اللہ صلوات بھیج محمد پر

الَّذِي هُوَ قُطْبُ الْجَلَالَةِ وَشَمْسُ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَالْهَادِي عَنِ

جو قطب جلالت ہیں اور شمس نبوت و رسالت ہیں۔ اور ہدایت دینے والے ہیں۔

الضَّلَالَةِ وَالْمُنْقِذُ مِنَ الْجَهَالَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

گراہی سے۔ اور بچانے والے ہیں جہالت سے۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوات بھیج

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَسِيلِ السَّيِّدِ النَّبِيلِ الَّذِي جَاءَ بِالْوَحْيِ وَالْتَنَزِيلِ

محمد پر جو زم نوح نبی ہیں اور بلند مرتبت سردار ہیں جو وحی اور کلام منزل لائے

وَأَوْضَحَ بَيَانَ التَّأْوِيلِ وَجَاءَهُ الْأَمِينُ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور واضح کیا حقیقی مراد کے بخم روشن کو۔ اور لائے آپ کے پاس امین (روحی) جبرئیل علیہ السلام

بِالْكَرَامَةِ وَالتَّفْضِيلِ وَأَسْرَى بِهِ الْمَلِكُ الْجَلِيلُ فِي اللَّيْلِ الْبَهِيمِ

کرامت و فضیلت کے ساتھ اور سیر کرانی انہیں ملک جلیل نے اس رات میں جو تاریک

الطَّوِيلِ فَكَشَفَ لَهُ عَنْ أَعْلَى الْمَلَكُوتِ وَأَرَاهُ سَنَا الْجِبْرُوتِ وَنَظَرَ

اور طویل تھی اور ان کے لیے پرزے ہٹا دئے ملکوت بالا سے اور انہیں دکھلائی جبروت کی ضیاء و چمک اور مشاہدہ کیا انہوں

إِلَى قُدْرَةِ الْحَيِّ الدَّائِمِ الْبَاقِي الَّذِي لَا يَمُوتُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

نے اس ذات اقدس کی قدرت کا جو ہمیشہ کے لیے زندہ، دائم، باقی ہے اور کبھی فوت نہیں ہوگی۔ اے اللہ درود بھیج محمد پر

نَبِيِّكَ وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَعَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَأَصْفِيَائِكَ مِنْ

جو تیرے نبی ہیں۔ اور ابراہیم پر جو تیرے خلیل ہیں۔ اور اپنے تمام انبیاء پر اور منتخب مخلصین پر خواہ

أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَاوَاتِكَ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءِ نَفْسِكَ وَزِنَانَةِ

اہل ارض سے ہوں یا اہل سما سے مطابق تعداد اپنی مخلوق کے اور اپنی ذات کی رضامندی کے اور مطابق

عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى عِلْمِكَ وَزِنَانَةِ جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِكَ

اپنے عرش کے وزن کے اور مطابق اپنے کلمات کی سیاہی کی (مقدار کے) اور اپنے معلومات کی انتہاء کے مطابق۔ اور تمام مخلوقات

صَلَاةٍ مُكْرَّرَةً أَبَدًا عَدَدَ مَا أَحْصَى عَلَيْكَ وَمِلْءًا مَا أَحْصَى

کی مقدار کے مطابق ایسی صلوٰۃ جس میں کثرت تکرار ہو ہمیشہ کے لیے مطابق تعداد ان اشیاء کے جن کا احاطہ کیا تیرے علم نے اور مطابق حجم ان اشیاء

عِلْمِكَ وَأَضْعَافَ مَا أَحْصَى عَلَيْكَ صَلَاةً تَزِيدُ وَتَفُوقُ وَ

کے جن کو محیط ہوا علم تیرا اور چند در چند اس سے جس کا احاطہ کیا تیرے علم نے ایسی صلوٰۃ جو زائد اور فائق ہو اور

تَفْضُلُ صَلَاةِ الْبَصِلِينَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ كَفَضْلِكَ

بزرگ ہوان تمام لوگوں کی صلوات سے جن پر تمام مخلوق کی طرف سے صلوات بھیجی گئی ہوں مانند تیری فضیلت اور

عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ

بزرگی کے اور اپنی تمام مخلوق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج ہمارے آقا محمد پر اور سلام بھیج ان پر اور

أَجْزَهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ حَيْثُ تِلْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جزاء دے انہیں ہماری طرف جس کے وہ تیرے حبیب اہل ہیں۔ اس درود کو نین مرتبہ پڑھا جائے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج ہمارے آقا



إِبْرَاهِيمَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَأَجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ خَلِيدًا ثَلَاثًا

ابراہیم پر اور سلام بھیج اور جزا دے انہیں ہماری طرف سے جس کے وہ تیرے خلیل اہل ہیں اس درود کو بھی تین مرتبہ پڑھا جائے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآدَمَ وَنُوحَ وَإِبْرَاهِيمَ

اے اللہ صلوات بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آدم و نوح و ابراہیم

وَمُوسَى وَعِيسَى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ

اور موسیٰ و عیسیٰ اور ان کے درمیان کے تمام انبیاء و مرسلین پر

صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ثَلَاثًا اللَّهُمَّ

اللہ تعالیٰ کی صلوات ہوں اور تسلیات ہوں ان تمام پر اے اللہ اس درود کو تین مرتبہ پڑھا جائے

صَلِّ عَلَى أَبِيْنَا آدَمَ وَأُمَّنَا حَوَاءَ صَلَوَاتِكَ وَأَعْطِهِمَا

اے اللہ صلوات بھیج ہمارے باپ آدم - ہماری اماں حواء پر مانند صلوات تیرے تمام ملائکہ کے اور عطا فرما ان کو

مِنَ الرِّضْوَانِ حَتَّى تَرْضِيَهُمَا وَأَجْزِهِمَا اللَّهُمَّ أَفْضَلَ مَا

اپنی رضامندی سے حتیٰ کہ تو انہیں راضی فرمائے اور انہیں جزا عطا کرے اللہ افضل ترین جستار ہو

جَانَرَيْتَ بِهِ أَبَا وَأُمَّعَنْ وَلَدَيْهِمَا ثَلَاثًا اللَّهُمَّ صَلِّ

ان تمام جزاؤں سے جو تو نے دیں کسی بھی باپ اور ماں کو ان کی اولاد کی طرف سے - اے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَعِزْرَائِيلَ

بھیج ہمارے آقا جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل و عزرائیل پر

وَحَمَلَةَ الْعَرْشِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ

اور حاملین عرش پر - اور تمام مقرب ملائکہ پر - اور تمام انبیاء

وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ثَلَاثًا

و مرسلین پر - اللہ تعالیٰ کی صلوات و تسلیات ہوں ان تمام پر اے تین مرتبہ پڑھا جائے

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ وَعَلَى أَبِيْنَا

صلوات بھیجے اللہ تعالیٰ محمد پر جو نبی رحمت ہیں اور سید امت اور ہمارے باپ

أَدْمَرُوا مَنَا حَوَاءَ وَمَنْ وَكَدَامِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَ

آدم اور ماں حواء پر اور جن کو جہنم دیا ان دونوں نے انبیاء و صدیقین اور

الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَصَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ أَجْمَعِينَ مِنْ

شہداء و صالحین میں سے - اور صلوات بھیج اپنے تمام ملائکہ پر

أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۞

آسمان والے ہوں یا زمین والے - اور ہم پر بھی ساتھ ان کے اے ارحم الراحمین -

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ الْمُطَهَّرِينَ

اے اللہ صلوات بھیج اپنے ملائکہ مقربین پر اور انبیاء مطہرین پر

وَعَلَى رُسُلِكَ الْمُرْسَلِينَ وَحَمَلَةِ عَرْشِكَ وَعَلَى جِبْرِيلَ وَ

اور اپنے تمام بھیجے ہوئے رسولوں پر اور اپنے حاملین پر (بالخصوص) جبرئیل پر اور

مِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمَلِكِ الْمَوْتِ وَرِضْوَانَ خَازِنِ جَنَّتِكَ

میکائیل و اسرافیل اور ملک الموت پر اور جنت کے نگران رضوان پر

وَمَالِكٍ وَصَلِّ عَلَى الْكُتَّابِيِّينَ وَصَلِّ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ

اور (دوزخ کے نگران) مالک پر - اور صلوات بھیج کراما کاتبین پر - اور صلوات بھیج اپنے تمام طاعت گزاروں

أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ

پر آسمان والوں سے ہوں یا زمین والوں سے - پس صلوات بھیج ان پر

صَلَاةً دَائِمَةً تَزِيدُهُمْ بِهَا فَضْلًا وَتَجْعَلُنَا لِاسْتِغْفَارِهِمْ

ایسی صلوات جو دائم ہو بڑھائے تو ان کے لیے بسبب اس کے بزرگی اور کہے تو ہمیں ان کی ذمہ سے مغفرت کا

بِهَا أَهْلًا اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ الَّذِينَ

بسبب اس صلوات کے حقدار - اے اللہ صلوات بھیج اپنے تمام انبیاء اور رسل پر

شَرَحَتْ صُدُورَهُمْ وَأَوْدَعَتْهُمْ حِكْمَتَكَ وَطَوَّقَتْهُمْ

جن کے سینے تو نے کشادہ فرمائے اور ان میں امانت رکھا اپنی حکمت کو اور طاقت بخشی انہیں



نُبُوتِكَ وَأَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ كُتُبَكَ وَهَدَيْتَ بِهِمْ خَلْقَكَ وَدَعَوَّا إِلَى

اپنی نبوت کی اور نازل فرمایا ان پر اپنی کتابوں کو اور ہدایت دی تو نے ان کے ذریعے اپنی مخلوق کو اور دعوت دی انہوں نے

تَوْحِيدِكَ وَشَقَّوْا إِلَى وَعْدِكَ وَخَوْفُوا مِنْ وَعِيدِكَ وَأَرْشَدُوا

تیری توحید کی طرف اور شوق دلایا تیرے وعدہ (جنت) کی طرف اور خوف زدہ کیا تیری وعید (نار) سے اور رہنمائی کی

إِلَى سَبِيلِكَ وَقَامُوا بِحُجَّتِكَ وَدَلَّيْلِكَ وَسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلِّمًا

تیرے راستہ کی اور قائم کیا تیری حجت و دلیل کو اور سلام بھیجے اللہ ان پر جیسے سلام کا حق ہے

وَهَبْ لَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً

اور عطا فرما ہمیں ان پر درود بھیجنے کے بدلے اجر عظیم۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج ان پر ایسی صلوٰۃ جو

تَفُوقٌ وَتَفْضُلٌ صَلَاةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ

فوقیت و فضیلت والی ہو ان تمام لوگوں کی صلوٰت سے جن پر صلوٰت بھیجی گئیں تمام مخلوق کی طرف سے

كَفْضِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً دَائِمَةً تُسْتَمِرَّةً

مانند تیری فضیلت و فوقیت کے اور تمام مخلوق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج ان پر ایسی صلوٰۃ جو دائم ہو اور ہمیشہ بقرار رہنے

الدَّوَامِ عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ مُتَّصِلَةً الدَّوَامِ لَا انْقِصَاءَ لَهَا وَلَا انْقِصَامَ

والی ہر شب و روز کی گردش میں جس کے دوام میں انصال و تسلسل ہو اور انتہام و انقطاع کبھی نہ ہو

عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ عَدَدَ كُلِّ وَابِلٍ وَطَلَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ

تمام گردشِ یل و نہار میں مطابق تعدادِ موملا و حار بارش اور بھیجے ہر کے کلمات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج اپنے ملائکہ

الْمُقَرَّبِينَ الَّذِينَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وَلَا يَعْصُونَ

مقربین پر جو کہ تسبیح کتے ہیں شب و روز بالکل نہیں ٹھکتے اور نہ نافرمانی براری کرتے ہیں

اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُمَّ وَكَمَا اصْطَفَيْتَهُمْ سَفَرَاءَ

اللہ تعالیٰ کی اس میں جو انہیں حکم دے۔ اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم دے جاتے ہیں۔ اے اللہ اور جیسے چن لیے ہے تو نے ان کو بطور

إِلَى رُسُلِكَ وَأُمَّتَاءَ عَلَى وَحْيِكَ وَشَهِدَاءَ عَلَى خَلْقِكَ وَخَرَقْتَ لَهُمْ

سفیر کے طرف اپنے رسولوں کے اور امتدادوں کے اپنی وحی پر اور بطور گواہوں کے اپنی مخلوق پر اور چھڑوئے تو نے ان کے لیے

كُنْفَ حَبِيكَ وَأَطْلَعْتَهُمْ عَلَى مَكُونِ غَيْبِكَ وَاخْتَرْتَ مِنْهُمْ

اپنے جناب کے پہلو اور مطلع کیا انہیں اپنے چھپے غیب پر اور اختیار کیا تو نے ان میں سے

خَزَنَةَ لَجْنَتِكَ وَحَبَلَةَ لِعَرْشِكَ وَجَعَلْتَهُمْ مِنْ أَكْثَرِ جُنُودِكَ وَ

جنت کے لیے نگرانوں کو۔ اور اپنے عرش کے لیے حائلین کو اور بنایا تو نے انہیں اپنے تمام جنود و عساکر سے زائد اور

فَضَّلْتَهُمْ عَلَى الْوَرَى وَأَسَكَنْتَهُمُ السَّمَوَاتِ الْعُلَى وَنَزَّهْتَهُمْ عَنِ

فضیلت دی انہیں ساری مخلوق پر اور مٹھرایا انہیں بند آسمانوں میں اور پاک پیدا کیا انہیں

الْمَعَاصِي وَالذَّنَائِبِ وَقَدْ سَتَّهُمْ عَنِ النَّقَائِصِ وَالْأَفَاتِ فَصَلِّ

معاصی اور زناہل سے اور منزہ کیا انہیں نقائص اور آفات سے پس صلوات بھیج

عَلَيْهِمْ صَلَوَةً دَائِمَةً تَزِيدُهُمْ بِهَا فَضْلًا وَتَجْعَلُنَا لِاسْتِغْفَارِهِمْ

ان پر ایسی جو دائم ہو بڑھائے تو انہیں بسبب اس کے از روئے فضیلت و برتری کے اور کرے تو ہمیں ان کی دعا کے مغفرت

بِهَا أَهْلًا وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِمْ صَلَوَةً دَائِمَةً مُتَّصِلَةً تَتَوَالَى وَتَدْوُمُ

کا بسبب اس صلوات کے حقدار اور صلوات بھیج لے اللہ ان پر ایسی صلوات جو دائم ہو اور مسلسل ہو پے در پے ہو اور ہمیشہ برقرار رہی والی ہو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ وَالْمُرْسَلِينَ

لے اللہ صلوات بھیج اپنے ملائکہ مقربین پر۔ اور اپنے تمام انبیاء و مرسلین پر

وَعَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ وَاجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مِنَ الرَّحْمَةِ

اور تمام اہل طاعت پر اور بنا ہمیں ان پر صلوات بھیجنے کی برکت سے رحمت کئے ہوئے لوگوں میں سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتَّى تَرِثَ الْأَرْضَ وَمَنْ

اے اللہ صلوات بھیجتا رہے ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر حتیٰ کہ وراثت ہو جائے زمین کا اور جو کچھ

عَلَيْهَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اللَّهُمَّ كَمَا قَامَ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَ

اس پر ہے (بقائے عالم تک، اور تو ہی بہتر و برتر ہے تمام وارثوں سے۔ لے اللہ جیسے کہ قائم ہوئے نبی ساتھ رسالت کی ثققت کا اور

اسْتَنْقَذَ الْخَلْقَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَجَاهِدَ أَهْلَ الْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ وَدَعَا

بچایا انہوں نے مخلوق کو جہالت سے۔ اور جہاد کیا کفار اور گمراہوں کے ساتھ اور دعوت دی



إِلَى تَوْحِيدِكَ وَقَاسَى الشَّدَّ آتِدَ فِي إِرْتِيَادِ عَيْدِكَ فَأَعْطِهِ اللَّهُ سُلَّةً

تیری توحید کی طرف اور تکلیف برداشت کیں تیرے بندوں کی ہدایت میں پس عطا فرما انہیں لے اللہ ان کا صلوات

وَيَلْغُهُ مَأْمُولَهُ اللَّهُ صِلْ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْمُقَدَّسَةِ الْمُحِيطَةِ بِالْحَقَائِقِ

اور پہنچا انہیں ان کی آرزوں تک۔ لے اللہ صلوات بیچ اور حقیقت مقدسہ کے جو محیط ہے سب حقائق

وَالْأَعْيَانِ وَالنَّقْطَةِ الْبَسِيطَةِ الْمْتَهِمَةِ لِمَنَازِلِ الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَ

اور موجودات کو اور اس نقطہ (ومرکز) بسیطہ پر جو کہ تکمیل کرنے والہ ہے ایمان و اسلام اور احسان کے منازل و مراتب کی

الْإِحْسَانِ اللَّهُ يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الْغَمِّ وَمُجِيبَ دَعْوَةِ

یعنی حقیقت محمدیہ پر لے اللہ اے مشکلات کو دور کرنے والے، غم و آلام مٹانے والے - مجبوروں کی دُعا میں

الْمُضْطَّرِّينَ رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَرَحِيْبَهُمَا أَنْتَ تَرَحُّمِنِي فَارْحَمْنِي

قبول کرنے والے، رحمت کرنے والے، دنیا اور آخرت میں اور ان میں رحیم و مومنین کیلئے اتر ہی مجھ پر رحم کرتا ہے پس مجھے ایسی رحمت

بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ إِلَهِي قَدْ عَجَزْتُ قُدْرَتِي

سے نواز کہ بے نیاز کر دے بسبب اس کے دوسروں کی رحمت سے لے میرے خدا میری قدرت عاجز آ چکی ہے۔

وَقَلَّتْ حِيلَتِي وَضَعْفَتْ قُوَّتِي وَتَاهَتْ فِكْرَتِي وَأَشْكَتُ قَضِيَّتِي

اور میری چارہ سازی کم ہو چکی ہے۔ اور میری قوت ضعیف ہو چکی ہے۔ اور میری فکر پرانہ ہو چکی ہے اور شکل ہو گیا ہے تفسیر و معاملہ میرا

وَسَاءَتْ حَالَتِي وَبَعْدَتْ أُمْنِيَّتِي وَعَظَمَتْ حَسْرَتِي وَتَصَاعَدَتْ

اور برا ہو گیا ہے حال میرا۔ اور دور ہو گئی ہے آرزو میری (رہنے سے) اور عظیم ہو گئی ہے حسرت میری اور بلند ہو گئی ہیں

زَقْرَتِي وَأَنْصَحَ مَكُونُ سِرِّيْرَتِي وَسَأَلْتُ عِبْرَتِي وَأَنْتَ مَلْجَأِي

آہیں میری۔ اور کھل چکا ہے باطنی حال میرا۔ اور رواں ہو چکے ہیں آنسو میرے۔ آنسو میرے اور تو ہی میری جانے پناہ ہے

وَوَسِيْلَتِي وَإِلَيْكَ أَرْفَعُ بَيْتِي وَحَزْنِي وَشَكَايَتِي وَأَرْجُوكَ لِدَفْعِ

اور وسیلہ ہے اور تیری بارگاہ میں ہی پیش کرتا ہوں اپنا غم و اندوہ اور اپنی شکایت اور تجھی سے امید دار ہوں اپنی مصیبت کے

مِلَّتِي يَا مَنْ يَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَّتِي إِلَهِي يَا بَايَكُ مَفْتُوْحٍ لِلسَّأْلِ

دور کرنے میں لے کہ جانتا ہے میرے خفیہ اور علانیہ کو۔ لے بار الہ تیرا در اقدس کھلا ہے ہر سال کے لیے



وَفَضْلِكَ مَبْدُوكَ لِلسَّائِلِ وَإِيَّاكَ مُنْتَهَى الشُّكْوَى وَغَايَةَ الْمَسْأَلِ

اور تیرا فضل واحسان صرف ہونے والا ہے ہر بھکاری کے لیے اور تیری طرف ہی انتہا ہے ہر شکایت کی اور نہایت ہے تمام حاجات کی

إِلٰهِ رُحْمَدٍ مَعِيَ السَّائِلِ وَجَسْبِي النَّائِلِ وَحَالِي الْحَائِلِ وَشِبَابِي

سے بار الا رحم فرما میرے جتنے آنسوؤں پر اور میرے نیچے جسم پر اور میری تاریک حالت پر - اور میری ٹھلکی

الْمَائِلِ يَا مَنْ إِلَيْهِ رَفَعُ شُكْوَى يَا عَالِمَ السِّرِّ وَالتَّجْوَى يَا مَنْ يَسْمَعُ

جوانی پر اے کہ اسی کی طرف ہے میری شکایت کی پہنچ اور اے جاننے والے خفی و آشکار کے - اے کہ سنتا ہے

وَيَرَى يَا مَنْ هُوَ بِالنَّظْرِ الْأَعْلَى يَا رَبَّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ يَا مَنْ لَهُ

اور دیکھتا ہے - اے کہ منظر اعلیٰ پر قائم ہے - اے ارض و سما کے مالک - اے کہ اسی کیلئے ہیں

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يَا صَاحِبَ الدَّوَامِ وَالْبَقَاءِ يَا رَبَّ عَبْدِكَ قَدْ ضَاقتْ

حسین ترین نام اور اے دوام و بقا کے مالک - اے میرے رب تیرے بندے کیلئے تحقیق تنگ ہو چکے ہیں

بِهِ الْأَسْبَابُ وَغَلِقَتْ دُونَهُ الْأَبْوَابُ وَتَعَدَّسَ إِلَيْهِ سُلُوكُ أَهْلِ

اسباب و وسائل - اور بند ہو چکے ہیں اس کے آگے دروازے اور مشکل ہو گیا ہے اس پر سلوک اور کردار اہل

الطَّرِيقِ وَأَهْلِ الصَّوَابِ وَتَرَادِبُهُ الْهَمُّ وَالْغَمُّ وَالْإِكْتِنَابُ وَالنَّقْضَى

طریق اور اہل صواب کا - اور بڑھ گیا ہے اس کا اندوہ اور غم اور رنجیدگی اور ختم ہونے کو ہے

عُمُرُهُ وَلَوْ يَفْتَحُ لَهُ إِلَى فِيسِيحِ تِلْكَ الْحَضْرَاتِ وَمَتَاهِلِ الصَّفْوِ

عمر اس کی - اور نہیں کھلا اس کے لیے ان کشادہ بارگاہوں اور آب حسانی کے گھاٹ اور

الدَّرَجَاتِ بَابٌ وَأَنْصَرَمَتْ أَيَّامُهُ وَالتَّفْسُ رَاتِعَةٌ فِي مِيَادِينِ

درجات عالیہ کی طرف کوئی دروازہ - اور کٹے ہیں دن اس کے اس حال میں کہ اس کا نفس غفلت کے میدانوں میں

الْغَفْلَةِ وَدَفِنِي الْإِكْتِسَابِ وَأَنْتَ الْمَرْجُوُّ لِكُشْفِ هَذَا الْمَصَابِ

اور رذیل کسب و عمل میں منہمک رہا ہے - اور تو ہی مرکز امید و آرزو ہے اس مصیبت کے دور کرنے میں

يَا مَنْ إِذَا دُعِيَ أَجَابَ يَا سَرِيعَ الْحِسَابِ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ يَا عَظِيمَ

اے کہ جب دُعا کیا جائے تو قبول فرماتا ہے - اے جلد حساب لینے والے - اے رب الارباب اے عظیم



الْجَنَابِ يَا كَرِيمَ يَا وَهَّابُ رَبِّ لَا تَحْجُبْ دَعْوَتِي وَلَا تَرُدَّ سُلَّتِي

بارگاہِ والے۔ اے کریم اے عطا کرنے والے۔ اے میرے پروردگار نہ مجاب اور دوری میں رکھ میری دعا کو اور نہ رد فرما میرے سوال کو

وَلَا تَدَعْ عَنِّي بِحَسْرَتِي وَلَا تَكِلْنِي إِلَى حَوْلِي وَقُوَّتِي وَأَرْحَمُ عَجْزِي

اور نہ چھوڑ مجھے میری حسرتوں میں اور نہ سوچ مجھے میری طاقت و قوت کی طرف اور نرم فرما میری عاجزی

وَفَاقَتِي فَقَدْ ضَاقَ صَدْرِي وَتَاهَا فِكْرِي وَتَحَيَّرْتُ فِي أَمْرِي وَ

اور محتاجی پر کیونکہ میں تنگ دل ہو چکا ہوں۔ اور میری فکر پراگندہ ہو چکی ہے۔ اور میں سرگرداں ہو چکا ہوں اپنے امور میں اور

أَنْتَ عَالِمٌ بِسِرِّي وَجَهْرِي الْمَالِكُ لِنَفْعِي وَضَرِّي الْقَادِرُ عَلَيَّ

تو جانتے والا ہے میرے باطن اور ظاہر کو۔ مالک ہے میرے نفع اور نقصان کا۔ صاحب قدرت ہے میری

تَفْرِيجُ كُرْبِي وَتَيْسِيرُ عُسْرِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مشکلات دور کرنے پر اور تنگی کو آسانی میں بدلنے پر۔ اے اللہ صلوات بھیج اور سلام ہمارے آقا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ جُجُمَتِهِ وَ

اور آپ کی آل پر جو (آقا) اول ہیں ان تمام سے جن کے سروں پر سے پھٹ کر اٹک ہوگا مجاب قبر۔ اور

مَنْ يَنْظُرُ بَعْلُو مَنْزِلَتِهِ وَمَرْتَبَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

جو کامیاب ہوں گے بلند منزلت اور عالی مرتبت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بِرَفْعِ رَأْسِهِ

ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر جو مقدم ہیں ان تمام حضرات سے جنہیں اذن دیا جائے گا سر اٹھانے کے ساتھ

وَمَنْ يَدْخُقُ بِكَمَالِ قُرْبِهِ وَأَنْسَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

اور جو لاحق ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کمال قرب اور انس سے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ النَّاسِ قِيَامًا لِلْمَحْشَرِ وَالْكَثْرِ

محمد پر اور ان کی آل پر جو کہ سب لوگوں سے پہلے اٹھنے والے ہیں محشر کے لیے اور تمام انبیاء سے

الْأَنْبِيَاءِ أَتْبَاعًا وَأَوْقَرَهُمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زیادہ متبعین والے ہیں اور سب سے زیادہ وقار و عزت والے ہیں اے اللہ صلوات اور سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَائِدِ الْأُمَمِ إِذَا احْتَسِبُوا وَخَطِيبِ الْخَلْقِ

اور آپ کی آل پر جو راقا قائم ہوں گے تمام امتوں کے جب ان سے حاسب لیا جائیگا اور سب مخلوق کی طرف (اللہ تعالیٰ سے)

إِذَا احْسَبُوا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کلام کرنے والے ہر جگہ جب انہیں عشر میں رک دیا جائے گا۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو راقا

شَفِيعِ الْعِبَادِ إِذَا أَيَسُّوا وَأَفْضَلَ نِعْمِ اللَّهِ وَالْآيَةِ وَجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ

شفیع ہیں تمام بندوں کے جب وہ نامید ہونے لگیں اور اللہ کی طاہری اور باطنی نعمتوں میں سے افضل ترین نعمت ہیں اور تمام

يَوْمَ الْمَعَادِ تَحْتَ لَوَائِحِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

انبیاء قیامت کے دن انہیں کے لواحقین کے نیچے ہوں گے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَكُنْ فِي الْمَوْقِفِ مَنْ اسْتَقَلَّ قَدَمًا مَاهُ

آل پر کہ نہیں ہوگا میدان قیامت میں کوئی بھی کہ جس کے قدم ثابت اور مضبوط رہیں گے سوائے

غَيْرُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تُطِيعُهُ النَّاسُ

ان کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جن راقا کی اطاعت گزار ہوگی ناچشم

وَتَمَثَّلُ أَمْرَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور تمہیل کرے گی ان کے حکم کی۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي يَرُدُّ النَّارَ بِحَطَامِهَا عَنْ أُمَّتِهِ وَيُرْدِجُهَا عَنْ أَهْلِ

جو دور کریں گے آگ کو اسی کی سوکھی کھڑکیوں کے ساتھ اپنی امت سے اور اسے ہانک دیں گے اپنے اہل

مِلَّتِهِ وَمَحَبَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ملت اور اہل محبت سے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کو

يُنَادِيهِ خَازِنُ النَّارِ مَا تَرَكْتُ فِي أُمَّتِكَ مِنْ نِقْمَةٍ لِّغَضَبِ الْجَبَّارِ

پکار کر کہے گا۔ جہنم کا نگران کہ میں نے نہیں چھوڑا آپ کی امت میں بسبب انتقام کا واسطے غضب جبار کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کو



يَكْسُوهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُلَّةً خَضْرَاءَ يَعْرِفُهُ بِهِيَ الْعِبَادُ طُرًّا

پہنائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پریشاک کہ جس کے ذریعے انہیں تمام بندے پہچان لیں گے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي لَا أَحَدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَاكِبٌ سِوَاهُ وَجَمِيعُ الْخَلَائِقِ يُلُوذُونَ

کہ جس (آقا) کے بغیر کوئی بھی قیامت کے دن (سواری پر) سوار نہیں ہوگا۔ اور تمام مخلوق پناہ حاصل کرے گی ان کے

بِحِمَاةٍ يُنَادُونَهُ يَا مُحَمَّدُ اهْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سایہِ عاطفت میں پکاریں گے اے محمد یا محمد۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَلْتَقِطُ النَّارُ بِلِسَانِهَا مِنْ

اور آپ کی آل پر کہ جس (آقا) کی شان یہ ہے کہ، اچلے گی نار جہنم اپنی زبان سے میدان

الْمَحْشَرِ مَنْ جَحَدَ بِنُبُوَّتِهِ مِنَ الْبَشَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مشر سے ان کی نبوت کے منکرین کو بشروں میں سے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي إِذَا رَأَتْ النَّارُ

آقا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جب نار جہنم دیکھے گی

وَجْهَهُ الْحَسَنَ خَمِدَ لِهَيْبَتِهَا وَسَكَنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آپ کے حسین چہرہ کو تو اس کے شعلے بجھ جائیں گے اور ٹھہرائیں گے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَى

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو (آقا) کہ عرشِ خداوند تعالیٰ پر

الْعَرْشِ بِلَا أَرْتِيَابٍ وَيَهْبُهُ اللَّهُ مُلْكُهُ وَيُقْعِدُهُ مَكَانَ

بیشیں گے بلا ریب اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ملک عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بٹھائے گا انتہائی

الْأَشْرَفِ يَوْمَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بزرگ مکان پر حساب کے دن اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحَلَّهُ اللَّهُ مَحَلًّا أَثِيرًا وَجَعَلَ اللَّهُ

اور ہمارے آقا محمد کی آل پر جس (آقا) کو اللہ تعالیٰ انارے گا امتیازی محل و مکان میں اور بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے

لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ان کے لیے آخرت میں نعمتیں اور بہت بڑا ملک اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَلُوحُ نُورُهُ فِي عَرَصَاتِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کا نور چمکے گا قیامت کے میدانوں

الْقِيَامَةِ عَلَى الْخَلْقِ كَمَا يَلُوحُ الْبَرْقُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

میں تمام مخلوق پر جیسے بجلی چمکتی ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ تمام مومنین کے لیے

وَلِيًّا وَنَصِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ہمیشہ کارساز اور مددگار تھے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْلَ مَنْ يُرْتَدَىٰ بِرِدَائِ الْكِرَامَةِ وَمَنْ

کی آل پر وہ آقا کہ سب سے پہلے اوڑھیں گے کرامت کی چادر کو اور جن کی

يُقْضَىٰ لِأُمَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

امت کے لیے سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اے اللہ صلوات اور سلام بھیج ہمارے سردار محمد

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْلَ مَنْ يَفِيقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ

اور آپ کی آل پر جو کہ سب سے پہلے (جلال خداوندی کے ظہور پر طاری ہونے والی مدہوشی سے) افاقہ حاصل کریں گے نسبت تمام

الْخَلَائِقِ يَوْمَ قَطْعِ الْعَلَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

خلائق کے تمام رشتے اور بیوند منقطع ہونے کے دن۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْلَ مَنْ يُنَادَىٰ بِأَبِي وَأُمَّيْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں سب سے پہلے پکارا جائے گا "فلا ہوں ان پر میرے باپ اور ماں"

اَيُّنَ النَّبِيِّ اَلدُّمِيِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

کہ کہاں ہیں نبی امی - اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے سردار محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّبْدُو فِي الْمَعَادِ نُورًا وَجَمَالًا وَمَنْ

آل پر کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میں ظہور فرما ہو گا نور ان کا اور جمال ان کا - اور جن کے لیے

يَتَّجَلٰى لَهُ الرَّبُّ جَلًّا جَلَالُهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تجلی فرمائے گا (خصوصی طور پر) رب جل جلالہ - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما اوپر ہمارے آقا محمد کے

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ وَسَلَامًا يَّتَقَدَّسُ فِيهِمَا عَنْ

اور آپ کی آل اطہار کے ایسی صلوات اور سلام کہ آپ پاکیزہ تر ہو جائیں ان کی وجہ سے

عَوَارِضِ الْاِمْكَانِ لَوْ جُوْدًا يَّتَصَافَهُ بِالْكَمَالَاتِ وَعُمُوْرٍ عَصَمَتْهُ

امکان (احدوث) کے عوارض سے بسبب متحقق ہونے آپ کے انصاف کے ساتھ کمالات کے اور عام ہونے ان کی عصمت کے

عَنْ جَمِيْعِ الْخَطَرَاتِ مَا تَنَزَّرَتْ عَنْهُ عِزَّةٌ عَنِ النَّقْصِ وَالسُّلُوْبِ

تمام خطرات و دوساوس سے جب تک منزلہ رہے ان کے (بہا) عزت کی بلند چوٹی نقص اور عیوب سے

وَتَبَّتْ رَاسِخَةٌ مَّجْدِيْةٌ بِالذَّاتِ الْوَجُوْبِ لِاصْحَابِ اِمَّةِ الْهُدٰى لِمَنْ

اور ثابت کرے ان کی پائیدار بزرگی کے لیے ان کی ذات میں وجوب و لزوم واسطے اصحاب کے جو ائمہ ہدی ہیں واسطے ان کے

اَهْتَدٰى وَنَجُوْرٍ اِلٰقْتِدَا ؕ لِمَنْ اِقْتَدٰى مَا تَعَاقَبَ اَدْوَارُ النَّوْمِ وَ

جو ہدایت پانا چاہیں اور روز روشن ستارے جو قابل اقتداء کے ہیں ان کے لیے جو اقتداء کرنا چاہیں جب تک یکے بعد دیگرے نور کے دور آتے

اَشْرَقَتْ اَنْوَارُ الْاَسْرَارِ بِالْاَسْرَارِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ صَلِّ

رہیں اور روشن ہوتے رہیں اسرار کے انوار بسبب اسرار کے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا - صلوات بھیج

اَللّٰهُمَّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ يَّتَقَدَّسُ بِهَا فِرْعٰوْنُ

اے اللہ ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر ایسی صلوات کہ واصل ہو جائے بسبب اس کے میری فرج

اِلٰى اَصْلِيْ وَبَعْضِيْ اِلٰى كُلِّيْ لِتَتَّحِدَ ذَاتِيْ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِيْ بِصِفَاتِهِ

میرے اصل کے ساتھ اور میرا بعض میرے کل کے ساتھ تاکہ متحد ہو جائے میری ذات اس کی ذات کے ساتھ اور میری صفات اس کی صفات کے

وَتَقَرَّرَ الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَيَفِرَّ الْبَيْنُ مِنَ الْبَيْنِ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

اور قرار پڑے آنکھ ساتھ آنکھ کے اور کافر ہو جائے دوری درمیان سے - اور سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلَامًا أَسْلَمُ بِهِ فِي مُتَابَعَتِهِ مِنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر ایسا سلام کہ سلامت رہوں بسبب اس سلام کے آپ کی اتباع میں

التَّخَلُّفِ وَأَسْلَمُ فِي طَرِيقِ شَرِيعَتِهِ مِنَ التَّعَسُّفِ لِاقْتِحَابِ

پیچھے رہ جانے سے اور محفوظ رہوں ان کے راہ شریعت میں تکلف سے تاکہ کھولوں تیری اس محبت کا دروازہ

مَحَبَّتِكَ أَيَّامِي بِمِفْتَاحِ مُتَابَعَتِهِ وَأَشْهَدُكَ فِي حَوَاسِي وَأَعْضَائِي

جو مجھ سے ہے اپنی متابعت کی چابی کے ذریعے - اور میں تجھے موجود یاؤں اپنے حواس میں اور اعضاء میں

مِنْ مَشْكُوتِهِ تَشْرِعُهُ وَطَاعَتِهِ وَأَدْخَلَ وَرَاءَهُ إِلَى حِصْنِ لَا إِلَهَ إِلَّا

(بسبب اس نور کے جو ان کی شریعت اور طاعت کے چراغ دان سے حاصل ہو اور داخل ہو جائوں اس کے پیچھے لا الہ الا اللہ کے قلعے میں

اللَّهُ وَفِي أَثَرِهِ إِلَى خَلْقِهِ مَعَ اللَّهِ وَقَدْ أَلَّ اللَّهُ يَا رَبِّ كَيْسَ

اور آپ کی اتباع میں بیخ جاؤں طرف طاعت کی مع اللہ وقت کے یعنی اس خلوت خاص میں جو سید عالم کو باگاہ خداوندی میں حاصل ہے کہ دوسروں کے لیے اس

حِجَابُهُ إِلَّا التُّورُ وَلَا خَفَاءَهُ إِلَّا شِدَّةُ الظُّهُورِ أَسْأَلُكَ بِكَ فِي

وقت مخصوص میں وہاں رسائی نہیں ہے - لے اللہ میرے پروردگار جس کا حجاب نہیں ہے مگر نور اور نہیں اس کے خفا (کا سبب) مگر اعلیٰ درجہ کا ظہور میں سوال کرنا

مَرْتَبَةِ إِطْلَاقِكَ عَنْ كُلِّ تَقْيِيدٍ الَّتِي تَفْعَلُ فِيهَا مَا تَشَاءُ وَتُرِيدُ

ہوں تجھ سے تیری ذات کے وسیلے سے تیرے ہر تقیید سے اطلاق کے مرتبہ میں کہ جس میں تو کرتا ہے جو چاہتا ہے اور ارادہ کرتا ہے

بِكَشْفِكَ عَنْ ذَاتِكَ بِالْعِلْمِ التُّورِيِّ وَتَحْوِيلِكَ فِي صُورِ أَسْمَائِكَ

اپنی ذات سے پردے ہٹانے کا بسبب علم توری کے - اور ظہور فرما ہونے کے اپنے اسماء

وَصِفَاتِكَ بِالْوُجُودِ الصُّورِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور صفات کی صورتوں میں ساتھ وجود صورتوں میں ساتھ وجود صوری کے - لے اللہ صلواتہ وسلم بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يَشْفَعُ لِفُضْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ

اور آپ کی آل پر جو آقا سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے بندوں کے درمیان قضاء کے جاری کرنے کی

يَوْمَ التَّنَادِ وَمَنْ يَقُولُ فَيَسْمَعُ وَمَنْ يَشْفَعُ فَيَشْفَعُ اللَّهُ صَلِّ

قیامت کے دن اور وہ جو کہیں گے پس سنا جائے گا اور جس کی شفاعت فرمائیں گے اس کے حق میں آپ کو شفیع بنایا جائیگا۔ اے اللہ صلوٰۃ اور

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يَجُوزُ

سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سب سے پہلے گزریں گے

عَلَى الصِّرَاطِ بِأُمَّتِهِ وَأَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أُمَّتَهُ بِشَفَاعَتِهِ

پہل صراط پر سے بیچ اپنی اُمت کے۔ اور سب سے پہلے اپنی اُمت کو داخل کریں گے جنت میں شفاعت کے ذریعے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

أَوَّلِ مَنْ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْإِلْقَاءِ وَمَنْ يَأْخُذُ

جو آقا سب سے پہلے سجدہ ریز ہوں گے عرش کے نیچے قیامت کے دن اور جو سب سے پہلے پڑیں گے

بِحَلْقَةِ دَارِ الْبَقَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دار بقا (جنت) کی زنجیر کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ وَ

اور آپ کی آل پر جو سب سے پہلے جنت کے دروازے کھٹکھٹائیں گے۔ اور

أَوَّلِ الْخَلْقِ قَدْ وُضِعَ عَلَىٰ رِضْوَانِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ

سب سے پہلے رضوان جنت کے پاس تشریف لائیں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يَتَحَلَّىٰ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ سب سے پہلے مزین کئے جائیں گے

بِحُلِيِّةِ الْإِيْمَانِ وَمَنْ يَتَلَقَّاهُ حُورٌ الْجَنَّاتِ وَالْوُلْدَانُ

ایمان کے زیور کے ساتھ اور جن کا استقبال کریں گی جنتوں کی حوریں اور ولدان۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ أَوَّلَ مَنْ يَجْلِسُ عَلَى سَرِيرِ الرَّضَى وَمَنْ يَرْتَعِ فِي رِيَاضِ

جو آقا کہ سب سے پہلے بیٹھیں گے رضا کے تخت پر اور جو کھائیں گے آزادی کے ساتھ

الدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

سفید موتی کے باغات میں سے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور سیدنا

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلَ مَنْ يَلْقَى تَحِيَّةً وَسَلَامًا وَمَنْ يَتَمَثَّلُ

محمد کی آل پر جو سب سے پہلے پائیں گے (اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کے) تحفہ اور سلام کو اور جن کے روبرو

لَهُ الْخَلْقُ فِي الْجَنَّةِ قِيَامًا تَعْظِيمًا لِقُدْرَةِ وَإِكْرَامًا اللَّهُمَّ

مورتوں کی مانند تمام مخلوق جنت میں قیام کرے گی ان کی (مذاوا) قدر و منزلت کی تعظیم اور اکرام کے لیے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلَ مَنْ يَطَّأُ

صلوات بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ سب سے پہلے پاؤں رکھیں گے

الْفُرْشِ الْمَهْدَةِ وَمَنْ تَفْتَحُ لَهُ الْقُصُورَ الْمَشِيدَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ

ان بچھونوں پر جو ران کے لیے اچھے ہوئے ہوں گے اور سب سے پہلے جن کیلئے مضبوط عمارت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اے اللہ صلوات بھیج

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلَ مَنْ

اور سلام ہمارے آقا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو پہلے شخص ہوں گے

يَرْتَقِي فِي الْغُرَفَاتِ وَالذَّرَجَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو چڑھیں گے (جنت کے) بالا خانوں پر اور اس کے درجات پر۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلَ مَنْ يَتَحَفُّ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو پہلے شخص ہوں گے جنہیں تحفے دئے جائیں گے

بِالنِّعَمِ وَالْكَرَامَاتِ وَمَنْ يَتَكَبَّرُ عَلَى الْأَمْرَائِكَ فِي الْجَنَّةِ

نعمتوں اور عزتوں کے۔ اور جو تکبر اور اونٹ لگا کر بیٹھیں گے آرام دہ کرسیوں پر جنت میں ہوں گی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل اجماع پر

مُحَمَّدٍ أَوَّلَ مَنْ يَسْمَعُ غِنَاءَ الْخُورِ وَمَنْ يَجْلِسُ عَلَى كُتْبَانَ

جو پہلے شخص ہوں گے جو کہ سنیں گے حوروں کے ترانے اور جو تشریف فرما ہوں گے کستوری اور

الْبُسْكِ وَالْكَافُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کافور کے میلوں پر۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلَ مَنْ يَلْبَسُ تاجَ الْبَهَاءِ وَالْمَحَاسِنِ

کی آل پر جو پہلے شخص ہوں گے جو پہنیں گے تاج رونق اور خوبیوں کا

وَمَنْ يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آبِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَي

اور جو پئیں گے اس پانی سے جو متغیر نہیں ہوگا۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلَ مَنْ يَشْرَبُ

ہمارے آقا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ پہلے شخص ہوں گے جو نوش فرما دیں گے

مِنَ السَّرْحِ حَيْثُ الْمَخْتُومُ وَمَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ

مہر لگے شراب (جنت) سے۔ اور جو قیام کریں گے حی قیوم کے حضور (شفاعت کے لیے)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ أَوَّلَ مَنْ يَشْرَبُ بِكَاسِ الصَّفَا وَمِنْ أَنْهَارِ مَنْ

جو کہ سب سے پہلے نوش فرمائیں گے صاف و شفاف پیالوں سے اور ان نہروں سے

عَسَلٍ مُصَفًّى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جو صاف سحڑے شہدے (جاری) ہوں گی۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلَ مَنْ يَسْأَلُ فَيُعْطَى وَمَنْ تَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ النَّوَالِ

جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے۔ پس آپ کو (مُنْمَا نَمَا) دیا جائے گا اور جن کے لیے وا کئے جائیں گے دروازے

وَالْعَطَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلَ مَنْ يَنْصِتُ بِكَلَامِهِ

جو اور عطا کئے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر جو کہ پہلے شخص ہیں جن کے کلام و خطاب کرنے پر عمل خاموشی چھا جائے گی



وَخَطَابِهِ وَمَنْ يُحِطُ بِسَاحَةِ جَاهِهِ وَجَنَابِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اور جن کی جاہ و مرتبت کے صمن اور آنکھن اور بارگاہ رحمت میں (طلبکاران شفاعت کی طرف) ڈیرے ڈالے جائیں گے۔ اے اللہ صلوة و

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلٍ مَنْ يَنَالُ الْأَجْرَ وَالنَّوَابِ

سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب سے پہلے پائیں گے اجر اور ثواب

وَمَنْ يُوفِي أَجْرَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور جنہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے اے اللہ صلوة و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلٍ مَنْ يَجْنِي ثَمْرَةَ التَّوْحِيدِ وَالِاسْتِقَامَةِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب سے پہلے چنیں گے توحید اور استقامت کے پھل

وَمَنْ يَرُوي مِنْ مَنَهْلِ الْأَمْنِ وَالسَّلَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

اور جو سیراب ہوں گے امن و سلامتی کے گھاٹوں سے۔ اے اللہ صلوة و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلٍ مَنْ يَتَزَيَّأُ بِبَهْجَةِ الْأَمْنِ وَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب سے پہلے مزین ہوں گے امن و سرور کی رونق و

السُّرُورِ وَمَنْ يَتَشَمَلُ بِرِدَائِ الْبِرْكَةِ وَالْحُبُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہمارے ساتھ اور جو اوڑھیں گے برکت اور سرور کی چادر۔ اے اللہ صلوة و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلٍ مَنْ يَتَعَلَّى بِحِلْيَةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب سے پہلے آراستہ ہوں گے صدر نشینی

التَّصْدِيرِ وَالتَّقْدِيرِ وَمَنْ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ نَضْرَةُ النَّعِيمِ اللَّهُمَّ

اور قدرت کے زیور کے ساتھ اور جن کے چہرہ اقدس میں جاری ہوگی نعمتوں کی تروتازگی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلٍ مَنْ

صلوة و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جن کے لیے سب سے پہلے

تَحْتَفِلُ بِهِ الْمَحَافِلُ وَمَنْ تَتَزَيَّنُّ لَهُ الْقُبَابُ وَالْمَنَارِلُ اللَّهُمَّ

محفلیں سمیٹیں گی اور پیراستہ ہوں گے ان کے ایسے قہر جات اور منازل۔ اے اللہ





صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ

صلوة و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب سے پہلے

يَتَجَلَّى عَلَى قَبَّةِ الْفِرْدَوْسِ وَقُبَابِهِ وَمَنْ يَسْعَى بَيْنَ أَنْصَارِهِ وَ

جلوہ نمن ہوں گے فردوس کے قنبر پر اور دوسرے قبرجات پر اور جو رواں دواں ہوں گے اپنے انصار اور

أَصْحَابِهِ فِي حُلِيِّهِ وَأَتْوَابِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اصحاب کے درمیان اپنے ستموں اور پوشاکوں میں۔ اے اللہ صلوة و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ تَوَضَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ أِنِ الْفِضَّةُ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ سب سے پہلے بن کے آگے رکھے جائیں گے برتن چاندی اور

وَالذَّهَبُ وَمَنْ يَدْخُلُ بِيُوتِ الْقَصَبِ الَّتِي لَا صَخَبَ فِيهَا وَلَا

سونے کے۔ اور جو (سب سے پہلے) داخل ہوں گے موتیوں کے مہلات میں جہاں پر نہ شور ہوگا اور نہ

نَصَبُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ تَقَدَّ عَلَيْهِ

کوفت۔ اے اللہ صلوة و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جن پر سب سے پہلے

خَلَعَةُ الرِّسَالَةِ وَمَنْ تَوَضَّعَ عَلَيْهِ هَيْبَةُ الْجَلَالَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

خلعت رسالت چست کی جائے گی اور جن پر کواں جائے گی جلالت الہیہ کی ہیبت۔ اے اللہ صلوة و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يَنْزِلُ الْمَنْزِلَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب سے پہلے نازل فرمائیں گے

الْمُقَرَّبَ الرَّاقِي وَمَنْ يُطَوِّفُ عَلَيْهِ النَّدِيمُ وَالسَّاقِي اللَّهُمَّ صَلِّ

قرب والی بلند منزل میں۔ اور جن پر طواف کرتے ہوں گے ہم پیالہ ساقی اور پلانے والے ساقی۔ اے اللہ صلوة

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يُلْحِظُ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ پہلے شخص ہوں گے جو نظر عنایت کے ساتھ

بِعَيْنِ الْعِنَايَةِ وَمَنْ يُحْمَلُ عَلَى كَاهِلِ الْمَبْرَةِ وَالرَّعَايَةِ اللَّهُمَّ

دیکھے جائیں گے اور جو اٹھائے جائیں گے بڑو نیچی اور نگہداشت کے کاندھوں پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں سب سے پہلے

يُسَلِّكُ بِهِ ذَاتِ الْيَمِينِ وَمَنْ يُحَلِّي بِحُلِيِّ الدِّينِ اَنْعَمَ اللهُ

عرش اعظم کی دائیں جانب سے جایا جائے گا۔ اور جن کو خلعت پہنائی جائے گی ان لوگوں کی خلعتوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ

عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء علیہم السلام۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اِلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ تُفَادِلُهُ اَرْمَامَةُ الْمَفَاخِرِ وَمَنْ يُسَاقُ

سیدنا محمد کی آل پر جنہیں سب سے پہلے مفاخر کی نگاہیں سونپی جائیں گی اور ان کی طرف

لَهُ جَمِيعُ النَّعْمِ وَالذَّخَائِرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

پھرے جائیں گے سب انعامات اور ذخائر۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ اِلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّقُوْمُ مَقَامَ الشَّرَفِ الْعَالِيِّ وَمَنْ

آپ کی آل پر جو سب سے پہلے قائم ہوں گے شرف اعلیٰ کے مقام میں۔ اور جنہیں

يُطَرِّزُ بِطِرَازِ الْكَمَالِ وَالْمَعَالِي اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مزیں کیا جائے گا کمال اور اعلیٰ صفات کی تربیت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلَىٰ اِلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّتَقَلَّدُ قَلَادِئَ التَّكْرِيْمِ وَفَرَادِئَ

اور آپ کی آل پر جو سب سے پہلے تکریم کے ہارنگے میں پہنیں گے اور تعظیم کے

التَّعْظِيْمِ وَمَنْ يُزَفُّ اِلَى النَّعِيْمِ الْمَقِيْمِ وَالْعِزِّ الْمُسْتَدِيْمِ اَللّٰهُمَّ

درہائے یتا کے اور جنہیں دولہا بنا کر دائمی نعمتوں اور ابدی عزت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اِلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سب سے پہلے

يَقْتَعِدُ غَارِبَ السِّيَادَةِ وَمَنْ يَّمْتَطِي مِعْرَاجَ الْخَيْرَاتِ وَالزِّيَادَةِ

جگہ حاصل کریں گے اور سواری فرمائیں گے سیادت کے کاندھوں پر جو بلند ہوں گے خیرات اور ترقی کی سیڑھی پر



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ

لے اللہ صلوات اور سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو پہلے

مَنْ يَجْلِسُ عَلَى بَسَاطِ الْحَقِّ جَلَّ وَعَلَى وَمَنْ يَطَّلِعُ عَلَى عَجَائِبِ

شخص ہیں کہ بیٹھیں گے بساط حق جل و علی پر۔ اور جو مطلع ہوں گے ملکوتِ اعلیٰ

الْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کے عبادت پر۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ تَقَفُوهُ الرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَمَنْ يَطَّأ مَرَاتِبَ

آل پر جو کہ پہلے شخص ہیں کہ ان کے پیچھے چلیں گے تمام رسل اور انبیاء اور جو قدم رکھیں گے بلند مراتب کے

أَمَا كِنِ الْعُلْيَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مکانات کے درجات پر۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يُعْطَى نَفُوذُ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ وَكَنْ يَحْضُرُ

جو آتا پہلے شخص ہیں کہ جنہیں عطا کی گئی ہے (قوت) فعل اور قول کے نافذ کرنے کی اور جو حاضر ہونگے

مَعَاضِرَ الْفَخْرِ وَالطَّوْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فخر اور قوت کے معادل میں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يُدْعَى بِاسْمِهِ الْكَرِيمِ فِي جَنَّتِ

اور آپ کی آل پر جو سب سے پہلے پکارے جائیں گے اپنے اسمِ کریم کے ساتھ جنات

التَّعِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

نعیم میں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ صُورَةَ حُرُوفِ اسْمِهِ رَحْمَةً ظَاهِرَةً

کہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کے حروف کی صورت کو نمایاں رحمت

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَا يَبْقَى عَلَى صُورَتِهِ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْأَنْامِ إِلَّا

دنیا اور آخرت میں اور نہ باقی رہیں گے ان کی صورت پر آخرت میں مخلوق سے مگر



أَهْلُ دَارِ السَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دار سلام (جنت) والے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يَكْشِفُ شِدَاةَ الْأَزْمَاتِ وَمَنْ يَرْفَعُ عِظَائِمَ

جو سب سے پہلے دور فرمائیں گے تنگیوں کے شدائد کو اور جو اٹھادیں گے عظیم

الْغَمَرَاتِ عَنْ أَهْلِ الْغَفَلَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مذہوشیوں کو غفلت شعار لوگوں سے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ رَأَى فِي الْمَعَادِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے انہیں کی طرف قیامت کے دن

يُلْتَجَا وَمَنْ تُمَدِّدْ إِلَيْهِ أَكْفُ الْأُمَالِ وَالرَّجَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پناہ لی جائے گی اور انہیں کی طرف بڑھائی جائیں گی ہتھیلیاں آرزوں اور امیدوں کی۔ اے اللہ صلوات بھیج

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ

اور سلام سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے انہیں کی طرف

يُتَطَاوَلُ إِلَيْهِ بِالْأَعْنَاقِ وَمَنْ تَشْخَصُ إِلَيْهِ الْأَحْدَاقُ يَوْمَ

دراز کیا جائے گا گردنوں کو اور انہیں کی طرف اٹھیں گی نگاہیں جس دن اللہ تعالیٰ

يُكْشِفُ عَنْ سَاقِطِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی شان جلال ظاہر کی جائے گی۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يَرُكَبُ نَجَائِبَ السُّرُورِ

اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے وہی سوار ہوں گے سرور اور نوری

وَالنُّورِ عِنْدَ الْبُعْتِ مِنَ الْقُبُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

عمدہ سواروں پر قبروں سے اٹھانے جانے پر۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ تَعْنُوهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں سب سے پہلے عجز و نیاز سے پیش



الْوَجُوهُ لَدَفِ الْكَرْبِ وَالْمَكْرُوهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آئیں گے (پریشان) چہرے واسطے دور کرنے پریشانیوں کے اور شائد کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يَتَمَسَّكُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے جس (آقا) کے دامن رحمت سے چنگل مارے گی

الْخَلَائِقُ بِأَذْيَالِهِ خَوْفًا مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ وَنِكَالِهِ اللَّهُمَّ

تمام مخلوقات بسبب خوف کے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزا سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

صلوات اور سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يُحِيطُ بِهِ الْعَصَاةُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ

کہ پہلے پہل انہیں کے گرد گھیرا ڈالیں گے گنہگار جس دن کہ زمین کو بدل دیا جائے گا

غَيْرِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

دوسری حالت میں اور آسمانوں کو بھی۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يَتَّصَدَّرُ

ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو سب سے پہلے صدر نشین ہونگے

فِي مَحَافِلِ التَّصَدِيرِ وَالتَّمْكِينِ لِتَفْرِيجِ هُمُومِ الْمَدِينِ اللَّهُمَّ

صدرات اور قدرت و تصرف کی محافل میں واسطے دور کرنے گنہگاروں کی پریشانیوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يَلُودُ

صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے انہیں کی پناہ لیں گے

بِهِ الْقَرِيبُ وَالْقَاصِي مِنَ أَهْلِ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي اللَّهُمَّ

قریب اور بعید گنہگار اور عسایاں کار۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يَحْفَظُ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے انہیں کو بچائیں گے اور ان کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہونگے

بِهٖ اَهْلُ الْجَلَالَةِ يَتَّبِعُونَ رَايَةَ وَاَقْوَالَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ارباب جلالت اور بزرگ جو اتباع کریں گے آپ کی رائے اور ارشادات کی۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُطَافُ بِمَنْزِلِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے ہمیں انہیں کے منزل و کاشانہ کا طواف کرایا جائے گا

وَخِيَامِهِ تَمَسُّكَ بِعُلُوِّ جَاهِهِ وَمَقَامِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

واسطے چنگل مارنے کے ان کی بندی مرتبت اور رفعت مقام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُهَيَّا لَهُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ سب سے پہلے اس آقا کے لیے تیار کیا جائے گا۔

التَّاجِ وَالْمُنْبِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمَحْشَرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تاج رفعت اور منبر عظمت قیامت کے دن میدان محشر میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُخَاطَبُهُ الرَّبُّ

ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ سب سے اسی (محبوب) کے ساتھ کلام فرمائے گا رب

الْغَفُورِ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ وَاَحْفَظْ اَوْلَادِيْ

غفور جس دن کہ صور پھونکا جائے گا۔ اے اللہ مجھے حفظ و امان میں رکھ اور میری اولاد کو محفوظ رکھ

مِمَّا لَا تَرْضَاهُ وَمِنْ غَلْبَةِ الْاَعْدَاءِ وَمِنْ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ

ان تمام امور سے جو تجھے ناپسند ہوں۔ اور دشمنوں کے غلبہ سے اور نفس و شیطان سے

وَالشَّهْوَةِ وَالْحِرْصِ وَالْهَوَاۗءِ وَالتَّدْلِيْلِ فِي الدَّامِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ

اور شہوت و حرص۔ خواہش نفس اور زلت و بے آبروئی سے دونوں جہان میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں سب سے پہلے

تَطْيِرُ بِهِ مَلَائِكَةُ الْجَنّٰتِ بِاَجْنَحَةٍ مَّرْصَعَةٍ مِّنَ الدَّرِّ وَالْمَرْجَانِ

سیر کرائیں گے جنت کے فرشتے ان پروں پر (بٹھا کر) جو مرصع ہوں گے موتیوں اور مرجان کے ساتھ۔



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يُشْكِرُ عَلَى جَمِيعِ أَعْمَالِهِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَمْتَالِهِ

کہ سب سے پہلے شکر ادا کیا جائے گا ان کا ان کے تمام اعمال پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف سے اور اپنے مائل حضرات انبیاء کی طرف سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يُحْمَدُ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ

کہ سب سے پہلے انہیں کی حمد و ثناء کی جائے گی ان کے اعلیٰ اخلاق پر سب مخلوق کی طرف سے

عَلَى الْإِطْلَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

بغیر کسی استثناء کے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يُتَابُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى تَبْلِيغِ

کی آل اطہار پر کہ سب سے پہلے اس (آقا) کو ثواب دیا جائے گا تمام رسولوں میں سے اور پہنچانے

الرِّسَالَةِ لِلْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

احکام رسالت کے واسطے عالمین کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يُجَازِيهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى تَبْلِيغِ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جو اول اور سابق ہیں ان تمام سے جنہیں اللہ سبحانہ جزاء عطا کرے گا اور ادا

الْأَمَانَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کرنے امانت کے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يُقَابَلُ بِالرِّضَى وَالرِّضْوَانِ وَمَنْ يُعَامَلُ

کہ سب سے پہلے جن کے رو برو لائی جائے گی رضا اور خوشنودی۔ اور جن کے ساتھ معاملہ کیا جائیگا

بِالْجُودِ وَالْإِحْسَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جو دو احسان کے ساتھ۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور



عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلٍ مَنْ تَرَفَعُ لَهُ الْمَرَائِبُ الْمُحْتَوَنَةُ

آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے ان کے لیے اٹھائی جائیں گی نیز گام سواریاں

وَمَنْ تُبَسِّطُ لَهُ الزَّرَّابِيُّ الْمَبْتُوثَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور انہیں کے لیے بچھائے جائیں گے۔ گدے وسیع و عریض۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلٍ مَنْ يُحْتَضُّ إِلَىٰ زِيَارَةِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے اسی محبوب کو آمادہ کیا جائے گا واسطے زیارت کرنے

الْمَلِكِ الْمَوْلَىٰ وَمَنْ تَرَفَعُ لَهُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ اللَّهُمَّ

بادشاہ حقیقی کے۔ اور جن کے لیے بلند کئے جائیں گے درجات عالیہ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلٍ

صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا و محمد پر اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے انہیں کی

مَنْ يُرْفَعُ عَنْ أُمَّتِهِ مَخَافَ الْوَعِيدِ وَمَنْ يُسْرِعُ بِهِ إِلَىٰ عَرَصَاتِ

امت سے دور کئے جائیں گے خوف و خطرات و وعید (نار) کے اور جنہیں جلدی سے لے جایا جائے گا

دَارِ الْمَزِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

دار مزید (جنت) کے میدانوں کی طرف۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلٍ مَنْ يَنْتَالُ جَزِيلَ الْخَيْرَاتِ

آپ کی آل پر کہ جنہیں سب سے پہلے دی جائیں گی عظیم بھلائیاں

وَمَنْ يَبْتَكِرُ شَوَائِمَ الْبَرَكَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور جو سب سے پہلے وصول کریں گے ایسی برکات جو محیط (غلان) ہوں گی۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلٍ مَنْ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سب سے پہلے

يَقُومُ بِحَمْلِ الشَّهَادَةِ وَمَنْ يُؤَفِّقُهُ اللَّهُ قَصْدَهُ وَ

کھڑے ہوں گے شہادت کے بوجھ کے ساتھ اور جنہیں اللہ تعالیٰ پورا پورا عطا کرے گا ان کا مقصود اور



مُرَادَةُ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ان کی مراد۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يُؤْتَى لَهُ بِجَمِيلٍ وَعُدَّةٍ وَمَنْ يُقَامُ لَهُ بِكَمَالٍ

کہ سب سے پہلے جس کے لیے پورا کیا جائے گا حسین و عدہ اور جس کے لیے قائم کیا جائے گا (میزانِ حجاز) ان

فَضْلِهِ وَمَجْدِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کامل فضل اور مجد کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يُنَاجِيهِ الْمَلِكُ الْمَعْبُودُ وَمَنْ يُثْنِي عَلَيْهِ

کہ سب سے پہلے جس (محبوب) کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملکِ معبود بمکلام ہوگا۔ اور جن کی اللہ تعالیٰ ثنا فرمائے گا

اللَّهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ مِنَ الْكُرَمِ وَالْجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ساتھ ان اوصافِ کمال کے جن کے وہ اہل اور لائق ہیں یعنی ساتھ کرم اور جود کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ تُصَفُّ لَهُ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو پہلے شخص ہوں گے کہ ان کے لیے قطاروں میں لگائے جائیں گے

الصَّحَافِ وَالْأَوَانِي وَمَنْ تُقَرَّعُ عَيْنَاهُ بِالْمَقَاصِدِ وَالْأَمَانِي

(صفتی) پایے اور دوسرے برتن اور جن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا جائے گا مقاصد اور آرزوں (کو پورا کرنے) کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

أَوَّلِ مَنْ تَدْخُلُ عَلَيْهِ الْحُورُ مِنْ أَهْلِ الْقُصُورِ وَالْغُرُفِ

کہ جو پہلے شخص ہوں گے کہ حاضر ہوں گی ان کی بارگاہ میں حوریں بنبیت تمام محلات اور بالاخانوں کے باسیوں کے

بِالْهُدَايَا وَالشُّحْفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ساتھ ہدایا اور شحف کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ تَهْتَرُ إِلَيْهِ قُلُوبُ

اور آپ کی آل پر کہ جو پہلے شخص ہوں گے کہ وجد میں آجائیں گے متوجہ ہوتے ہوئے طرف ان کے اکابرین

الْكَابِرِ شَوْقًا لِنُورِهِ الْبَاهِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کے قلب ان کے روشن نور کے شوق (دیدار) میں۔ اے اللہ صداۃ و سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مَنْ يُعَانِقُ الْحُورَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو سب سے پہلے معانقہ فرمائیں گے خوبصورت ترین

الْحَسَانَ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ إِنَّ اللَّهَ نَسَّكَ بِاسْمِكَ

حوروں کے ساتھ جنات کے باغات میں۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے بظیفیل تیرے اسم

الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْكَبِيرِ الْأَكْبَرِ الَّذِي مَنْ أَسْعَدْتَهُ

کے جو عظیم و اعظم اور کبیر و اکبر ہے کہ جسے تو نے سعادت مند بنایا اور سزاوار

وَرَحْمَتَهُ أَلْهَمْتَهُ أَنْ يَدْعُوَكَ بِهِ وَيَمَعَاقِدَ الْعِزَّ

رحمت بنایا اس کو الہام کیا کہ تجھ سے دعا کرے اس کے وسیلہ سے (لہذا سوال کرتے ہیں) اور بظیفیل عزت

مِنْ عَرْشِكَ وَبِمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ أَنْ تُقْسِمَ

وہاں منازل کے تیرے عرش سے۔ اور بظیفیل منتہائے رحمت کے تیری کتاب سے کہ حقدہ بخشے

لَنَا مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ مَا تُصَلِّحُ بِهِ شَأْنَنَا كُلَّهُ وَأَنْ

ہمیں رحمت اور مغفرت کا اس قدر درست فرما دے ساتھ اس کے ہمارے تمام معاملات اور یہ کہ

تُحْيِيَنَا حَيَوَةً طَيِّبَةً فِي أَرْضِ عَيْشٍ وَأَهْنَى يَا جَابِعُ يَأْمَنْ

ہمیں زندہ رکھے پاکیزہ زندگی کے ساتھ فراخ اور خوشگوار گزران میں اے جمع کرنے والے (خلائن) کے اے وہ

لَا يَمْنَعُهُ عَنِ الْعَطَاءِ مَا نَعَى يَا مُعْطَى التَّوَالِ قَبْلَ السُّؤَالِ

ذات کہ جس کے لیے عطا سے روکنے والا کوئی امر مانع نہیں ہے اے جو دروواں فرمانے والے قبل سوال کے۔

فَتَوْلَنَا يَا مَوْلَانَا فَأَنْتَ بِنَا أَوْلَى يَا مَوْلَايَ يَا قَادِرُ يَا مَوْلَايَ

پس ہماری کارسازی فرما اے ہمارے مولیٰ کیونکہ تو ہمارے بہت قریب ہے اے میرے آقا۔ اے قدرتوں والے اے میرے مولیٰ

يَا غَافِرُ يَا لَطِيفُ يَا خَيْرُ الْهَنَافِ فَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُخْلِصِينَ

اے بخشنے والے۔ اے صاحب لطف و کرم۔ اے (ظاہر و باطن کی) خیر رکھنے والے۔ اے میرے مجبوروں کو ہمیں اربابِ اخلاص میں سے

مَنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ مِنْ أَهْلِ الْيَقِينِ وَارْعَنَا بِرِعَايَتِكَ وَ

جو کہ سالك ہي راہ حقيقت کے اہل يقين ميں سے ۔ اور ہماری رعایت فرما اپنی رعایت مخصوصہ کے ساتھ اور

أَحْفَظْنَا بِرِافَتِكَ لِنَكُونَ مِنَ الْأَمِينِينَ وَأَرْشِدْنَا إِلَى سَبِيلِكَ

ہمیں محفوظ فرما اپنی مہربانی کے ساتھ تاکہ ہم ہو جائیں اطمینان والوں سے ۔ اور ہماری رہنمائی فرما اپنی راہ کی طرف

لِنَكُونَ مِنَ الْعَمَلِينَ طَرَاتٌ وَرَلِيَّ ۗ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ

تاکہ ہو جائیں ہم با عمل لوگوں سے ۔ بیشک میرا متولی امور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کتاب کریم کو نازل فرمایا

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ الْهَنَاقَا غَسْنَا فِي بَحْرٍ مِنْ نُورٍ هَيْبَتِكَ

اور وہی نیک لوگوں کا کارساز ہے ۔ اے ہمارے خدا ہمیں غوطہ دے اپنے نور ہیبت کے سمندر میں ۔

حَتَّى نَخْرِبَ وَفِي أَمْرٍ وَأَحْنًا شُعَاتُ رَحْمَتِكَ وَقَابِلُنَا بِنُورِ اسْمِكَ

حتی کہ جب ہم اس سے باہر نکلیں تو ہماری روحوں میں تیری رحمت کی شائیں جلوہ گر ہوں ۔ اور ہماری طرف توجہ فرما اپنے اسم حسین کے

الْمُبِينِ وَأَمْلَأْ وَجُودَنَا بِوَجُودِ سِرِّكَ الْمَخْرُوجِ حَتَّى نَرَى الْكَمَالَ

نور کے ساتھ اور بھر پور فرما ہمارے وجود ۔ اپنے راز مخفی کے وجود سے حتی کہ ہم مشاہدہ کریں کمال

الْمُطْلَقِ فِي الْمَكُونِ الْمُطْلَقِ الْمَصُونِ وَأَشْهَدْنَا مَشَاهِدًا

مطلق کا اس (حقیقت) مطلق میں جو مخفی بھی ہے اور عوام کی رسائی سے محفوظ ہے ۔ اور دکھلاہیں اپنے مقدس نظارے

قُدْسِكَ مِنْ غَيْرِ تَقَلُّبٍ وَلَا فَنُونٍ وَاجْعَلْنَا مَدَدًا رُوحَانِيًّا

بغیر کسی تغیر کے اور تہوع کے اور ہمیں عطا فرما روحانی امداد اور ترقی

تَغْسِلْنَا مِنَ الْحَبَا الْمَسْتُونِ وَأَدْرِ كُنَّا بِاللُّطْفِ الْخَفِيِّ

کہ دھو دے ہمیں لبیب اس کے (خمیر والی) سیاہی مائل بدبودار مٹی کے اثرات سے ۔ اور احاطہ فرما ہمارا مخفی لطف و کرم کیساتھ

الَّذِي هُوَ أَسْرَعُ مِنْ طَبَقِ الْجُفُونِ وَأَوْقِفْنَا مَوَاقِفَ الْعِزِّ

جو کہ جلد ہم تک پہنچنے والا ہو پلک جھپکنے سے ۔ اور ہمیں ٹھہرا عزت والے مقامات میں

وَاحْجُبْنَا عَنِ الْعَيُونِ وَأَشْهَدْنَا الْحَقَّ الْيَقِينَ يَا قَوْمِي يَا مَتِينِ

اور ہمیں بچا (بری) نظروں سے اور ہمیں مشاہدہ کرا حق الیقین کا ۔ اے قوتوں والے ۔ اے دائم وقائم

يَا نُورُ يَا مَبِينُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ إِلَهَنَا فَاطِمَةُ عَلِيٌّ وَجُودُنَا

لے نور۔ لے روشن کرنے والے۔ لے رحمن۔ لے رحیم۔ لے ہمارے محمود طلوع فرما ہمارے وجود پر

شَمْسُ شُهُودِنَا فِي الْأَكْوَانِ وَنُورُ وَجُودِنَا بِنُورِ وَجُودِكَ

ہمارے آفتاب شہود کو کائنات میں۔ اور ہمارے وجود کو منور فرما اپنے نور وجود کے ساتھ

فِي كُلِّ الْإِحْسَانِ وَأَدْخَلْنَا فِي رِيَاضِ الْعَافِيَةِ وَالْعِيَانِ يَا

احسان کے ہر مرتبہ میں۔ اور ہمیں داخل فرما باقیقت اور مشاہدہ کے باغات میں۔ لے

حَتَّانُ يَا مَثَّانُ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمَنُ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْبُرْهَانَ

مہربان۔ لے احسان فرمانے والے۔ لے رحیم۔ لے رحمن۔ لے عزت اور برہان و محنت کے مالک

يَا ذَا الرَّحْمَةِ وَالْغُفْرَانَ يَا ذَا الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانَ يَا ذَا

لے رحمت اور مغفرت کے مالک۔ لے فضل و احسان کے مالک۔ لے صاحب

الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا مَوْلَايَ يَا قَادِمُ يَا مَوْلَايَ يَا عَاقِرُ يَا طَيْفُ

جلال و اکرام۔ لے میرے مولیٰ۔ لے قدرتوں والے۔ لے میرے مولیٰ۔ لے بختنے والے۔ لے صاحب لطف و کرم

يَا خَيْرُ إِلَهِنَا أَلَيْسْنَا مَلَائِسَ لُطْفِكَ وَأَقْبَلُ عَلَيْنَا بِجَنَابِكَ

لے (ظاہر و باطن کی) خبر رکھنے والے۔ لے ہمارے محمود ہیں یہنا اپنے لطف و کرم کی پوشائیں اور توجہ فرما ہم پر اپنی ذات

وَعَطْفِكَ وَأَخْرِجْنَا مِنَ التَّدْبِيرِ مَعَكَ وَعَلَيْكَ وَاهْدِنَا بِنُورِكَ

اور عنایت کے ساتھ اور نکال ہمیں اپنی تدبیر سے جو تیری (تقدیر کے ساتھ ہوا تیری (قضاء) پر ہوا اور ہمیں پہنچا اپنے نور کے ذریعے

إِلَيْكَ وَأَقْمِنَّا بِصَدَقِ الْعِبُودِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَخْرِجْ ظُلُمَاتِ

اپنی ذات تک۔ اور ہمیں قائم فرما سچی عبودیت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں۔ اور نکال باہر کر ہماری تداہیر کی تاریکیوں

التَّدْبِيرِ مِنْ قُلُوبِنَا وَانْشُرْ نُورَ التَّفْوِيضِ فِي أَسْرَارِنَا وَأَشْهَدْنَا

کو ہمارے دلوں سے۔ اور پھیلا دے تقویٰ و توکل کا نور ہمارے بواطن اور قلوب میں اور ہمیں شاہدہ کرادے

حَسَنَ اخْتِيَارِكَ لَنَا حَتَّىٰ يَكُونَ مَا تَقْضِيهِ فِينَا وَمَا تَخْتَارُهُ لَنَا

اپنے حسین اختیار و انتخاب کا جو ہمارے لیے ہے سچی کہ ہو جائے وہ امر جس کی قضاء فرمائے ہم میں اور جو تو اختیار فرمائے ہمارے لیے

أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ إِخْتِيَارِنَا لَا نُنْفِسْنَا وَاهْدِنَا لِلْحَقِّ الْمُبِينِ ط وَعَلَيْنَا

زیادہ محبوب طرف ہمارے نسبت ہمارے اپنے اختیار و انتخاب کے واسطے اپنی ذاتوں کے۔ اور میں پہنچا واضح اور روشن حق تک اور میں علم عطا کر

مَنْ عِلْمُ الْيَقِينِ ط يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا غَنِيُّ يَا كَرِيمُ يَا غَفُورِيَا

علم یقین سے۔ اے عالی شان والے اے عظیم۔ اے بے نیاز۔ اے کریم اے بخشنے والے۔ اے

حَلِيمُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا مَوْلَايَ يَا قَادِرُ يَا مَوْلَايَ يَا قَادِرُ

علم والے۔ اے رحمن۔ اے رحیم۔ اے میرے مولیٰ۔ اے قدرتوں والے۔ اے میرے مولیٰ اے قدرتوں کے مالک

يَا غَافِرُ يَا لَطِيفُ يَا خَبِيرُ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي خَلْعَةَ إِجْلَالِ

اے بخشنے والے۔ اے صاحب لطف و کرم۔ اے ظاہر و باطن کی خبر رکھنے والے۔ اے اللہ مجھے عطا فرما خلعت اجلال

اقْبَالَ قُرْبِكَ وَأَشْرَفَنِي بِشَرَفَةِ الْحَالِ وَالْخِيَالِ ط طَلْعَةَ عَيْنِ

اپنے قرب کی سعادت مندی سے۔ اور مجھے دکھلا حال و خیال کی شرافت کی بدولت طلعت اور جھلک اپنے عین وصل کی

وَصْلِكَ وَالْحَقْقِي بِشُهُودٍ مَشْهُودٍ وَجُودٍ جُودٍ أَصْلِكَ وَبِرَأْفَةِ رَحْمَةٍ

اور لائق فرما مجھے ساتھ مشاہدہ و جود کے جو مشہود ہے (ہرزہ کائنات میں تیرے فیضانِ حقیقت سے اور لائق فرما مجھے ساتھ رفت و

مَحَبَّةٍ مَوْدَّةٍ تَوَدُّدِي حُبُّنِهِمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ط

محبت اور محبت مودت کے جس میں وہ محبت (ظہور فرما) جس کا نشان یہ ہے "محبت رکھتے ہیں کفار اپنے معبودات باطل سے مثل اللہ تعالیٰ کی محبت کے اور جو ایمان لائے ہیں وہ

اللَّهُمَّ إِنِّي طُوَيْسُ الطَّائُسِ أَحَبُّتُ إِلَى الطَّائُسِ الْمُقَدَّسِ الْأَحْوَسِ

بہت زیادہ محبت رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اے اللہ میں مولیٰ سانس و پرتو میں جس حقیقت کے طاؤس کا مجھے محبت ہو گئی ہے اُس طاؤس مقدس کی تو بہادر

الْأَحْمَسِ بِتَشْوِيْشِ الْمَحَبَّةِ وَتَشْوُسِ الْمَحْبُوبِ بِتَبْشِيْشِ الْمَرْغُوبِ

و شجاع ہے بسبب محبت کے پریشان کرنے کے اور محبوب کے ناز و انداز کے ساتھ بشاشت مرغوب کے

وَطَبَّاشِ الْمَطْلُوبِ مِنْ عَرْشِ قُدْسِكَ إِلَى قُدْسِكَ الْأَقْدَسِ اللَّهُمَّ

اور تحریک مطلوب کے تیرے عرش مقدس سے تیری ذات مقدسہ کی طرف اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَدَّ عَلَى

صلوات و سلام بھیج ہمارے سردار محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس (آقا) نے باندھے اپنے

بَطْنِهِ الْجَبَادَةَ مِنَ الْجُوعِ وَكَانَتْ لَهُ الْكَائِنَاتُ فِي غَايَةِ الْإِمْتِنَانِ

پیٹ مبارک پر پتھر بسبب بھوک کے حالانکہ تھی آپ کے لیے پوری کائنات انتہائی فرماں بردار

وَالطُّورُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور اطاعت گزار۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَامَ عَلَى تَبْرِ جَابِرٍ فَتَزَاكَأَ وَمَا شَبِعَ مِنْ طَعَامٍ قَطُّ

جو (آقا) کھڑے ہوئے حضرت جابر کی کھجوروں پر (برکت دینے کیلئے) پس وہ بہت بڑھ گئیں اور (خود) نہ سیر ہوئے

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ دَرَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

طعام سے کبھی بھی تین دن لگاتار۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَثْرَفَنِي جَنْبِهِ الْحَصِيرُ وَ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے پہلو پر نشان لگاتے چٹائی (تنگے بدن اس پر سونے کی وجہ سے) اور

خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا شَبِعَ إِلَّا مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ اللَّهُمَّ

آپ تشریف لے گئے دنیا سے جبکہ نہیں پیٹ بھر کر کھائی تھی مگر صرف جو کی روٹی ہی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي كَانَ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ وَمَا أَكَلَ قَطُّ عَلَى

ر جو (آقا) ہمیشہ حزن و ملال کی حالت میں رہتے تھے اور آپ نے کبھی نہیں کھایا کھانا

خَوَانٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کھانے کی چیز۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ طَعَامُهُ الْأَسْوَدَيْنِ وَ

آل پر کہ جس آقا کا طعام نہیں تھا مگر کھجوریں اور پانی

كَانَ لَا تُوقَدُ فِي أَبِيَاتِهِ نَارُ الشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ اللَّهُمَّ

اور نہیں جلائی جاتی تھی آپ کے گھروں میں (کھانا پکانے کے لیے) آگ مہینہ اور دو مہینے تک۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِهِ سَفَهٌ مِّنْ دَقِيقٍ وَكَانَ لَا

کہ جن کے گھر میں نہیں تھا ٹوکری یا زمبیل کی مقدار آٹا۔ اور نہیں

يُوجَدُ فِي بَيْتِهِ كَفٌّ مِّنْ سَوِيْقٍ مِّنْ مَّرْفِيْقٍ اَللّٰهُمَّ

موجود ہوتی تھی آپ کے گھر میں ایک کف دست ستور سے باوجود بیکہ اللہ تعالیٰ کے رفیق ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي كَانَتْ طَعْمَتُهُ عِفَافًا وَكَانَ قُوْتُهُ كِفَافًا فِي

کہ جس آقا کا کھانا سراسر عفاف و تقاضت تھا اور آپ کی روزی بقدر کفایت تھی بسبب اللہ تعالیٰ کی محبت

حُبِّ اَللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

کے اور دنیا سے بے رغبتی کے اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَّا اَكَلَ قَطْرًا فِي يَوْمٍ مَّرَّتَيْنِ وَكَانَ

پر کہ جس آقا نے کبھی بھی ایک دن میں دو مرتبہ نہیں کھایا۔ اور پختے آپ تزیج

يُوْتِرُ عَلٰی نَفْسِهِ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِيْنَ بِلِلّٰهِ فِي اَللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

دیتے اپنی ذات پر فقراء اور مساکین کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی خوشنودی میں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اور سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے

كَانَ مِنْ حُسْنِ شَمَائِلِهِ وَجَمِيْلٍ اَثَرُهُ مَا اَشْتَكٰى قَطْرًا جَوْعًا فِي

حسین عادات میں سے اور جمیل امتیازات میں سے یہ (عادت و امتیاز بھی) تھا کہ نہیں شکایت فرمائی کبھی بھوک کی

حَالٍ صَغْرَةٍ وَلَا فِي حَالٍ كِبَرَةٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بچپن کی حالت میں اور نہ ہی بڑے ہو کر۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دُورُوا عَلَيْهِ

اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ تھا جس پر ملائمت کی بات

وَأَنَّ قَلَّ وَمَا مَلَاقَطُ بَطْنِهِ مِنْ الدَّقْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الرحمہ قلیل ہوتا۔ اور کبھی نہیں بھرا آپ نے پیٹ مبارک معمولی کھجوروں سے بھی۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يُجِيبُ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا قبول فرماتے تھے

دَعْوَةَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَمَا أَذْخَرَ قُوتَ يَوْمٍ لِّغَدٍ

دعوت آزاد مرد اور غلام کی۔ اور جنہوں نے ذخیرہ نہیں کیا ایک دن کی روزی کو کل کیلئے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي كَانَ يَبِيتُ طَائِفًا جَائِعًا وَكَانَ يُصْبِحُ طَائِعًا قَانِعًا

کہ جو آقا رات گزارتے خالی پیٹ حالت جوع میں اور صبح کرتے تھے اس شان سے کہ سیر ہونے اور قناعت کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي مَا شَبِعَ قَطُّ مِنْ عَشَاءٍ وَلَا غَدَاٍ وَلَا شَاءَ لَكَ أَنْ عَيْشُهُ

کہ جس آقا نے کبھی سیر ہو کر نہ کھایا رات کے کھانے سے اور نہ دن کے کھانے سے حالانکہ اگر آپ چاہتے تو آپ کی عیشت

وَإِسْعَارُ غَدَاٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

بڑی امیرانہ اور فراخ ہوتی۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ طَلَعَتْهُ مَبَارَكَةٌ مَيْمُونَةٌ وَمَاتَ

پر کہ جس آقا کی طلعت اور دیدار اقدس مبارک و میمون تھا اور آپ کا وصال ہوا

وَدُرْعَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ مَرَهُونَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

تو آپ کی زره ایک یہودی کے پاس رہن پڑی تھی۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج





سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ابْنِ بَطْحَاءِ مَكَّةَ وَمَا

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو بطناء مکہ میں پیدا ہونے والے ہیں اور نہیں آپ نے

عَابَ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

عیب لگایا کسی کھانے کو کبھی اس کی خواہش ہوتی تو تناول فرماتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحْيَفَ فِي

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کو خجوت زدہ کیا گیا

اللَّهِ وَأُوذِي فِيهِ وَمَا رَأَىٰ قَطُّ شَاةً مَّشْوِيَةً بِعَيْنَيْهِ اللَّهُمَّ

اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اس کی خاطر ایذا میں دی نہیں اور نہ دیکھی آپ کے بھی بھونی ہوئی بکری (بظاہر) اپنی آنکھوں سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اجماع پر کہ جو

كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَكَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ

محبوب (مشروبات کو پی لیتے تھے حالت قیام میں بھی اور بیٹھ کر بھی۔ اور تھا محبوب ترین مشروب آپ کا

الْحُلُوُّ الْبَارِدُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

میٹھا اور ٹھنڈا مشروب۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَتَنَفَّسُ عِنْدَ الشَّرْبِ مَرَّتَيْنِ

آپ کی آل پر کہ جو آقا سانس لیتے تھے پیتے وقت دو مرتبہ

وَكَانَ يَمْسَحُ عَلَىٰ جَسَدِهِ بِقُلِّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمَعُودَتَيْنِ اللَّهُمَّ

اور آپ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے جسم مبارک پر (اس پر دم کر کے) ساتھ قُلِّ ہوا اللہ احد کے اور قُلِّ اعوذ برب الفلق اور قُلِّ اعوذ برب الناس کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ صَفِيٍّ وَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا سید اصفیاء ہیں اور

مَوْصُوفٍ وَكَيْسِ الصُّوفِ وَكَانَ إِحْتَدَا الْمَخْصُوفَ اللَّهُمَّ صَلِّ

ارباب اوصاف کے سردار اور آپ نے اونی لباس زیب تن فرمایا اور یزید والا جوتا پہنا۔ اے اللہ صلوات



وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ لَيْسَ

و سلام نازل فرما سيدنا محمد پر اور سيدنا محمد کی آل پر کہ جس آقائے زيب تن فرمائے

اَحْسَنَ الثِّيَابِ وَكَانَ يَضْطَجِعُ عَلٰى الْاِهَابِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

بہت اچھے کپڑے (بعض اوقات) اور آپ آرام فرماتے تھے بغیر رتھے چڑے کے بچھونے پر سے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ لَيْسَ الْخِفَافِ

سلام نازل فرما سيدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقائے خفین پینیں اور

وَرَكِبَ الْجِمَارَ وَعَلَيْهِ اَكَاثُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

دراز گوش کو سواری کاشرف بخشا جلاس پر صرف کلمی کی زین ہوتی تھی۔ سے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سيدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ حَبَّ عَلٰى قَطِيْفَةٍ فَذَكِيَّةٍ وَلَيْسَ الْجُبَّةُ

آل سيدنا محمد پر کہ جنہوں نے حج فرمایا اس حال میں کہ آپ کی اونٹنی کے پالان پر صرف ذک کی بنی چادر تھی اور اپنے شامی جبر پہنا

الشَّامِيَّةَ وَالنِّعَالَ السَّبْتِيَّةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور رتھے ہرے چڑے کے جوتے پہنے۔ سے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سيدنا محمد پر

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ لَيْسَ الْاِنْمَارًا وَاتَّزَرَ

اور سيدنا محمد کی آل پر کہ جس آقائے تمہد باندھی اور (کبھی) بطور تمہد استعمال فرمایا

الْمُرْطَ مِنْ شَعْرٍ وَالرِّدَّاءَ الْمُحْبَرِ وَالْكِسَاءَ الْمَلْبَدَّ وَاَفْضَلَ

بالوں سے بنے ہوئے کبل کو اور اوڑھا حاشیر والی مینی چادر کو اور منجمد اون کے کبل کو جبکہ وہ افضل ترین ہیں

مَنْ تَعَبَّدَ وَتَهَجَّدَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

ان تمام لوگوں سے جنہوں نے کسی طرح کی عبادت کی اور بالخصوص اتھجدا کی۔ سے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سيدنا محمد پر اور سيدنا

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ لَيْسَ الْخَاتَمَ مِنْ وَّرَقٍ وَكَانَ يَلْقَى النَّاسَ

محمد کی آل پر کہ جس آقائے پہنی چاندی کی انگوٹھی اور آپ ملاقات فرماتے تھے لوگوں سے

بِوَجْهِ طَلِقٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

خندہ پیشانی کے ساتھ۔ سے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سيدنا محمد پر اور سيدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَخْضِبُ شَعْرَهُ وَكَانَ أَحَبَّ

کی آل پر کہ جو آقا اپنے بالوں کو خضاب لگاتے تھے۔ اور تھے آپ کے نزدیک پسندیدہ ترین

الثِّيَابِ إِلَيْهِ الْقَبِيصَ وَالْحَبْرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کپڑے قمیص اور یمنی چادر سے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُرْدِفَ الرَّدِيفَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہوں نے (ازراہ تواریخ) اپنے پیچھے سواری پر دوسرے آدمی کو سوار کیا

وَكَانَ وَسَادَتُهُ مِنْ أَدِيمٍ وَحَشْوُهُ مِنْ لَيْفٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور تھا آپ کا تکیہ سرخ رنگ کے چڑے سے جس کے اندر کھجور کی جالی بھری ہوتی تھی۔ سے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَدَاهُ اللَّهُ إِلَى الْفِطْرَةِ

فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی (دین انصرت کی طرف) (روز اول سے)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

سے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کی

كَانَ حَدِيثُهُ فَضْلًا لَا فَضُولًا وَكَانَ يُقَاتِلُ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ

گفتگو واضح تھی (اور مطلب کے مطابق) نہ زائد اور غیر ضروری۔ اور آپ اپنے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد فرماتے تھے

وَأَسْمَاهَا دُدُلٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس کا نام دلدل تھا۔ سے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَمْ كَى الْخَلَائِقِ أَخْلَافًا وَمَا ذَمَّ قَطُّ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا سب مخلوقات سے پاکیزہ تر تھے از روئے اخلاق کے اور آپے کسی کی اذیت نہیں فرمائی کبھی بھی

مَذَاقًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

از روئے مذاق بھی۔ سے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ لَا يَضْرِبُ عَبْدًا وَلَا يَمْنَعُ سَائِلَهُ بِرَفْدَا

کہ جو کبھی نہیں مارتے تھے اپنے غلام کو بھی اور نہیں دور رکھتے تھے سائلوں سے اپنی عطا کردہ



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي عَزَّائِسْ عَشْرَةَ عَزْوَةً وَكَانَ يُحِبُّ شَاتَهُ

کہ جس آقائے سفر فرمایا انیس غزوات کے لیے اور آپ خود ووردھ نکالتے تھے اپنی بھری کا۔

وَيَرْفَعُ دَلْوَهُ وَكَانَ خَاتِمَهُ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ

اور اٹھاتے تھے ڈول (پانی پھیننے کے لیے) اور آپ کی مرنوت کستوری سے زیادہ پاکیزہ خوشبو

رَاحَةٍ وَكَانَ يَعْقِلُ بَعِيرَهُ وَيَعْلِفُ نَاضِحَهُ اللَّهُمَّ

والی تھی۔ اور آپ خود اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتے تھے اور چار اونٹ لے پانی پھیننے والے اونٹ کو لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي مَا أَكَلَ قَطُّ طَعَامًا مَرَّقًا قَبْلَ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ جنہوں نے نہیں کھائی کبھی میدہ کی روٹی وصال شریف تک۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہیں

طَلَبَتْهُ جِبَالٌ تَهَامَةٌ أَنْ تَكُونَ لَهُ دُرًّا وَيَا قَوْمًا اللَّهُمَّ

اپنا مطالبہ اور آرزو پیش کی تمام کے پہاڑوں نے کہ ہو جائیں آپ کی خاطر موتی اور یا قوت۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہیں راغب کرنے کی کوشش کی

رَأَوْدَتُهُ الْجِبَالُ وَالرُّبَا أَنْ تَكُونَ لَهُ فِصَّةً وَذَهَابًا بِي اللَّهُمَّ

پہاڑوں اور ٹیلوں نے کہ ہو جائیں آپ کے لیے چاندی اور سونا مگر آپ نے انکار فرمایا۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَدْخَلَ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ داخل کیا ہے



اللَّهُ الْعَوَالِمَ تَحْتَ مَلِكِهِ وَسَيَادَتِهِ وَأَجْرَى اللَّهِ الْكَائِنَاتِ

اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کو ان کی ملکیت اور حکومت میں اور جاری فرمایا اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو

عَلَى وَفَّقَ إِرَادَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آپ کے ارادہ کے موافق۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا قَالَتْ قَطُّ نَفْسُهُ الْكَرِيمَةُ إِلَى شَيْءٍ مِّنْ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کا نہیں مائل ہوا دل مبارک کبھی بھی طرف کسی چیز کے

مُرَادِهِ وَشُؤْنِهِ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ تَحْتَ مَلِكِهِ وَطَاعَتِهِ

اپنے مطالب اور احوال میں سے مگر اللہ تعالیٰ نے داخل فرمایا اس تھی تو آپ کی ملکیت اور اطاعت میں

مِنْ حَيْثُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اسی وقت۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي خَيْرَ بَيْنِ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا مَلَكًا أَوْ نَبِيًّا عَبْدًا فَاخْتَارَ الْعِبُودِيَّةَ

کہ جنہیں اختیار دیا گیا اور میان اس کے کہ ہوں بادشاہ نبی یا صاحبِ فقر نبی مگر آپ نے عبودیت و فقر کو اختیار فرمایا

لِلَّهِ وَاهْتَدَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اللہ کے حضور تواضع کے لیے اور صحیح راہ کا انتخاب فرمایا۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا وَحَطِيبُهَا وَاخْتَارَ مَلِكَ الْآخِرَةِ وَ

کہ جنہوں نے منہ موڑ لیا دنیا اور اس کے ساز و سامان سے اور اختیار فرمایا ملکِ آخرت کو اور

نَعِيْبَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اس کی نعمتوں کو اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمَّتْهُ الْيَهُودِيَّةُ فِي شَاتِهَا فَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهَا

کہ جنہیں یہودی عورت نے زہر کھلایا اپنی (بھئی ہوئی) بچی میں مگر آپ نے درگزر فرمایا اس کی برائیوں سے

إِلٰهِ مِنْ الَّذِي دَعَاكَ فَلَمْ تُجِبْهُ وَمَنْ الَّذِي سَأَلَكَ فَلَمْ

اے میرے خدا کون ہے جس نے تجھ سے دعا کی پس تو نے قبول نہ کی۔ اور کون ہے جس نے تجھ سے سوال کیا مگر تو نے

تُعْطِهِ وَمَنْ الَّذِي اسْتَجَارَكَ فَلَمْ تُجْرَهُ وَمَنْ الَّذِي اسْتَعَانَ

اسے عطا نہ کیا۔ اور کون ہے جس نے تجھ سے پناہ ڈھونڈی مگر تو نے اسے پناہ نہ دی ہو۔ اور کون ہے جس نے مدد طلب

بِكَ فَلَمْ تُغْتَهُ وَاعْوُثَاةُ وَاعْوُثَاةُ اَعْتَنِي يَا غِيَاثَ

کی تجھ سے مگرتو نے اس کی امداد نہ کی ہو۔ اے فریادرس۔ اے فریادرس۔ اے فریادرس میری امداد فرما اے امداد کرنے والے

الْمُسْتَعِيثِينَ اَعْتَنِي يَا اِلَهَ الْعَالَمِينَ اَعْتَنِي يَا خَيْرَ

فریادریں کی۔ میری امداد فرما اے سب جہانوں کے کارساز میری امداد فرما اے تمام مدد کرنے والوں

التَّاصِرِينَ اَعْتَنِي يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ اَعْتَنِي يَا وَهَّابُ يَا رَاقٍ

سے بہتر و برتر۔ میری امداد فرما اے مہربان اے صاحب احسان۔ میری امداد فرما اے عطا کرنے والے اے رزق دینے والے

يَا فَتَّاحُ اَعْتَنِي يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِيُّ يَا مُعْطِي اَعْتَنِي يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ

اے مشکلات حل کرنے والے۔ میری امداد فرما اے بے نیاز اے بے نیاز کرنے والے اے عطا کرنے والے۔ میری امداد فرما اے انوکھے

بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعَ اَللّٰهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

عجايبات ظاہر کرنے والے خیر اور بھلائی کے اے انوکھے شان والے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا كَسْرَتْ رُبَاعِيَّتَهُ وَشَجَّ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جب ان کے سامنے والے چار دانتوں میں سے ایک کا کنارہ توڑا گیا اور زخمی کیا گیا

وَجْهَهُ الْمَيْمُونُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

ان کا چہرہ مبارک تو (پھر بھی) یہ دعا کی۔ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ انہیں (میری حقیقت کا) علم نہیں ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي لَمَّا اَخَذَ تَرِيْدًا بِمَجَامِعِ ثِيَابِهِ لَمْ يَأْمُرْ بِعِقَابِهِ

کہ جب پڑا نرید نے آپ کے گریبان کو (پھر بھی) آپ نے انہیں سزا دینے کا حکم نہ دیا

وَلَمَّا جَذَبَهُ الْاَعْرَابِيُّ بِرِدَائِهِ لَمْ يَأْمُرْ بِخَزَائِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ

اور جب اعرابی سے اٹھینچا آپ کی چادر پڑا اعرابی نے تو آپ نے اس کی تذلیل کا حکم نہ دیا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں



الثَّبَاتِ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةِ عَلَى الرَّشْدِ وَالشُّكْرِ عَلَى نِعْمِكَ وَثَبَّتْ

ثبات قدمی کا تمام امور میں اور پختہ ارادہ کا رشد و خیر پر۔ اور شکر کا تیرے انعامات پر اور ثبات رکھ

اللَّهُمَّ يَا قَائِمٌ يَا دَائِمٌ قَدِمِي كَمَا ثَبَّتَ الْقَائِلَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا

اے اللہ اے قائم۔ اے دائم میرے قدموں کو جیسے تر نے ثابت قدم رکھا اس قول والے کو اور کیسے خوفزدہ ہو سکتا ہوں میں ان سے جنہیں

أَشْرَكْتُمْ يَا اللَّهُ وَانصُرْنِي يَا نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ عَلَى أَعْدَائِي

تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے اور میری نصرت فرمائے بہترین کارساز اور بہترین مددگار اور میرے اعداء کے

كُنْصِرَ الَّذِي قِيلَ لَهُ اتَّخَذْنَا هُزُوًا قَالِ اعُوذُ بِاللَّهِ وَأَيْدِي يَا

مانند مدد فرمانے اس نبی کے جنہیں کہا گیا تھا "کیا تو نے ہمیں مذاق کی جگہ بنا لیا ہے تو انہوں نے کہا میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اور میری

طَالِبُ يَا غَالِبُ يَا تَائِدُ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوَيْدُ

اعلاؤ فرمائے طالب اے غالب اپنے نبی محمد کی امداد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تائید و تقویت فرمائی گئی ہے

بِتَعَزِيرِ تَوْقِيرَاتِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا التَّوَمُّنُوا بِاللَّهِ

(اس) تسلیم و توقیر کے ساتھ کہہ کر بے شک ہم نے تمہیں مبعوث فرمایا اس شان سے کہ تم احوال امت پر مطلع ہو اور شہادت دینے والے ہو طاعت گزاروں کو اور

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا لَا يَسَعُهُ إِلَّا مَغْفِرَتُكَ وَلَا يَحِقُّهُ إِلَّا عَفْوُكَ وَ

ڈرانے والے ہو اور نافرمانی داروں کو تاکہ تم ایمان لاؤ اے لوگو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اے اللہ بخش دے میرے لیے (وہ نما) گناہ کہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر تیری ہی مغفرت

لَا يَكْفُرُهُ إِلَّا تَجَاوُزُكَ وَفَضْلُكَ وَهَبْ لِي فِي يَوْمِي هَذَا وَفِي لَيْلَتِي

اور انہیں نہیں مٹا سکتی مگر تیری ہی عفو اور درگزر کر سکتا مگر تیرا ہی درگزر اور فضل اور عطا فرما مجھے میرے اس دن اور اس رات

هَذِهِ وَفِي شَهْرِي هَذَا وَفِي سَنَتِي هَذِهِ يَقِينًا صَادِقًا يَهْوَنُ عَلَيَّ

میں اور اس مہینے اور اس سال میں خالص یقین جو آسان کر دے مجھ پر

مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَحْزَانَهُمْ أَوْ يَشْوِقْنِي وَيُرْعِبْنِي فِيمَا عِنْدَكَ

دنیا و آخرت کے مصائب اور غم و اندوہ اور مجھے شائق اور راغب بنا دے ان انعامات میں جو تیرے پاس ہیں

وَاطْبُ لِي عِنْدَكَ الْمَغْفِرَةَ وَيَلْغِي الْكِرَامَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَأَوْزِعْنِي

اور (اپنے) نہ کر کم پر لازم فرما میرے لیے اپنے ہاں مغفرت اور مجھے پہنچا اپنی مخصوص کرامت تک۔ اور مجھے توفیق دے ان نعمتوں کے

شُكْرًا مَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَإِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّبُّ الْوَاحِدُ

شکر کی جن کا ترنے مجھ پر انعام فرمایا پس تو ہی اللہ ہے کہ نہیں معبود برحق مگر تو ہی جو پروردگار ہے۔ یکتا و یگانہ ہے

الْمُبْدِيُّ الرَّفِيعُ الْبَدِيعُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الَّذِي لَيْسَ لِأَمْرِكَ مُدْفِعٌ وَلَا عِن

آغاز فرمانے والا ہے۔ بلند مرتبت ہے۔ انوکھی صنعت والا ہے۔ ہمیشہ سننے جاننے والا ہے تیرے امر و حکم کو کوئی روکنے والا نہیں اور نہ

قَضَائِكَ مُتَّبِعٌ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي وَرَبُّ

تیری قضاء سے کوئی باز رہنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے کہ تیرے بغیر کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو میرا رب اور ہر حق

كُلِّ شَيْءٍ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَلِيُّ

کارب ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ غیب و ظاہر کا جاننے والا ہے۔ بلند شان والا

الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى وَآمَنُ عَلَى يَا وَهَّابُ يَا رِزَّاقُ بِحُصُولِ فَضُولِ

اور عظیم المرتبت ہے بلند و بالا ہے۔ اور احسان فرما مجھ پر لے وہاب لے رزاق ساتھ حاصل ہونے انواع و اقسام کے رزق اور اعلیٰ

وَصُولِ قَبُولِ تَدْبِيرِ تَيْسِيرِ تَسْمِيرِ كُلِّ مَا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ

اور بارگاہ قبولیت تک رسائی کے اور سہولیات کی تدبیر کے اس اعلان میں "کھاؤ اور پیو جو اللہ تعالیٰ کے

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رزق سے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مَنْ لَهُ لِلصَّلَوَاتِ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَبَعْدَ كُلِّ أَحَدٍ وَمَعَ كُلِّ أَحَدٍ

جن کو حاصل ہے صلوات کے لیے ہر ایک سے پہلے اور ہر ایک کے بعد اور ہر ایک کے ساتھ

أَهْلِيَّهٖ كَامِلَةً تَامَّةً بِجَسْمِهِ وَبِرُوحِهِ وَبِقَلْبِهِ وَجَمِيعِ

کامل و اکل اہلیت و استعداد ساتھ جسم و روح اور قلب و جگر کے اور تمام

كَطَائِفِهِ وَحَقَائِقِهِ إِلَهِي أَنْتَ الْمُتَوَحِّدُ فِي ذَاتِكَ

طوائف و حقائق کے لے اللہ تو ہی یکتا ہے مرتبہ ذات میں

بِأَلُوْهِتِيكَ وَفِي صِفَاتِ إِلَهِيَّتِكَ بِالتَّوْحِيدِ كَمَا أَلَزَمْتَ

اپنی الوہیت کے ساتھ۔ اور صفات الوہیت میں وحدانیت کے ساتھ جیسے ترنے لازم فرمایا





حَبِيبِكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قُلْتَ وَقَوْلِكَ

اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبکہ تو نے فرمایا اور تیرا قول

الْحَقُّ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَوَلَّيْنِي يَا وَلِيَّ يَا عَلِيُّ

برحق ہے (پس یقین رکھئے اس امر کا کہ نہیں مبود برحق مگر اللہ تعالیٰ) اور میری امداد فرمائے مددگار اے بندہ شان

يَا بُولَايَةَ وَالرَّعَايَةَ وَالسَّلَامَةَ بِمَزِيدٍ أَيْ رَادِ اسْعَادٍ اِمْدَادِكَ

ساتھ کار سازی کے اور نگہداشت اور سلامتی بخشنے کے اپنی مزید امداد کی سعادت مندی سے بہرہ ور کر کے

ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَالْكَرَمِ يَا كَرِيمُ يَا غَنِيَّ بِالسَّعَادَةِ

وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہے۔ اور مجھے عزت عطا فرمائے کریم اے غنی ساتھ سعادت

وَالسِّيَادَةِ وَالْكَرَامَةَ وَالْمَغْفِرَةَ كَمَا أَكْرَمْتَ الَّذِينَ يَعْضُونَ

وسیادت کے اور کرامت و مغفرت کے جیسے تو نے عزت بخشی ان (حضرات صحابہ) کو جو پست کرتے تھے

أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَخْتَمَ لِي يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ

اپنی آوازوں کو بارگاہ رسالت مآب میں۔ اور میرا خاتمہ فرمائے رحمن اے رحیم

بِخَيْرِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَالرَّاجِينَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ يَا عِبَادِئِي

سب سے بہترین ختمات پالنے والوں اور تجھ سے امید رکھنے والوں کے خاتمہ کی مانند جنہیں کہا گیا ہے اے میرے بندے

الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ

جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ یقیناً

اللَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَأَسْكِنِي فِي جَنَّةِ عَدْنٍ أَعَدَّتْ

اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمام گناہ اور مجھے جگہ عطا فرما جنتِ عدن میں جو تیار کی گئی ہیں

لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ

متقیوں کے لئے جن کی پکار وہاں پر یہ ہو گی۔ پاک ہے تو اے اللہ اور ان کے باہمی تحنّے

فِيهَا سَلَامٌ وَأُخْرَدُ عُوهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ان جنات میں سلام والے ہوں گے اور آخری اعلان ان کا یہ ہو گا کہ سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو مالک ہے تمام جہانوں کا



اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ سُرُورٍ وَجُوهِكَ الْعَظِيمِ الْمَبْرُورَةِ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل تیری ذات عظیم کے نور سرور کے

الْجَامِعَةِ لِدُكُمَا لَاتٍ مِنْ نُورِ حُضُورِكَ كَمَا لَكَ سَيِّدَانَا

ایسی نیکی کا جو تمام کمالات کی جامع ہو کہ جو صادر ہوں تیرے منظر کمال کے نور و حضور سے

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ

یعنی سیدنا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل عزت و حرمت ان

وَالْآيَاتِ وَالْكَلِمَاتِ أَنْ تَجْعَلَ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا

اسماء۔ آیات اور کلمات کے کہ تو بنائے میرے لیے اپنے پاس سے

نَصِيرًا وَرِزْقًا وَاسْعًا كَثِيرًا وَقَلْبًا قَرِيرًا وَعِلْمًا غَزِيرًا وَ

صاحب سطوت مددگار اور رزق وسیع و کثیر۔ اور دل شاداں اور علم بہت زیادہ

عَمَلًا بَرِيرًا وَقَبْرًا مَنِيرًا وَحِسَابًا يَسِيرًا أَوْ مُلْكًا فِي الْفِرْدَوْسِ

عمل صالح اور قبر نورانی اور حساب آسان اور جنت فردوس میں ملک

كَبِيرًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ

بہت وسیع اور ایسی تجارت جو کبھی بربادی اور خسارہ نہ پائے۔ اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں اور وسیلہ پکڑتا ہوں۔ تیری طرف

بِسَجْمِ وَأَسْمَاءِ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللَّهُمَّ

تیرے تمام اسماء حسنی کے ساتھ جو مجھے معلوم ہوئے ان میں سے اور جو معلوم نہیں ہو سکے۔ اے اللہ

دَلَّنِي بِكَ إِلَيْكَ وَأَرْزُقْنِي الثُّبَاتِ عِنْدَ وَجُودِكَ مَا كُونُ

میری راہنمائی فرما بطفیل اپنی ذات کے طرف اپنی ذات اور مجھے ثابت قدمی عطا فرما اپنی بارگاہ میں جنتک رہوں میں

مُنَادٍ بَابَيْنِ يَدَيْكَ إِلَهِي بِعَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ أَرْزُقْنِي

با ادب تیری بارگاہ میں۔ اے میرے خدا بطفیل اپنی عظمت و جلال کے عطا فرما مجھے

حُبِّكَ بِرِزْقِ مَحَبَّتِكَ إِلَهِي اجْعَلْ قَلْبَ عَبْدِكَ الضَّعِيفِ

اپنے ہاں محبوبیت بسبب عطا کرنے اپنی محبت کے۔ اے اللہ بنا اپنے اس عید ناتواں کے دل کو

مُظَهَّرًا لِّذَاتِكَ وَمَنْبَعًا لِآيَاتِكَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ حَبِيبِكَ

منظر اپنی ذات (کی تجلیات) کا۔ اور سرچشمہ اپنی آیات کا۔ اے بار الہا بظہیل حرمت و عزت اپنے حبیب

وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَمَطْلُوبِكَ وَمَرْغُوبِكَ وَمُحِبِّكَ وَ

اور نبی و رسول اور مطلوب و مرغوب کے اور محب و

مُحِبُّوبِكَ الَّذِي لَا يُشْرِكُكَ فِي مَقَامِهِ الْخَاصِّ أَحَدًا

محبوب کے کہ جن کا کوئی بھی شریک نہیں ہے ان کے مقام خاص میں

مَنْ الْأَنْزَلِ إِلَى الْأَبَدِ وَالزَّمْنِي وَأَجْعَلَنِي مُوَحَّدًا ابْنُورًا

ازل سے ابد تک اور میرے اکہر لازم فرما اور بنا مجھے موحد بسبب اپنے نور

وَحَدَانِيَّتِكَ مُؤَيَّدًا بِشُهُودِ إِفْرَادِ قُرْدَانِيَّتِكَ

وحدانیت کے، طاقت و توفیق بخشا ہوا ساتھ مشاہدہ کرنے کے تیری یتانی وبے ہمتانی کا

يَا صَدِيدًا يَا فَرْدِيًّا وَتُرْبُوبُوحَدَانِيَّةٍ وَحَدَاةٍ

اے بے نیاز۔ اے یتنا۔ اے تمہا ساتھ وحدانیت وحدہ

وَحَدَاتِكَ يَا وَاحِدًا الْوَاحِدُ يَا أَحَدًا

الوحدة کے۔ اے واحد کامل۔ اے یتنائے

الرَّاحِدُ قُلُّ هُوَ اللَّهُ أَحَدًا

مطلق۔ اے محبوب، فرمادیجئے وہ اللہ یتنا ہے

اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

اللہ بے نیاز ہے۔ اس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور

يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ

وہ کسی سے نہیں جنا گیا اور نہیں ہے

كُفُوًا أَحَدًا

اس کے لیے رشتہ دار کوئی بھی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ  
الْمُتَّصِلِينَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَالِدِهِ  
وَأَوْلَادِهِ

کہ دین نامت افترا نبل

ایز و نشان ستمہ عجاہب و ہدیہ غرات رب الی اللہ  
مقبول بارگاہ کونین حضرت محمد رسول اللہ  
مَسْئَلَةٌ بِهِ

# مَجْمُوعَةُ السُّؤَالِ

الجزء الثالث

فِي بَدَنِهِ وَأَعْضَائِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

از تصنیف و تالیف مولانا محمد رفیع صاحب دہلی

حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہی پور  
صوبہ سرحد پاکستان



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِهٖجَارِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِعِجَازِ بِسْمِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سرعت تاثیر کے طفیل۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِعِجَازِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ

کے اثرات و کمالات کے طفیل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وسعت و فراخی کے طفیل۔ تمام تعریفیں

بِاللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَا لَکَ یَوْمَ الدِّیْنِ

اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے مالک ہے روز قیامت کا۔

اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ

اے ان صفات کمال والے اہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں۔ چلا ہمیں راہ راست پر۔ راہ

الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝

ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ گمراہوں کی۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ مَنْوَرِ بَصَائِرِ الْعٰرِفِیْنَ ۝ بِاَنْوَارِ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا روشن کرنے والا ہے عارفین کی چشمان بصیرت کو۔ ساتھ معرفت

الْمَعْرِفَةِ وَالْیَقِیْنِ ۝ وَجَاذِبِ سَائِرِ الْمَحْقِقِیْنَ ۝ بِجَذَبَاتِ

اور یقین کے انوار کے اور کشش کرنے والا ہے تمام اہل تحقیق کو قرب اور

الْقُرْبِ وَالتَّمْکِیْنِ ۝ وَفَاتِحِ اَقْفَالِ قُلُوْبِ الْمُوَحِّدِیْنَ بِمِفَاتِحِ

تمکین کی کشتوں کے ساتھ اور کھولنے والا ہے قفل اہل توحید کے دلوں سے توحید کی چابیوں

التَّوْحِیْدِ وَجَاذِبِهَا بِجَذَبَاتِ الْقُرْبِ وَالْفَتْحِ الْمُبِیْنِ ۝ الَّذِیْ

کے ساتھ۔ اور ان قلوب کو کھینچنے والا ہے قرب اور فتح مبین کے جذبات کے ساتھ۔ جس نے

اَحْسَنَ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍ ۝ ثُمَّ

موزوں و متناسب بنایا ہر شئی کی تخلیق کو اور آغاز کیا انسان کی تخلیق کا گیلی مٹی سے۔ پھر

جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْعَلِيمُ

بنایا اس کی نسل کو ایسے جوہر و خلاصہ سے جو حقیر پانی سے ہے (وہ اللہ) بہت مہربان رحم فرمائے اللہ ہے۔ صاحب حکمت،

الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْأَنْزَلِيُّ الْقَدِيمُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الَّذِي كَتَبَ آيَاتِ

عالی شان، صاحب عظمت، انزل، قدیم ہے، ہمیشہ سنتے جانے والا ہے جس نے رقم فرمایا ہے توحید کی آیات

التَّوْحِيدِ بِأَقْلَامٍ الْقُدْرَةِ فِي صُدُورِهَا أَهْلِ التَّعْلِيمِ وَمَا فِي سُطُورِ

وعلامات کو اپنی قدرت کاملہ کی قلموں کے ساتھ اہل علم کے صدور و قلوب میں۔ اور بلند کیا

أَهْلَ الْهُدَايَةِ فِي طُرُقِ سِرِّ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ لِأَهْلِ الْوِلَايَةِ نَاهِيكَ بِأَهْلِ

اہل ہدایت کی قطاروں کو اہل معرفت کے اسرار کی راہوں میں واسطے اہل ولایت کے۔ کافی ہیں تیرے لیے (بطور نمونہ) اہل

الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ خَاطِبِ مُوسَى الْكَلِيمِ بِكَلَامِ التَّكْرِيمِ وَشَرَفِ نَبِيِّهِ

کھف اور اہل رقیم۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ اعزاز و اکرام والے کلام کے ساتھ اور شرف فرمایا اپنے نبی

الْكَرِيمِ بِقَوْلِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سُبُعًا مِّنَ الْمُثَنَّى وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

کریم کو اپنے اس قول کے ساتھ اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی ہیں آپ کو سات آیات تکرار کی جانے والی (سورۃ فاتحہ کی) اور قرآن عظیم

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ قَاصِمِ الْجَبَابِرَةِ وَالْمُتَمَرِّدِينَ وَمُبِيدِ الطُّغَاةِ

(اللہ) مالک ہے روز جزا کا۔ توڑنے والا ہے جابروں اور سرکشوں کا۔ اور تباہ کرنے والا ہے باغیوں

وَالْمُعْتَدِينَ وَقَامِعِ رُءُوسِ الْفِرَاعِنَةِ وَأَهْلِ الْبِدَاعِ وَالْمُلْحِدِينَ

اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو اور اتارنے والا ہے سر فرعونوں کے۔ اہل بدعت اور ملحدین کے۔

ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ يَا مَنَ زَيْنَ الْكَافِرَاتِ

وہ (عظیم الشان) اللہ ہی تمنا رب ہے پس بہت بابرکت ہے سب جہانوں کا پالنے والا۔ لے وہ ذات پاک جس نے کائنات کو

مَلَابِسَ التَّكْوِينِ وَأَمْرَسَلْ نَجَائِبَ الْمَلَكُوتِيَّاتِ تَقْوُدُ جَنَائِبَ

مزین کیا تھوین اور ہستی کی پوشاکوں کے ساتھ۔ اور سہرا پائے شرافت سواروں کو جو قیادت کرتی ہیں پائیدار

الْكَرَمِ الْمَتِينِ يَا مَنَ نَشْرَسَحَائِبَ عُقُودِ عَفْوِهِ عَلَى كَافَّةِ

جو دو کرم کے راہواروں کی۔ لے ذات پاک جس نے پھیلا یا ہے اپنے عفو و کرم کے عہد و پیمانے والے بادلوں کو

الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ يَا مَنْ لَا شَرِيكَ لَكَ فِي مُلْكِهِ وَلَا مُعِينٌ إِلَّاكَ تَعْبُدُ

تمام کی تمام مخلوق پر۔ لے وہ ذات ہے ہتا کہ جس کا کوئی شریک نہیں اس کے ملک میں اور نہ ہی کوئی مددگار ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں

مُعْتَرِفِينَ عَنِ الْقِيَامِ بِحَقِّ عِبَادَتِكَ بِالْعُجْزِ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

در آنجا ایک معترف ہیں تیرے حق عبادت کی ادائیگی سے عاجزی و بے بسی کے۔ اور تجھ سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں

عَلَىٰ مَا أَمَرْتُمْ مِنَ الْقِيَامِ بِحَقِّكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينَ يَا ذَا

ان امور میں جن کا تو نے حکم دیا یعنی تیرے حقوق کے قائم کرنے میں ہر وقت اور ہر زمان میں۔ لے

الْفَوْزِ الْعَظِيمِ يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَمِيمِ يَا مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

فوز عظیم کے مالک لے فضل عظیم و محیط کے مالک۔ لے وہ ذات پاک کہ زندہ فرمائی ہے ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ أَهْلِ الدِّينِ الْقَوِيمِ صِرَاطَ أَهْلِ الْإِسْتِقَامَةِ وَ

ہمیں چلا رہ راست پر جو راہ ہے مضبوط اور راسخ دین والوں کی۔ راہ اہل استقامت اور راستی والوں کی۔ راہ

التَّقْوِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ نَظَرْتَ بِعَيْنِ عِنَايَتِكَ إِلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ

ان لوگوں کی کہ تو نے ان پر نظر فرمائی ہے اپنی نظر عنایت کے ساتھ۔ راہ ان لوگوں کی جو پختہ ارادوں والے

الْعَزْمِ وَالْقَلْبِ السَّلِيمِ صِرَاطَ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ وَالتَّسْلِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ

اور قلب سلیم والے ہیں راہ ان لوگوں کی جو اخلاص اور تسلیم کے پیکر ہیں راہ ان کی جنہوں نے

تَمَسَّكُوا بِالْهُدَىٰ وَفَرَّحُوا بِهَا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مَنِ

تھام رکھا ہے (و امن) ہدایت کو اور اس پر خوش و خرم ہیں۔ راہ ان کی جن پر تو نے انعام فرمایا

النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَامْدُدْنَا بِمَلَائِكَتِكَ

یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین اور املاؤں فرما ہماری ظفر و تمکین کے

الظُّفْرَ وَالتَّمَكِينَ وَصَرَّفْنَا فِي الْكَائِنَاتِ وَالْمَكُونَاتِ وَالتَّكْوِينِ

ملائکہ کے ساتھ اور ہمیں صاحب تصرف بنا کائنات اور مخلوقات اور ایجاد میں۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۗ لَا تَجْعَلْنَا ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ

نہ ان کی راہ جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ گمراہوں کی نہ بنا ہمیں گمراہ اور نہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے





وَأَعْنُ بِكَ مَطْرُودِينَ وَاحْشُرْنَا فِي نِزْمَةِ الْمُتَّقِينَ اللَّهُمَّ اَمْلَأْ

اور نہ اپنے در اقدس سے دھتکائے اور راندے ہوئے اور ہمارا حشر فرمانا متیقوں کی جماعت میں۔ اے اللہ بھر دے اور معمور کر دے

جَمِيعَ اَعْضَائِي وَبَدَنِي وَعُرْوَتِي وَحَوَائِي بِكَمَالِ حُبِّكَ وَ

میرے تمام اعضاء کو میرے بدن اور رگوں کو۔ حواس اور تمام قومی کو اپنی محبت کاملہ کے ساتھ اور

حُبِّ حَبِيبِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَوْلَىٰ اِلَىٰ اٰخِرِي اللَّهُمَّ

اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ میرے اول سے لے کر آخر تک۔ اے اللہ

كَيْفَ اصْدُرُ عَنْ بَابِكَ خَائِبًا وَقَدْ وَرَدْتُهُ عَلَىٰ ثِقَةٍ بِكَ اَجِبْ

میں کیسے لوٹ سکتا ہوں تیرے در اقدس سے ناکام اور بے نیل مرام حالانکہ میں وارد ہوا ہوں اس در پر تیری ذات پر اعتماد و وثوق کیساتھ میری دعا قبول فرما

دُعَائِي بِحُرْمَةٍ مَنْ لَا يَرُدُّ مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ فَاِنِّي مُتَوَسِّلٌ بِكَ اِلَيْكَ

بطفیل حرمت اس محبوب کرم کے کہ رو نہیں کیا جاتا جو ان کو وسیلہ بنائے کیونکہ میں بھی انہیں کے ساتھ وسیلہ پکڑنے والا ہوں تیری بارگاہ میں

فَبِعِزَّتِهِ وَشَرَفِهِ دُلَّنِي عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمَحْمَدِيَّةِ وَعَلَى طَرِيقَتِكَ

پس اپنی عزت اور ان کے شرف و فضل کے صدقے میں میری رہنمائی فرما محمدی طریقت اور راستہ کی طرف۔ اور اپنے اس راستہ کی

المُوصَلَةِ اِلَى الْمَقَامِ الْاَحَدِيِّ التَّوْحِيدِيِّ فَارْحَمْنِي وَهَبْ لِي سُوَالِي

جو پہنچانے والا ہے مقام احدیت اور توحید خالص کے مقام تک۔ پس مجھ پر رحم فرما اور مجھے عطا فرما میرا مطلوب

وَاعْفِرْ لِي وَلِلْمُنْتَسِبِينَ اِلَيَّ وَاَقْضِ حَاجَتِي وَحَاجَةَ كُلِّ مَنْ التَّبَعِي

اور میرے لیے مغفرت فرما اور میرے ارباب نسبت کے لیے بھی اور میری حاجت پوری فرما اور ہر اس شخص کی بھی جو میری طرف التجا کرے

اِلَى بِحُرْمَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بطفیل حرمت حبیب کرم کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ قَلْبِهِ فِي الْقُلُوبِ وَمُرُوجِهِ فِي الْاَمْوَاجِ وَ

کی آل پر اور آپ کے قلب پر قلوب میں۔ اور آپ کی روح پر ارواح میں اور

خَيْلِهِ فِي الْخِيَالِ وَقَدِّهْ فِي الْقَدَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی جماعت پر جماعت میں اور آپ کی قامت زریبا پر قامتوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ رَابِعَةِ قَامَتِهِ فِي الْمَرْبُوعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے درمیانے موزوں قدر درمیانہ قدر لوگوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَدَنِهِ فِي

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے بدن اقدس پر

الْأَيْدَانِ وَعَلَىٰ جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ وَعَلَىٰ جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَامِ

ایہاں میں اور جسد اطہر پر اجساد میں اور جسم مطہر پر اجسام میں

اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ وَالْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ أَسْأَلُكَ بِطَاعَةِ

اے اللہ اے مالک فانی ارواح کے اور بوسیدہ اجسام کے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بظہیر اطاعت

الْأَمْوَاحِ الرَّاجِعَةِ إِلَىٰ أَجْسَادِهَا الْمُتَلْتِمَةِ بِعُرُوقِهَا وَبَطَاعَةِ

ان ارواح کے جو لوٹنے والے ہیں اپنے اجساد کی طرف متعلق ہونے والے ہیں ان کی رگوں اور اعصاب کے ساتھ اور بظہیر اطاعت

الْقُبُورِ الْمَشْفُوقَةِ عَنْ أَهْلِهَا وَدَعْوَتِكَ الصَّادِقَةِ فِيهِمْ وَأَخْذِكَ

ان قبور کے جو پھٹنے والی ہیں اپنے مقبورین پر سے۔ اور بوسیدہ تیری دعوت صادقہ کے ان میں اور وصول کرنے تیرے

الْحَقِّ مِنْهُمْ وَقِيَامِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ مِنْ مَخَافَتِكَ وَشِدَّةِ سُلْطَانِكَ

اپنے حق کو ان سے۔ اور اٹھ کھڑے ہونے تمام مخلوق کے بسبب تیرے خوف کے اور مضبوط و قوی غلبہ کے

مُنْتَظِرُونَ إِلَىٰ فَضْلِ قَضَائِكَ وَيَخَافُونَ عَذَابَكَ أَسْأَلُكَ أَنْ

در آغائیکہ وہ منتظر ہوں گے تیری قضاء حقہ کے اور خوف زدہ ہوں گے تیرے عذاب سے۔ سوال کرتا ہوں میں تجھ سے کہ

تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي وَالشُّكْرَ فِي قَلْبِي وَ

پیدا فرمائے نور کو میری آنکھوں میں۔ اور اخلاص کو میرے اعمال میں۔ اور شکر کو میرے دل میں اور

ذِكْرَكَ فِي لِسَانِي بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَا أَبْقَيْتَنِي اللَّهُمَّ خَفِّفْ

ذکر کو میری زبان پر ہر شب و روز جب تک تو مجھے باقی رکھے۔ اے اللہ ہلکا فرما

عَنَّا ثِقَلَ الْأَوْثَانِ وَإِرْسَانِ قَنَا مَعِيشَةِ الْآبْرَارِ وَأَصْرِفْ عَنَّا شَرَّ

ہم سے گناہوں کا بوجھ اور ہمیں نصیب فرما نیک لوگوں والی گزران اور دور کر دے ہم سے شر



وَسُوَاسِ اللَّيْلِ وَالتَّهَارِ وَأَعْتَقُ بِرِقَابِنَا وَبِرِقَابِ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَ

دوسرے ڈانسنے والے (شیطان) کا یل و تہار میں۔ اور آزاد فرما ہماری گردنوں کو اور ہمارے آباء و امہات کی گردنوں کو اور

أَخْوَانِنَا وَأُخْوَانِنَا وَأَحِبَّائِنَا وَاجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ وَأَعْطِنِي بَدَنًا

بہنوں۔ بھائیوں اور ہمارے احباب کی گردنوں کو اور ہیں پناہ دے آگ سے اے پناہ دینے والے اور عطا کر مجھے بدن

لِلَّهِ فَالْحَا وَالْبَدَنَ فِي اللَّهِ صَالِحًا وَلَا يَأْدِنَ لِيغَيِّرِ اللَّهُ طَائِفًا أَلَّهُمْ

فلاح پانے والا اللہ کے لیے اور بدن اللہ کی ذات میں صلاح و تقویٰ والا۔ نہ فریہ بدن جو غیر اللہ کی طرف راغب ہو اور بد عمل ہو۔ اے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَشْفِيَنِي بِحُرْمَتِهِ وَبِعِزَّتِهِ وَبِشَرَفِهِ وَبِقَبُولِهِ

میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے شفا عطا کرے بوسیدہ اس (محبوب) کی حرمت و عزت اور شرف و قبول کے

عِنْدَكَ شِفَاءً تَامًا كَامِلًا عَاجِلًا بَدَنِيًّا قَلْبِيًّا رُوحِيًّا ظَاهِرِيًّا بَاطِنِيًّا

اپنی بارگاہ میں ایسی شفا جو تمام کامل اور فوری حاصل ہونے والی ہو اور بدن و قلب اور روح کے لحاظ سے بھی ہو ظاہر و باطن اور

عِلْمِيًّا عَمَلِيًّا حَالِيًّا وَأَنْ تُخْرِجَ مِنْ جَسَدِي وَلَحْمِي وَعَظْمِي وَدَمِي

علم و عمل اور حال تمام کے لحاظ سے ہو۔ اور یہ کہ نکال باہر کرے میرے جسم اور گوشت سے۔ ہڈیوں اور خون سے

وَعَصَبِي وَحَوَائِي وَقَوَائِي وَجَمِيعِ أَعْضَاءِ بَدَنِي وَأَجْزَاءِ جُسْمِي كُلِّ

اعصاب اور حواس سے۔ میرے تمام قوی اور اعضاء بدن سے اور میرے جسم کے تمام اجزاء سے ہر

مَرَضٍ قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ دَمَوِيٍّ أَوْ بَلْغَمِيٍّ أَوْ سُودَاوِيٍّ أَوْ غَيْرِهَا وَ

مرض کو خواہ پرانے ہو یا نئے۔ دموی ہو یا بلغمی اور سوداوی ہو یا اس کے علاوہ (صفرادی)

تَصَحِّحِي وَتَقْوِيَنِي وَتَجْعَلَنِي طَوِيلَ الْعُمُرِ وَتُنَبِّتَنِي عَلَى الطَّرِيقَةِ

اور مجھے صحت مند بنا دے۔ اور قوی و توانا بنا دے۔ اور مجھے عمر دراز والا بنا دے اور ثابت قدم رکھے مجھے محمدی طریقہ پر

المَحْمَدِيَّةِ الْكَمَلِيَّةِ فِي الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَالْمَعْرِفَةِ

جو انتہائی کامل ہے شریعت و طریقت میں اور حقیقت و معرفت میں

وَتُوصِلَنِي إِلَى مَا يُطْلَبُهُ قَلْبِي حَتَّى يَغْلِبَ عَلَيْهِ حَالُ الْإِيمَانِ وَ

اور اے واصل فرمائے ان احوال تک جنہیں طلب کرتا ہے میرا دل حتیٰ کہ غالب آجائے اس پر حالت ایمان کی اور

تَقْوِيَنِي فِيهِ وَصَفَ الْإِحْسَانَ وَالْإِيْقَانَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ

قوی و توانا فرما دے میرے لیے اس میں احسان و ایقان کا وصف۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ

تَشْفِيَنِي بِصَدَقَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَوْلَادِهِ وَتُصَحِّحَنِي ظَاهِرًا وَبَاطِنًا

تو مجھے شفاء عطا فرمائے حدیث میں سیدنا محمد اور آپ کی اولاد امجاد کے اور مجھے صحت مند بنا دے ظاہر اور باطن کے لحاظ

وَتَقْوِيَنِي خِيَالًا وَحَالًا وَتَجْعَلَنِي طَوِيلَ الْعُمُرِ لِلْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ

سے اور مجھے قوی و توانا بنا دے خیال اور حال کے لحاظ سے۔ اور مجھے طویل عمر عطا کرے اعمال صالحہ کے لیے

فِي مُتَابَعَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اتباع محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ زَعِيمُ الْأَرْكَانِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ

پر جو آقا کہ سردار ہیں ارکان (سلطنت خداوندی) کے۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جو پیدا کئے گئے

مِنَ الشَّهْرِ التَّاسِعِ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَثَلَاثَةِ أَلْفٍ

ناویں مہینہ میں چھ سو پچھترویں سال کے بعد تین ہزار سال کے

لِلطُّوفَانِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ قَبْلَ انْصِدَاعِ الْفَجْرِ

طوفان نوح علیہ السلام سے۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر جو کہ پیدا ہوئے فجر صادق کے چھوٹنے سے قبل

فِي شَهْرِ بُرْجِ الْحَمَلِ بِطَالِعِ الْقَمَرِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

برج حمل کے مہینہ میں، طالع قمر کے وقت۔ اور درود بھیج سیدنا محمد پر جو کہ

وُلِدَ فِي عَشْرِينَ مِنْ أِبْرِيلَ مِنْ عَامِ اثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِ مِائَةٍ

پیدا کئے گئے بیس اپریل کو سن آٹھ سو بیاسی میں

مَنْ تَارِيخِ الْإِسْكَندَرِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ وَالشَّمْسُ

تاریخ اسکندر سے۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر جو کہ پیدا کئے گئے جبکہ آفتاب

بِأَوَّلِ الثَّوْرِ وَالزُّهْرَةُ فِي وَسْطِهِ بِالْحَمَلِ وَالْقَمَرُ فِي الْأَسَدِ وَصَلِّ

برج ثور کے ابتداء میں تھا۔ اور زہرہ اس کے وسط میں حمل کے ساتھ (متصل تھا) اور قمر برج اسد میں تھا۔ اور صلوات بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ قَبْلَ الْهَجْرَةِ بِثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً هَلَالِيَّةً

سیدنا محمد پر جو کہ پیدا کئے گئے ہجرت سے قبل تین سال قمری مہ و سال کی

الْعَدَدِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ فِي السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ مِنْ

گنتی دشمار کے لحاظ سے۔ اور صلوات بیچ سیدنا محمد پر جو کہ پیدا کئے گئے دسویں ساعت میں

لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ وَاعْتَدَلَ لِاثْنَتَيْ عَشَرَ لَيْلَةً خَلَّتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْاَوَّلِ

سوموار کی رات سے۔ اور اعتدال پذیر ہوئے بارہ راتیں گزرنے پر ماہ ربیع الاول سے۔

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ سَنَةً ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَارْبَعِ مِائَةٍ

اور صلوات بیچ سیدنا محمد پر کہ جو پیدا ہوئے سن چار ہزار۔ چار سو تریسٹھ میں

وَارْبَعَةَ اَلْفِ سَنَةٍ مِنْ مَهَبِطِ اَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْجَنَّةِ وَصَلَّ

(۲۶۳ھ) آدم علیہ السلام کے جنت سے اترنے کے بعد اور صلوات بیچ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ بِاَوَّلِ الْحَوْتِ فِي السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ

سیدنا محمد پر کہ جو پیدا ہوئے اول حوت میں دسویں ساعت میں

مِنْ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ بِتِلْكَ

سوموار کی رات سے اور صلوات بیچ سیدنا محمد پر جو ان ستاروں کے دوران پیدا ہوئے

الطَّوَالِعِ وَهِيَ طَوَالِعُ النَّبِيِّينَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اور یہی ستارے ہیں تمام انبیاء علیہم السلام کے۔ اور صلوات بیچ سیدنا محمد پر جو

وُلِدَ عَامَ الْفَيْلِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ وَالشَّمْسُ

عام الفیل میں پیدا ہوئے اور صلوات بیچ سیدنا محمد پر جو پیدا کئے گئے جبکہ سورج

عَلَى اَطْرَافِ الرَّخِيلِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَهَا اسْتَقَرَّ

کھجوروں کے سروں پر تھا۔ اور صلوات بیچ سیدنا محمد پر کہ جو اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں

مہ افضل مولد رحمة اللہ تعالیٰ کے اس قول کا عمل یہ ہو سکتا ہے کہ جتنا وقت غروب آفتاب میں باقی تھا اتنا قدر وقت قیام قیامت میں باقی تھا اور جتنا وقت دن کا گزر چکا تھا اتنا قدر زمانہ آپ کی ولادت باسعادت سے قبل گزر چکا تھا گویا آپ کی ولادت اور قرب قیامت کی تشبیل مقصود ہے ورنہ قول سابق کی سے

مخالفت لازم آتی ہے اور تمام کتب سیر کی جن میں آپ کی ولادت باسعادت کا وقت صحیح صادق بیان کیا گیا ہے۔ ہذا۔ ملاحظہ فرمائیں



فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَاسْتَوَى أَمْرَ اللَّهِ الرَّضْوَانَ أَنْ يُزَيِّنَ جَنَّةَ الْمَأْوَى وَ

قرار پذیر ہوئے اور مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رضوان جنت کو کہ وہ مزین اور آراستہ کرے جنت الماویٰ کو اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قِيلَ لِأُمِّهِ فِي الْمَنَامِ حَمَلَتْ بِغَيْرِ الْإِنَامِ

صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی والدہ ماجدہ سے کہا گیا نیند کی حالت میں کہ تم حاملہ ہو چکی ہو بغیر انام کے ساتھ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نُودِيَتْ أُمُّهُ بِصَوْتِ سَبْعَةِ طُوبَى

اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ نداء دی گئی جن کی والدہ ماجدہ کو ایسی آواز کے ساتھ جسے وہ سنتی تھیں مبارکبادی ہے

لِشَدِي يُرْضِعُهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ الْأَنْبِيَاءُ فِي

اس پستان کے لیے جو انہیں دودھ پلائے گا اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ کہا انبیاء علیہم السلام نے ان

الْمَنَامِ لِأُمِّهِ حَمَلَتْ بِشَمْسِ الْفَلَاحِ وَنَجِبِهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی امی جان کو خواب میں تو حاملہ ہو گئی ہے آفتاب فلاح اور اس کے نجب کے ساتھ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِي لَمَّا وَضَعَتْهُ أُمُّهُ عَرِيْزًا مَّكْرَمًا أَوْطَى بِأَصْبَعِهِ إِلَى السَّمَاءِ

کہ جب انہیں جنم دیا ان کی والدہ ماجدہ نے جبکہ وہ معزز و مکرم تھے تو اشارہ کیا اپنی انگلی مبارک کے ساتھ آسمان کی طرف

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا أَشْرَقَ نُورُهُ فِي الْوُجُوْدِ أَعْلَنَ

اور صلوات بھیج ہمارے آقا محمد پر کہ جب چمکا ان کا نور عالم وجود میں تو علانیہ کیا

بِاللَّهِ بِالسُّجُوْدِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مِلًّا الْحَرَمِ عِنْدَ

اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ معمور کر دیا گیا حرم کعبہ کو ان کی

مَوْلِدِهِ نُورًا أَوْصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَقَصَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ

ولادت کے وقت نور سے اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ رقص کیا بیت حرام نے

عِنْدَ وَضْعِهِ فَرْحًا بِهِ وَسُرُورًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ

آپ کی ولادت کے وقت آپ کے طفیل حاصل شدہ فرحت و سرور کی وجہ سے اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کے

اللَّهُ دِينَهُ مُسْتَعْلِيًّا لَا مُسْتَعْلَى وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَتْ

دین کو اللہ تعالیٰ نے سر بلند اور غالب کیا نہ کہ پست اور مغلوب اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں عرض کیا



لَهُ الْكَائِنَاتُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ أَهْلًا بِالْحَبِيبِ وَسَهْلًا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

سب مخلوقات نے ان کے وقت ولادت میں "حبیب خدا کے لیے خوش آمدید اور مرحبا ہے" اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ الْقَمَرُ يَحْدِثُهُ فِي حَالَةِ الصِّغَرِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر کہ چاند جن کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا ان کی حالت صغر اور بچپن میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ الْقَمَرُ تَلْهِمُهُ عَنِ الْبُكَاءِ وَالشَّهْرِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر کہ جنہیں چاند مشغول رکھتا تھا رونے سے اور بیداری سے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي يَسْمَعُ وَجِبَةَ الْقَمَرِ مِنَ الْفَرَشِ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ

محمد پر کہ جو سنتے تھے چاند کے گرنے کی آواز کو فرش زمین پر ہوتے ہوئے جبکہ وہ سجدہ کرتا تھا

الْعَرْشِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَأَ رِضْوَانٌ فِي أذُنِهِ

عرش اعظم کے نیچے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ رمضان جنت نے جن کے کانوں میں تلاوت کی

وَقَبْلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْرَقَ نُورُهُ

اور بوسہ دیا ان کی پیشانی پر۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کا نور چمکا

فِي وَجْهِهِ أَدَمَ وَجِبْهَتِهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَرَى نَبِيَّ اللَّهِ

آدم علیہ السلام کے چہرے اور ان کی پیشانی میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ مزین فرمایا اللہ تعالیٰ نے

أَسَارِيرَ وَجْهِهِ أَدَمَ بِأَشْعَتِهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

آدم علیہ السلام کے چہرہ کی سلوڑوں کو ان کے نور کی مشاغل سے اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی

طَائِرُ سَعْدِيَّةٍ حَوْلَ كَمَالِهِ مُحَدِّقًا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

سعادتمندی کا نیک شگون اور ستارہ ان کے کمالات کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کے ساتھ

افْتَحَرَبَهُ أَدَمُ وَحَوَّاءُ فِي السَّمَاءِ بظُهُورِ نُورِهِ فِيهِمَا عَلَمَا وَصَلَّ

خز کیا حضرت آدم و حوا نے آسمان میں بسبب ظاہر ہونے آپ کے نور کے ان میں نمایاں طور پر۔ اور صلوٰۃ بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ نُورُهُ فِي عُرَّةِ أَدَمَ الزَّاهِرَةِ وَحَوَّاءَ

سیدنا محمد پر کہ تھا نور آپ کا آدم علیہ السلام کی روشن پیشانی اور حوا کی خزر و عزت والی



الْفَاخِرَةَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَزَلْ نُورًا فِي وَجْهِهِ أَدَمَ

پیشانی میں - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمدؐ پر کہ جن کا نور انور ہمیشہ آدم علیہ السلام کے چہرہ سے بندھتا رہا

سَاطِعًا وَفِي جَبِينِهِ لَامِعًا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَمُلَ بِهِ

اور ان کی پیشانی سے جھلکتا رہا - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمدؐ پر کہ جن کی بدولت کمل ہو گیا

رَأْدَمَ وَحَوَاءُ بُلُوغِ الْمَنَاءِ وَتَمَّ لَهُمَا بِهِ الْقَبُولُ وَالْهِنَا وَصَلَّ عَلَى

حضرت آدم و حوا کے لیے پہنچنا آرزوں تک - اور عمل ہو گئی ان کیلئے بسبب آپ کے قبولیت اور نجاتگاری - اور صلوٰۃ بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي افْتَحَرَبَهُ أَدَمٌ لِحَوَاءٍ لَخَرُّ وَجْهِهِ مِنْ صُلْبِهِ وَ

سیدنا محمدؐ پر کہ جن کی بدولت فریادناظر کیا آدم نے حوا پر بسبب ظاہر ہونے آپ کے ان کی پشت سے اور

تَوَسَّلَ بِهِ إِلَى رَبِّهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اشْتَقَّ أَدَمُ

وسیلہ بنایا آپ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمدؐ پر کہ مشتاق ہوئے حضرت آدم علیہ السلام

لِرُؤْيَيْهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَمَّتْ أَدَمُ وَحَوَاءُ مُشَاهِدَةً

ان کے دیدار کے - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمدؐ پر کہ آرزو کی حضرت آدم و حوا نے ان کے رخِ زیبا اور

طَلْعَتِهِ وَغُرَّتِهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا اشْتَقَّ أَدَمُ إِلَى

پیشانی مبارک کے مشاہدہ کی - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمدؐ پر کہ جب آدم علیہ السلام مشتاق ہوئے ان کی

جَلَالَتِهِ جَعَلَ اللَّهُ نُورَهُ فِي سَبَابَتِهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

جلالت شان (کے نظارہ) کی طرت تواسلر تعالیٰ نے آپ کا نور ان کی انگشت شہادت میں پیدا فرمایا - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمدؐ پر کہ جن کے

جَعَلَ اللَّهُ نُورًا أَصْحَابِهِ فِي بَقِيَّةِ أَصَابِعِ أَدَمَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

صحابہ کرام کا نور اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری انگلیوں میں پیدا فرمایا - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي تَلَاَّتْ أَصَابِعُ أَدَمَ بِنُورِهِ نُورًا وَازْدَادَ بِهِ بِهِ بِهَجَّةٍ وَ

محمدؐ پر کہ چمک اُنھیں اُن کے نور سے آدم علیہ السلام کی انگلیاں ازورئے نور کے - اور زیادہ ہو گئی آپ کی بدولت ان کی مرت

سُرُورًا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ تَزَلْ أَنْوَارُ أَصْحَابِهِ فِي أَصَابِعِ

اور رونق - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمدؐ پر کہ جن کے صحابہ کرام کے انوار ہمیشہ آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں





أَدَمَ تَلَا لَاتٍ وَتَزْدَادُ فِي كُلِّ وَقْتٍ حُسْنًا وَجَمَالًا وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پہنکتے رہے۔ اور وہ ہر لحظہ ترقی کرتی رہیں از روئے حسن و جمال کے۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر

الَّذِي كَانَ بِهِ نُورٌ أَبِي بَكْرٍ فِي الْوَسْطَى مِنْ أَصَابِعِ أَدَمَ يَظْهَرُ وَصَلَّ عَلَيَّ

کہ جن کی بدولت حضرت ابو بکر کا نور آدم علیہ السلام کی درمیان انگلی میں ظاہر ہوتا تھا۔ اور صلوٰۃ بیچ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ بِهِ نُورٌ عُمَرَ فِي الْبُنْصَرِ مِنْ أَصَابِعِ أَدَمَ يَزْهَرُ

سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت حضرت عمر کا نور آدم علیہ السلام کی نبصر (چھنگلی کے ساتھ والی انگلی) میں چمکتا تھا

وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ بِهِ نُورٌ عُثْمَانَ فِي الْخِصْرِ مِنْ

اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت حضرت عثمان کا نور آدم علیہ السلام کی چھنگلی میں

أَصَابِعِ أَدَمَ يَلُوحُ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ بِهِ نُورٌ عَلِيٍّ

نمایاں ہوتا تھا۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت حضرت علی کا نور

فِي الْإِبْهَامِ مِنْ أَصَابِعِ أَدَمَ أَوْضَحَ الْوُضُوحِ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں پوری چمک و دمک پر تھا۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر

الَّذِي وَضَعَ اللَّهُ فِي ظَهْرِ أَدَمَ أَنْوَارَهُ الْمُبَارَكَةَ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں دوایت فرمایا آپ کے انوار مبارکہ کو۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي بِسَبَبِ نُورِهِ سَجَدَتْ لِأَدَمَ الْمَلَائِكَةُ وَصَلَّ عَلَيَّ

پر کہ جن کے نور کے طفیل سجدہ کیا ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو۔ اور صلوٰۃ بیچ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ظَهَرَ بِهِ شَرَفُ أَدَمَ وَعَلِمَهُ اللَّهُ الْأَسْمَاءَ وَصَلَّ

سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت ظاہر ہوا شرف حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماء کی تعلیم دی۔ اور صلوٰۃ بیچ

عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقْبَلَ إِلَيْهِ أَدَمُ وَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَقَبْلَهُ بَيْنَ

سیدنا محمد پر کہ جن کی طرف حضرت آدم متوجہ ہوئے اور انھیں سینہ سے لگایا اور ان کی پیشانی پر

عَيْنَيْهِ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ظَهَرَتْ بِظُهُورِهِ الْعَجَائِبُ

بوسہ دیا اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ ظاہر ہوئے جن کے ظہور سے عجائب



وَالْغَرَائِبُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي غَيَّبَ اللَّهُ نُورَهُ حَتَّى

وغرائب اور صلوات بیچ سیدنا محمد پر کہ اللہ تعالیٰ نے غائب فرمایا ان کے جوہر نورانی کو (آدم علیہ السلام کی پشت میں) حتیٰ کہ

أَظْهَرَ فِي وَجْهِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا انْقَضَى

ظاہر کیا اسے آپ کے والدین کے چہروں میں۔ اور صلوات بیچ سیدنا محمد پر کہ جب آپ کے حمل پر

الشَّهْرُ التَّاسِعُ مِنْ حَمْلِهِ ظَهَرَ لِأُمِّهِ كَمَالُ فَضْلِهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

نانواں مہینہ گزرا تو ظاہر ہوا آپ کی والدہ ماجدہ پر آپ کا فضل کامل۔ اور صلوات بیچ سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي حَدَّثَتْ كُلُّ يَوْمٍ آيَاتٍ ظَاهِرَةٌ صَادِقَةٌ عِنْدَ وِلَادَتِهِ

محمد پر کہ پیدا ہو میں ہر دن آیات ظاہرہ اور سچی نشانیاں آپ کی ولادت کے قریب

وَتَبَيَّنَتْ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخَذَتْ الْأَرْضُ زُحْرُفَهَا

اور پوری طرح نمایاں ہوئیں۔ اور صلوات بیچ سیدنا محمد پر کہ حاصل کی زمین نے اپنی زریا نشتر

عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَتَزَيَّنَتْ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَظَرَتْ لِأُمِّهِ

آپ کی ولادت باسعادت کے قریب اور پوری طرح آراستہ ہو گئی۔ اور صلوات بیچ سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت نظر کی آپ کی والدہ ماجدہ کی

عِنْدَ وِلَادَتِهِ عِيُونَ السَّعَادَةِ وَقَلَّدَتْ بِهِ أَحْسَنَ الْقَلَادَةِ وَصَلَّ

طرف آپ کے وقت ولادت میں سعادت مندی کی آنکھوں نے اور آپ کی بدولت انہیں خوبصورت زیور پہنائے گئے۔ اور صلوات بیچ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَازَتْ أُمُّهُ لَهَا وَضَعَتْ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ

سیدنا محمد پر کہ کامیاب و سرفراز ہو گئیں آپ کی والدہ جب جنم دیا انہوں نے اس مبارک ہستی کو

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَصْبَحَتْ أَغْصَانُ السَّعْدِ فِي حُجْرَةِ

اور صلوات بیچ سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت سعادت مندی کی شاخیں آپ کی والدہ ماجدہ کے حجرہ کی طرف

أُمِّهِ مَائِلَةٌ وَوَقَعَتْ فِي رِيَاضِ عِزِّهَا وَأَمْنِهَا قَائِلَةٌ وَصَلَّ عَلَى

مائل ہوئیں۔ اور ہو گئیں وہ ان کے عزت و امن و اسے باغات میں قبیلہ کرنے والی اور صلوات بیچ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَبَادَرَتْ لِأُمِّهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ الْبَشَائِرُ وَرُفِعَتْ

سیدنا محمد پر کہ سبقت لے گئیں ان کی والدہ ماجدہ کی طرف ان کی ولادت کے دن بشارتیں اور اٹھانے گئے

عَنْ حُجْرَتِهَا أَعْلَامُ الْأَشَائِرِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَتْ

ان کے حجرہ سے نشانات تکالیف و شدائد کے۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ سنی

أُمُّهُ عِنْدَ وَصْعِهِ نِدَاءً مِّنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان کی والدہ ماجدہ نے آپ کی ولادت باسعادت کے وقت نماز زمین سے اور آسمان سے۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِي لَمْ تَجِدْ أُمَّهُ بِحَمْلِهِ حُسْبَىٰ وَلَا وَحْمًا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ نہ پائی ان کی والدہ ماجدہ نے آپ کے ساتھ حاملہ ہونے کی وجہ سے حسرت اور تڑپ اور نہ ہی خوراک سے بے رغبتی اور صلوات بھیج

الَّذِي خِمَدَتْ نَيْرَانُ فَارِسَ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سیدنا محمد پر کہ جن کی ولادت پر بچھ گئیں فارس کی آتشیں۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِي وُلِدَ سَاجِدًا إِلَى الْأَرْضِ رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَصَلَّ عَلَى

کہ جو پیدا ہوتے ہی سجدہ ریز ہوئے زمین پر (جبکہ بعد ازاں) اٹھائے ہوئے تھے اپنے سر نماز کو آسمان کی طرف۔ اور صلوات بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ

سیدنا محمد پر کہ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "اور نہیں مارا آپ نے جبکہ تم نے مارا لیکن اللہ نے

رَمَىٰ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ ذِكْرًا سُوًّا وَصَلَّ عَلَى

مارا۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے موسوم فرمایا ذکر و رسول کے (اسما صفات کے) ساتھ اور صلوات بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ مَخْتُونًا مَكْحُولًا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سیدنا محمد کہ جو پیدا ہوئے ختنہ شدہ اور سرمہ لگے۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِي وُلِدَ نَظِيفًا مَّقْطُوعَ السَّرَّةِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کہ جو پیدا ہوئے صاف ستھرے ناف بریدہ۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جن پر

نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرَائِيلُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

نازل ہوئے جبرئیل علیہ السلام چوبیس ہزار مرتبہ۔ اور صلوات سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَالَ عِنْدَ مَوْلِدِهِ الْبَيْتُ وَالْأَرْكَانُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر کہ جھک گئے ان کی ولادت شریف کے وقت (ان کی طرف سجدہ میں) بیت اللہ شریف اور اس کے ارکان اور صلوات بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ بِيَمِينِ طَلْعَتِهِ الْمُبَارَكَةِ وَسَعَادَتِهِ وَضَعَهُ الْفَلَكَ

محمد پر کہ جن کے (رخ زریا) کے دیدار پاک کی برکت و سعادت کی وجہ سے تجھ گیا آسمان

بِوِلَادَتِهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اهْتَزَلْ مَوْلِدُهُ أَيُّوَانُ كِسْرَى

آپ کی ولادت کے وقت اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ لرز اٹھا جن کے وقت ولادت میں ایران کسری

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَايَنَتْ أُمُّهُ عِنْدَ وَضْعِهِ أَعْلَامَ بَصْرَى

اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ مشاہدہ فرمایا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے وقت ولادت میں بصرہ کے پہاڑوں کا

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَحَ بَطْنُ أُمِّهِ بِجَنَاحِ طَائِرِ أَبِيضٍ

اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس کو ملا گیا سفید پرندے کے پر کے ساتھ

فَزَالَ عَنْهَا الرَّوْعُ وَنَهَضَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَرَدَّ لِأُمِّهِ

پس اُن سے زائل ہو گیا خوف اور اٹھ گیا اضطراب اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جو لوٹائے گئے اپنی والدہ ماجدہ کی طرف

مِنْ طَبَقَاتِ السَّمَوَاتِ بَعْدَ أَنْ أَبَدَتْهُ الْمَلَائِكَةُ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ وَ

آسمان کے طبقات سے بعد اس کے کہ ظاہر کیا تھا آپ کو ملائکہ نے دیدار کے لیے تمام مخلوقات پر اور

صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَتْ أُمُّهُ عِنْدَ وَضْعِهِ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ

صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی والدہ ماجدہ نے دیکھے آپ کے وقت ولادت میں تین پرچم

عَلَمًا بِالشَّرْقِ وَعَلَمًا بِالمَغْرِبِ وَعَلَمًا بِالبَيْتِ الْحَرَامِ وَصَلَّ عَلَى

ایک پرچم مشرق میں دوسرا مغرب میں اور تیسرا بیت حرام میں - اور صلوات بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَتْ أُمُّهُ حِينَ وَضَعَتْهُ وَظَهَرَ قُطْعَةٌ مِّنَ الطَّيْرِ

سیدنا محمد پر کہ جن کی والدہ ماجدہ نے دیکھا آپ کے وقت ولادت میں کہ ظاہر ہوتی ہے پرندوں کی ایک جماعت

تُظَلُّهُ مَنَاقِبُهَا مِّنَ الزُّمَرِ وَأَجْنَحُهَا مِّنَ الْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ وَصَلَّ

ان پر سایہ کنال کہ جن کی چونچیں زمرد سے ہیں اور ان کے پر سُرُخِ یاقوت سے ہیں - اور صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا وَضَعَتْهُ أُمُّهُ كَالْغُصْنِ الرَّطْبِ وَصَلَّ عَلَى

بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں جس وقت ان کی والدہ ماجدہ نے جنم دیا تھا تو وہ تھے تر و تازہ (نور دیدہ) اشخ کی مانند - اور صلوات بھیج

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي غُسِلَ بِطُشْتٍ مِّنَ الْفَرْدُوسِ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدَنَا

سیدنا محمد پر کہ جنہیں غسل دیا گیا جنت الفردوس کے طشت میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَصْبَحَتْ أَصْنَامُ الدُّنْيَا عِنْدَ وِلَادَتِهِ مُنْكَسَةً الرَّءُوسِ

محمد پر کہ ہو گئے اصنام و اوثان ساری دُنیا کے آپ کی ولادت کے وقت سرنگوں

وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعَتْهُ عِنْدَ وَضْعِهِ السَّحَابَةُ وَاخْتَفَتْهُ

اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں اٹھا لیا ان کی ولادت کے بعد ایک بدلی نے اور انہیں پوشیدہ کر لیا

عَنِ الْأَهْلِ وَالْقَرَابَةِ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَهَا ظَهْرَتْ

گھروالوں سے اور قرابت داروں سے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جب ظاہر ہوا

نَسْمَتُهُ الْكَرِيمَةُ الْقَيِّتُ عَلَيْهِ تَمِيمَةٌ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ان کا جسم مبارک تو پھنائے گئے انہیں تعویذ۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن پر

أَشْرَفَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ وَضْعِهِ الْحُورُ يُظْهِرُنَ الْفَرْحَ بِهِ وَالسُّرُورُ وَصَلَّ

جہانکا وقت ولادت میں حوران جنت نے درآئیا لیکہ نماہر کرتی تھیں فرحت اور سرور بسبب ان کے۔ اور صلوٰۃ بھیج

عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَكَ الشَّجَرَةَ الْيَابِسَةَ وَهُوَ يَرْضَعُ فَأَخْضَرَتْ

سیدنا محمد پر کہ جو چھو گئے خشک درخت کے ساتھ شیر خوارگی کے دوران تو سبز ہو گئے

وَرَقَهَا فِي يَدَيْهِ وَأَيَّتَعُ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَهَا وَضَعَتْهُ

پتے اس کے آپ کے ہاتھ میں اور وہ پھلدار ہو گیا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں جنم دیا

أُمُّهُ عَلَى النَّوَى لَفَّهٖ جِبْرَائِيلُ فِي حَرِيرَةٍ خَضْرَاءَ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدَنَا

والدہ ماجدہ نے گیلی زمین پر تو پیٹا انہیں جبرائیل علیہ السلام نے سبز ریشم میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي طَيْفَ بِطَيْنَتِهِ جَنَّتِ النَّعِيمِ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر کہ جن کی طینت مبارکہ کو طواف کرایا گیا جنات نعیم میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِي غُمِسَتْ طَيْنَتُهُ بِأَنْهَارِ النَّسِيمِ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کہ جن کی مقدس طینت اور خمیر کو غوطے دے گئے نسیم کی نہروں میں اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ

طِيفَ بِطِينَتِهِ وَلَهَا عَرَقٌ يَسِيلُ فَخَلِقَ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ جَلِيلٍ وَصَلَّ

طواف کرایا گیا آپ کی طینت مبارک کو در آنجا لیکر اس سے پسینہ بہتا تھا پس پیدا کیا گیا اسی پسینہ سے ہر حلالیت و عظمت والی شئی کو۔ اور صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَقَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ الْأَبْرَامُ يُحْبِبُونَهُ عَنِ الْغِيَارِ

بیچ سیدنا محمد پر کہ جن کے گرد پرے جمائے ملائکہ ابرار نے جو ڈھانپتے تھے آپ کو (نگاہ) اغیار سے

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَتَّ ابْلِيسُ عِنْدَ مَوْلِدِهِ رَنَّةٌ سَبْعَهَا

اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ اس زور سے رویا ابلیس آپ کی ولادت باسعادت کے وقت کہ سنا

مِنْهُ الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَشَّرَتْ أُمُّهُ الْحَوْرُ

اس کی آواز کو تمام مخلوق نے۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جن کی والدہ ماجدہ کو بشارتیں دیں حوران بہشتی نے

بُظُورٍ غُرَّةِ الْيَمِينِ وَالنُّورِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ

برکت اور نور والی پیشانی کے ظاہر ہونے کی۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر جو پیدا ہوئے اس حال میں

مَدَّهُ هُونًا مَعَطَّرًا طَاهِرًا مَطَهَّرًا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ

کہ انہیں تیل اور عطر لگا ہوا تھا اور طاهر و مطہر تھے اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جو پیدا ہوئے اس شان سے

وَنُورًا وَجْهَهُ يَتَوَقَّدُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا وُلِدَ قَطُّ

کہ ان کے چہرہ انور کا نور پوری قوت سے چمک رہا تھا۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ نہیں پیدا کیا گیا کبھی کوئی

مِثْلَهُ فِي الْوُجُودِ وَلَا يُوَلَّدُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَمَلَتْ

ان سے قبل عالم وجود میں مانند ان کی اور نہ (لوہ میں) پیدا کیا جائے گا اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ حاملہ ہوئیں

بِهِ أُمُّهُ بِلَا نَصَبٍ وَلَا تَعَبٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ وَصَلَّ

ساتھ ان کے ان کی والدہ ماجدہ بغیر کوفت اور مشقت کے جمعہ کی رات میں ماہ رجب سے۔ اور صلوٰۃ بیچ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَفَقَتْ فِي الْأَكْوَانِ أَعْلَامُ عُلُومِهِ مُبَشِّرَاتٍ

سیدنا محمد پر کہ لہرائے موجودات میں ان کے علوم کے پرچم جو کہ بشارت دینے والے تھے

عہ۔ شیخ متفق نے شب طلق ماہ ذوالحجہ کی ایام تشریق والی شب جمعہ کو قرار دیا ہے اور حضرت مولانا نے ماہ رجب کو تو رجب تطبیق یہ ہوگی کہ قریش مکہ کی تقدیم و تاخیر اور

مہینوں میں تصرف کی وجہ سے اس کو ذوالحجہ کا مہینہ کہا جا رہا تھا حالانکہ فی الواقع ترتیب خداوندی کے لحاظ سے وہ ماہ رجب تھا تھی تو ماہ پرے آپ کا والدہ ماجدہ

کے بطن اقدس میں رہنا منظور ہو سکتا ہے جس پر تمام اہل سیر کا اتفاق ہے۔ ہذا واللہ ورسولہ اعلم۔ محمد اشرف سیاروی غفرلہ۔

يُظهِرُهَا وَقَدْ وَصَلَتْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَى الْبَشِيرُ بِهِ

آپ کے ظہور اور تشریف آوری کی۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ یہ منادی کی آپ کی بشارت دینے والے نے

فِي الْخَلَائِقِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تمام مخلوقات میں (اور میں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت واسطے سب جہانوں کے) اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِي نَادَى أُمَّهُ كُلُّ نَبِيٍّ إِهْتَدَى إِذَا وَضَعَتْ شَمْسُ الْفَلَاحِ وَالْهُدَى

کہ ندادی ان کی امی جان کو ہر نبی ہدئی نے کہ جب تو جنم دے کامیابی و سرفرازی اور رشد و ہدایت کے آفتاب کو

تُسَيِّبُهُ مُحَمَّدًا أَوْصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَ لِأُمَّهِ أَدَمٌ فِي الْمَنَامِ

تو اس کا نام محمد رکھنا اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ آئے جن کی والدہ ماجدہ کے پاس حضرت آدم خواب میں

وَهَنَّاهَا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَلَّمَ عَلَى أُمَّهِ الْكَلِيمِ فِي الْمَنَامِ

اور انہیں مبارک باد دی۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ سلام دیا جن کی والدہ ماجدہ کو حضرت کلیم نے خواب میں

وَحَيَّاهَا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَبِلَ اللَّهُ خُشُوعَهُ وَخُضُوعَهُ

اور مرثدہ دیا۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ قبول کیا اللہ تعالیٰ نے جن کے خشوع اور خضوع کو

اللَّهُمَّ أَعْطِنِي عَطَاءً كَامِلًا مُكْتَمَلًا عَاجِلًا مُعَجَّلًا لِّطَاعَتِكَ وَإِطَاعَةِ

لے اللہ مجھے عطیہ دے عطیہ کامل و مکمل اور فری طور پر جو مجھے جلد از جلد آمادہ کرنے والا ہو تیری اطاعت پر

حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اشْفِنِي شِفَاءً كَافِيًا وَارِفِيًا

اور تیرے حبیب محمد کی اطاعت پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے اللہ مجھے شفاء عطا فرما ایسی شفاء جو کافی و وافی ہو

لِدَفْعِ أَمْرَاضِ الدَّارَيْنِ وَالْكُونَيْنِ بِحُرْمَةِ ذَاتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

واسطے دور کرنے دوا دارین اور کونین کی امراض کے بطفیل حرمت محمد کریم کی ذات کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

وَبِحُرْمَةِ صِفَاتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ رَأْسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اور بطفیل حرمت محمد کریم کی صفات کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمد کریم کے سر ناز کے صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ وَجْهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ

اللہ علیہ وسلم اور بطفیل حرمت محمد کریم کے چہرہ اقدس کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت

جَبْهَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ حَاجِبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

محمد کریم کی پیشانی مبارک کے صلی اللہ علیہ وسلم اور بطفیل حرمت محمد کریم کے آبروئے میمون کے صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ عَيْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ أُذُنِ

علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمد کریم کی چشمان متور کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمد کریم کے گوشائے

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ أَنْفِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مقدسہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور بطفیل حرمت محمد کریم کی بینی پر نور کے صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ شَفَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ لِسَانِ

وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمد کریم کے لبہائے مقدسہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمد کریم کی زبان حق ترجمان

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ أُسْنَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمد کریم کے دندان مبارک کے صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ ذَقْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ جِدِّ مُحَمَّدٍ

وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمد کریم کی ٹھوڑی مبارک کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمد کریم کی گردن مبارک کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ صَدْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمد کریم کے سینہ اور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور

بِحُرْمَةِ بَطْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ ظَهْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

بطفیل حرمت محمد کریم کے شکم مبارک کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمد کریم کی پشت اقدس کے صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ أَيْدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ

اللہ علیہ وسلم اور بطفیل حرمت محمد کریم کے مقدس ہاتھوں کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت

أَرْجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ أَصَابِعِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

محمد کریم کے مقدس قدموں کے صلی اللہ علیہ وسلم اور بطفیل حرمت محمد کریم کی مبارک انگلیوں کے صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ أَقْدَامِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ

علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمد کریم کے مقدس پیروں کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت



لِيَا سِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ مَا كُولِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

محمد کریم کے مبارک لباس کے صلی اللہ علیہ وسلم - اور بطفیل حرمت محمد کریم کے طعام مبارک کے صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ مَشْرُوبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ

علیہ وسلم - اور بطفیل حرمت محمد کریم کے مشروب مبارک کے صلی اللہ علیہ وسلم - اور بطفیل حرمت

مَسْكِنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ عَضُودِ مَنْ أَعْضَاءِ مُحَمَّدٍ

محمد کریم کے مسکن مبارک کے صلی اللہ علیہ وسلم - اور بطفیل حرمت محمد کریم کے ہر عضو کے اعضاء مبارک سے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ تُرَابِ أَقْدَامِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

صلی اللہ علیہ وسلم - اور بطفیل حرمت محمد کریم کے قدم مبارک سے گھنے والی مٹی کے صلی اللہ علیہ

وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الْاَلْفُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

وآلہ وسلم - اے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے الف - اے اللہ صلوات بھیج

مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الْاِبَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ التَّاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

محمد کریم پر جب تک باقی رہے باء - اے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے تاء اے اللہ صلوات بھیج

مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الشَّاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الْجِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد کریم پر جب تک باقی رہے تاء - اے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے جیم - اے اللہ صلوات

عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الْحَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الْخَاءُ اللَّهُمَّ

بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے حاء - اے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے خاء - اے اللہ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الدَّالُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الدَّالُ

صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے دال - اے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے ذال

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الرَّاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ

اے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے راء - اے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے

الرَّاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ السَّيْنُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

راء - اے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے سین - اے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر



مَا دَامَ الشَّيْنُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الصَّادُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

جب تک باقی رہے شین۔ لے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے صاد۔ لے اللہ صلوات بھیج

مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الصَّادُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الطَّاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد کریم پر جب تک باقی رہے صاد۔ لے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے طاء۔ لے اللہ صلوات بھیج

عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الطَّاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الْعَيْنُ اللَّهُمَّ

محمد کریم پر جب تک باقی رہے طاء۔ لے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے عین۔ لے اللہ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الْغَيْنُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الْفَاءُ

صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے غین۔ لے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے فاء

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الْقَافُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا

لے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے قاف۔ لے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک

دَامَ الْكَافُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ اللَّامُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

باقی رہے کاف۔ لے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے لام۔ لے اللہ صلوات بھیج

مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الْمِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ التَّوْنُ اللَّهُمَّ

محمد کریم پر جب تک باقی رہے میم۔ لے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے تون۔ لے اللہ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الْوَاوُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الْهَاءُ

صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے واو۔ لے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے ہاء

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ اللَّامُ وَالْأَلِفُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ

لے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے لام۔ لے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے

الْيَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَ الْحُرُوفُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ

یا۔ لے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہیں حروف ہجاء اول سے آخر تک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا دَامَتِ الْمُقَطَّعَاتُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

لے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہیں حروف مقطعات۔ لے اللہ صلوات بھیج محمد کریم پر



مَا دَامَتِ الْآيَاتُ الْمُتَشَابِهَاتُ فِي مَحْفِي الْبَشَارَاتِ اللَّهُمَّ اعْطِنِي

جب تک باقی آیات متشابہات محفی بشارات (اور اسرار و رموز) کی حالت میں۔ اے اللہ مجھے عطا فرما

مَعِيَّتِكَ وَمَعِيَّتَهُ وَمَعِيَّةَ حَقِيقَتِكَ وَحَقِيقَتِهِ بِحُرْمَةِ ذَاتِ

اپنی معیت اور اپنے محبوب کی معیت اور اپنی حقیقت اور حق کی معیت اور ان کی حقیقت کی معیت بطیفیل ذات

مُحَمَّدٍ وَصِفَاتِ مُحَمَّدٍ وَبِحُرْمَةِ حُبِّ مُحَمَّدٍ وَبِحُرْمَةِ حَالِ مُحَمَّدٍ

محمد کی اور صفات محمد کی حرمت کے اور بطیفیل حب محمد کی حرمت کے اور بطیفیل حال محمد کی حرمت کے

وَخِيَالِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ مُحَمَّدٍ وَبِحُرْمَةِ اِنْعَامِ مُحَمَّدٍ وَاِكْرَامِ مُحَمَّدٍ

اور آپ کے خیال و قال و قال کی حرمت کے۔ اور بطیفیل انعام محمد و اکرام محمد

وَاسْمِ مُحَمَّدٍ وَجِسْمِ مُحَمَّدٍ وَبِحُرْمَةِ رَأْسِ مُحَمَّدٍ وَوَجْهِ مُحَمَّدٍ

اور اسم محمد و جسم محمد کی حرمت کے اور بطیفیل حرمات محمد کریم کے سرناز و چہرہ انور کے

وَشَعْرِ مُحَمَّدٍ وَجِبْهَةِ مُحَمَّدٍ وَحَاجِبِ مُحَمَّدٍ وَعَيْنِي مُحَمَّدٍ وَاُذُنِي

اور گیسوتے محمد اور جبین محمد اور ابروتے محمد کے اور چشمان محمد اور گوشائے

مُحَمَّدٍ وَانْفِ مُحَمَّدٍ وَشَفَةِ مُحَمَّدٍ وَبِحُرْمَةِ اَسْنَانِ مُحَمَّدٍ وَ

محمد کے بینی محمد اور لبھائے محمد کے اور بطیفیل حرمت دندان محمد کے اور

لِسَانِ مُحَمَّدٍ وَذَقْنِ مُحَمَّدٍ وَجِيدِ مُحَمَّدٍ وَصَدْرِ مُحَمَّدٍ وَبَطْنِ

زبان محمد کے اور زخندان محمد اور گردن محمد کے۔ سینہ محمد اور ظم

مُحَمَّدٍ وَظَهْرِ مُحَمَّدٍ وَايْدِي مُحَمَّدٍ وَارْجُلِ مُحَمَّدٍ وَاصْبَاعِ مُحَمَّدٍ

محمد کے اور پشت محمد کے دستھائے محمد اور پاہائے محمد کے۔ انگشتان محمد

وَاقْدَامِ مُحَمَّدٍ وَلِبَاسِ مُحَمَّدٍ وَمَا كُوْلُ مُحَمَّدٍ وَمَشْرُوبِ مُحَمَّدٍ

اور کف پائے محمد کے۔ اور لباس محمد اور ماکول محمد کے اور مشروب محمد کے

وَمَسْكِنِ مُحَمَّدٍ وَكُلِّ عَضْوٍ مِنْ اَعْضَاءِ مُحَمَّدٍ وَبِحُرْمَةِ تَرَابِ اَقْدَامِ

اور قیام گاہ محمد کے اور بطیفیل ہر ہر عضو کے اعضاء محمد سے اور بطیفیل حرمت غبار کف پائے

مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اقْبَلْ عَذْرَائِي وَتَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَتُبَّ عَلَيَّ بِالْعَنَائَةِ

محمد کے۔ اے اللہ قبول فرما میری معذرت کو اور مقبول ٹھہرا میری توبہ کو اور نظر رحمت فرما مجھ پر ساتھ عنایت

الْخَاصَّةِ بِحُرْمَةِ حَبِيبِكَ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ فِي مَقَامِهِ الْخَاصِّ أَحَدٌ

خاصہ کے صدقے میں حرمت اپنے حبیب کے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے ان کے مقام خاص میں

مِنَ الْأَنْزِلِ إِلَى الْأَبَدِ فِيمَا تُحِبُّهُ وَيُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ

ازل سے اب تک اس (مقام خاص میں) کہ اسے تو پسند فرماتا ہے اور وہ بھی پسند فرماتے ہیں اور تو اس پر راضی ہے اور وہ بھی اس

بِرَحْمَتِكَ الْعَامَّةِ الْوَاسِعَةِ الرَّافِعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر راضی ہیں بسبب اپنی رحمت کے جو عام ہے اور وسیع و بلند مرتبت ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى هَيْكَلِهِ فِي الْهَيَاكِلِ

محمد پر اور آل سیدنا محمد پر اور ان کے سراپائے اقدس پر جملہ مجسموں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَارِحَتِهِ فِي الْجَوَارِحِ وَجُثَّتِهِ فِي الْجُثَّاتِ وَ

محمد پر اور آپ کے اعضاء مبارکہ پر تمام اعضاء میں اور جثہ مبارک پر تمام جثوں میں۔ اور

شَبَعِهِ فِي الْأَشْبَاحِ وَإِمْرِيهِ فِي الْأَرَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آپ کے شخص پر اشخاص میں اور ہر عضو پر اعضاء میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى شَخْصِهِ فِي الْأَشْخَاصِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے شخص پر اشخاص میں

وَشُدْفِهِ فِي الشُّدُوفِ وَعَضْوِهِ فِي الْأَعْضَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور ان کے ڈھلوان رخسارہ پر ڈھلوان رخساروں میں اور آپ کے ہر عضو پر اعضاء میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَوْبَائِهِ فِي الْحَوْبَاتِ

سیدنا محمد پر اور اقدال سیدنا محمد پر اور آپ کے نفس پر نفوس میں



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے

ظلمہ فی الاطلالِ وَعَلَى جَانِبِهِ الْوَحْشِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ٹیلے یا چوڑے پر ٹیلوں یا چوڑوں میں اور آپ کی اس جانب اور پہلو پر جو مخلوق کیلئے معلوم اور مانوس نہیں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَالِهِ فِي الْخَيْلَانِ وَعَلَى جَانِبِهِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے خال پر خالوں میں اور آپ کی اس جانب اور پہلو پر جو

الْإِنْسِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

معلوم اور مانوس ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَعَلَى بَيْتِيَّتِهِ فِي الْبُتَائِلِ وَشَعْرِهِ فِي الشُّعُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی باریک کمرہ باریک کمروں میں اور آپ کے (ہر ہر) بال پر بالوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى فَرْقِهِ فِي الْفُرُوقِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی مانگ پر مانگوں میں

وَسَدْلِهِ فِي السَّادِلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور آپ کے (بغیر مانگ) پیچھے ہٹائے ہوئے بالوں پر ایسے ہی بالوں میں اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَفَرْتِهِ وَلَمَّتِيهِ وَجَمَّتِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے کانوں تک پہنچے ہوئے بالوں پر اور کندھوں تک لٹے بالوں پر اور ان دونوں مقام کے درمیان تک پہنچے بالوں پر ایسے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ذَوَائِبِهِ فِي الدَّوَائِبِ

اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی مینڈھی پر مینڈھیوں میں

وَعَدِيرَتِهِ فِي الْعَدَائِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور گوندھی چوٹی پر گوندھی چوٹیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ضَفِيرَتِهِ فِي الصَّفَائِرِ وَقَصْرِهَا فِي الْمَقْصَرِينَ

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی زلف پر زلفوں میں۔ اور آپ کے کٹے ہوئے بالوں پر قصر کرانے والوں میں



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے

حَلْقِهِ فِي الْمَحْلِقِينَ وَفُودِهِ فِي الْأَفْوَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

حلق کئے ہوئے بالوں پر حلق کرانے والوں میں۔ اور آپ کے گیسو پر گیسوؤں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى خِفَائِهِ فِي الْأَخْفَاءِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے گھنگریالے بالوں پر ایسے بالوں میں اور

شَيْبَتِهِ فِي الشَّيْبَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آپ کے بالوں کی سفیدی پر بالوں کی سفیدیوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى شَطْبِهِ فِي الشَّمْطَاتِ وَشَعْرِهِ فِي الْأَشْعَارِ

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے سیاہ و سفید بالوں کے مجموعہ پر ایسے مجموعات میں اور آپ کے ہر بال پر بالوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے

جَبَاكِهِ فِي الْحَبِكِ وَمَأْسِهِ فِي الرَّءُوسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کمر بند پر کمر بندوں میں۔ اور سرناز پر سروں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ذُرْوَتِهِ فِي الذَّرَى وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی چوٹی پر چوٹیوں میں۔ اور

شُؤَاتِهِ فِي الشُّؤَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

آپ کی کھوپڑی کے چڑے پر ان چڑوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَمْحَاقِهِ وَجَلْجَلَتِهِ فِي الْجَلْجَلِ وَعَلَى جُمَّمَتِهِ

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے سر کی ہڈی پر موجود باریک بھلی پر اور اس کی جنبش و لرزش پر جنبشوں میں

وَقَاعِدَةَ دِمَاقِهِ وَعَلَى عَظْمِهِ الْوَتْدِيِّ فِي الْعِظَامِ وَجُدْرَانِ

اور آپ کی کھوپڑی پر اور آپ کے دماغ کے بنیاد و اساس والے حصہ پر۔ اور آپ کی سیدی ہڈی پر ہڈیوں میں اور آپ کے سر اقدس کے اطراف والی



رَأْسِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہڈیوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَعَلَى عَظْمِ جَبْهَتِهِ فِي الْجَبَاهِ وَعَظْمِ قَبْحُدْوَتِهِ فِي الْعِظَامِ وَعَلَى

اور آپ کی پیشانی والی ہڈی پر ہڈیوں میں۔ اور سراقس کی پچھلی جانب والی ہڈی پر ہڈیوں میں اور آپ کے

عَظْمِيهِ الْحَجَرَيْنِ وَقُحْفِهِ فِي الْأَقْحَافِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سراقس کے ارد گردی دو ہڈیوں پر۔ اور آپ کی کھوپڑی کے بالائی ریبائلرنا حصہ پر بالائی حصوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى دُرُزِهِ فِي الدُّرُوزِ الْأَكْلِيَّةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے (دماغ کے) جوڑ اور اتصال پر اتصالات میں۔

وَدُرُزِهِ الْأَرْمِيِّ وَدُرُزِهِ السَّهْبِيِّ وَدُرُزِيهِ الْقَشْرِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور تاج کی محیط پٹی جیسے پردے اور وسطی پردے اور جوڑ پر اور نیز جیسے سیدے پردے پر اور جھال کی مانند محیط دو پردوں پر اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى شَانِهِ فِي

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے حال عظیم پر

الشُّوْنِ وَيَا فَوْجَهُ فِي الْيَأْفِيحِ وَمَفْرَقِهِ فِي الْمَفَارِيقِ وَعِشَاءِ فَوْقِ

احوال میں۔ اور آپ کے تالو (اور وسط راس) پر تالوں میں اور آپ کی مانگ پر مانگوں میں اور کھوپڑی کے بالائی حصہ کے

قُحْفِهِ فِي الْأَغْشِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اوپر والے پردہ پر پردوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أُمِّهِ الْغَلِيظَةِ وَأُورِدِمَاغِهِ وَمَخِّهِ فِي

سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی مرنی جھلی پر۔ اور دماغ والی جھلی پر (جس میں وہ پٹا ہوتا ہے) اور آپ کی ہڈیوں کے گوشے اور

الْأَمْخَاخِ وَدِمَاغِهِ فِي الْأَدْمِغَةِ وَعِشَائِيْنِ تَحْتِ دِمَاغِهِ وَبَطْنِ

بھیجے پر گوشوں میں اور آپ کے دماغ پر دماغوں میں اور ان دو پردوں پر جو آپ کے دماغ کے نیچے ہیں۔ اور آپ کے دماغ کے

دِمَاغِهِ الْمُقَدَّمِ وَالْأَوْسَطِ وَالْمُوَخَّرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

بطن مقدم۔ اوسط اور مؤخر پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَجْمَعِ بَطْنِيهِ فِي الْمَجَامِعِ وَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے (دماغ کے) دونوں مقامات اتصال پر مقامات اتصال میں اور

شَبَكَتِهِ فِي الشَّبَكَاتِ وَدُودَتِهِ فِي الدَّيْدَانِ وَحَبَابِي دِمَاغِهِ فِي

دماغ کی حالی پر جالیوں میں - اور آپ کے دماغ کے جرثومہ پر جراثیم میں - اور آپ کے دماغ کے دونوں پردوں

الْحُجُبِ وَمَعَصِرَتِهِ فِي الْمَعَاصِرِ وَقَيْمَتِهِ فِي الْقَيْمِ وَحَاقِ رَأْسِهِ

پر جملہ پردوں میں - اور رس کے پھوڑنے کی جگہ پر پھوڑنے کے مقامات میں اور آپ کے سر قدس کی انتہائی بند جگہ پر بند جگہوں میں - اور آپ کے سر قدس

فِي الرَّءُوسِ وَفَاسِ رَأْسِهِ فِي الْأَفْوَسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

کے وسط میں تمام سروں میں اور آپ کے سر کے ٹوخر میں ابھری ہوئی بڑی پران ہڈیوں میں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَنْتَقِرِ قُحْفِهِ فِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی کھوپڑی کی اگلی لوک پر

الْأَحْقَافِ وَنُقْرَتِهِ فِي النُّقْرِ وَمَسَامِيهِ فِي الْمَسَامِيهِ وَمَشِيمَتِهِ

کھوپڑیوں میں - اور کھوپڑی کے گڑھے پر تمام گڑھوں میں - اور آپ کے ہر مسام پر تمام مساموں میں اور آپ کے (معدوں کے)

وَجَلْدِهِ فِي الْجُلُودِ وَصُرْمِهِ فِي الْأَصْرَامِ وَلَحْمِهِ فِي اللَّحُومِ وَ

پردے پر اور جلد پر جلدوں میں اور آپ کی کھال پر کھالوں میں اور گوشت پر گوشتوں میں اور

مُضَغَّتِهِ فِي الْمُضَغَّتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

گوشت کے لوتھڑے پر لوتھڑوں میں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَحْمِهِ فِي الشُّحُومِ وَسَيْبِنِهِ فِي السَّيْبَانِ وَ

سیدنا محمد کی آل پر - اور آپ کی چربی پر چربیوں میں - اور چربی والے گوشت پر گوشتوں میں اور

شُرْحَتِهِ فِي الشَّرْحَاتِ وَعِشَائِهِ فِي الْأَعْشِيَةِ وَعَصَبِهِ فِي الْأَعْصَابِ

آپ کے گوشت کے ہر ہر ٹھٹھے پر ٹھٹھوں میں - اور ہر پردے پر پردوں میں اور ہر پٹھے پر پٹھوں میں

وَعُضُلَتِهِ فِي الْعُضْلَاتِ وَوَتْرِهِ فِي الْاَوْتَارِ وَرِبَاطِهِ فِي الرَّبَاطَاتِ

اور ہر عضلہ (سخت پٹھے) پر عضلات میں - اور ہر وتر (تار) پر اوتار میں اور ہر جوڑ پر (جوڑ لگیہ ربطہ) جوڑوں میں





اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى لِيْفِهِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی ہر خشک رگ پر

فِي اللَّيْفَاتِ وَعَرْقِهِ فِي الْعُرُوقِ وَعُرُوقِهِ الضُّوَارِبِ وَالسَّوَاكِنِ وَالشَّعْرِيَّةِ

رگوں میں اور ہر خون والی رگ پر رگوں میں۔ اور آپ کی متحرک رگوں اور ساکن رگوں پر اور بالوں کو

وَوَهْدَيْهِ فِي الْأَوْهَادِ وَشْرِيَانِهِ فِي الشَّرَائِينِ وَشَطِيئَةِ عُرُوقِهِ فِي

ان کی غذا پہنچانے والی رگوں پر اور آپ کی گردن والی رگ پر ان رگوں میں۔ اور آپ کی سُرخ خون کے دوران کے ساتھ پھرتی رگ پر

الشَّظَايَا وَقِيْفَالِهِ وَالْجُلْدِهِ وَبِأَسْلِيْقِهِ وَحَبْلِ ذِرَاعِهِ وَأُسَيْلِيْهِ وَ

ان رگوں میں اور رگوں کے مجموعہ پر جملہ مجموعات میں اور آپ کی کہنی کے قریب والی قابلِ تھد رگ اور رگ اکمل اور باسلیق پر اور کلائیوں والے پٹھے پر اور جڑوں

وَرِبَاطِيْهِ وَمَا بِيْضِهِ وَعَرْقِ نِسَائِهِ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا رَبَّ كُلِّ

والی ڈبڑوں پر اور آپ کی دونوں ہاتھوں والے پٹھوں پر اور آپ کے زانوں کے اندرونی حصے پر اور آپ کے ران والی رگ پر۔ پاک ہے زمینیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی اے رب

شَيْءٍ ؕ وَوَارِثُهُ وَرَأْسُ قَدَمَيْهِ يَا إِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ عِزُّكَ يَا رَبَّ رِقَابِ

ہر شئی کے اور ان کے وارث و رازق اور ان پر رحم فرمانے والے۔ اے ہر چیز کے معبود تا بعد از ہر گئی ہیں گرد نیں

الْمَوْجُودَاتِ لَكَ وَأَهْوَجَتِ الْمَحْسُوسَاتُ وَالْمَجْرَدَاتُ بِعَطْفِ رِزْقِكَ

موجودات کی تیرے لیے۔ اور جلدی و مجلدت میں ڈال دئے گئے ہیں محسوسات اور مجردات بسبب میلان کے طرف تیرے رزق

وَمِنْكَ وَأَهْوَجَتِ الْعُقُولُ فِي إِدْرَاكِ حِكْمِكَ فِي تَوْبِيْقِكَ وَالْأَوْهَامُ

اور احسان کے۔ اور جلد باز بنائے گئے ہیں عقول تیرے حکم کے پانے میں تیرے باہرگ و بارگ کرنے میں (نباتات کو) اور اوہام

رَجَلَةٌ فِي طُرُقِ أَحْدَيْتِكَ وَسُبْحَانَيْتِكَ وَالْأَجْسَامُ نَزِيلَةٌ إِنْ لَمْ يَحْمَرْ قَهْرُكَ وَ

پا پیادہ چلنے والے ہیں تیری احدیت و ہیبت اور تقدس و نزاہت کے راستوں میں۔ اور اجسام باہم جدا اور پرکندہ ہو جائیں اگر قبیل سا ظاہر ہو

أَنْوَرَتْ إِنْ تَلَاكَ رَبُّ بِيئَةِ رَحْمَتِكَ وَالْمَلَكُوتُ مَرْتَعَشَةٌ إِنْ هَيْبَتِكَ

تیرا اور وہ چمک اٹھیں گے اگر چمکے تیری رحمت کی ربوبیت۔ اور عالم بالا و پست لرزہ براندام ہے تیری ہیبت

وَجَلَالَكَ وَالْأَوْلِيَاءُ أَرْسَلَتْ إِلَى تَرْفَعُ مُشَاهَدَتِكَ وَالْأَنْبِيَاءُ عَرَجَتْ

اور جلال سے۔ اور اولیاء (کی نمکا ہیں) سفید ہو گئی ہیں تیرے شاہدے کیلئے بلندی کی طرف اُٹھنے کی وجہ سے اور انبیاء (علیہم السلام) بلند ہو گئے

إِلَىٰ أُمُورِ رُبُوبِيَّتِكَ فَآخِذْ بِأَمْنِكَ وَرَسُولِكَ حَظًّا مِّنْ دَعْوَتِكَ وَطُعْمَةٍ

تیرے امور ربوبیت کی طرف پس انہوں نے حاصل کر لیا ہے تجھ سے اور تیرے رسول سے حصہ تیری (بارگاہ میں کی گئی) دعاؤں سے اور نصیبہ

وَكَمْعَةٍ مِّنْ نُورِكَ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لَنَا الْعُرُوجَ إِلَىٰ سَمَاءِ قَدْسِكَ مَرْرًا وَقَرًا

اور چمک (حاصل کر لی ہے) تیرے نور سے۔ اے اللہ آسان فرما ہمارے لیے رسائی اپنے آسمان قدس تک آنچلیکے عطا کئے ہوں ہم تیری

بِأَنْوَارِهَا مَتَلَأَتْ حَوَاسِيَّ وَقَلْبِي بِغَدَاةِ نُورِهَا خَاصًّا وَأَنْزِلِ الْحُجُبَ

طرح (انوار) کہ بھر جائیں میرے تمام حواس اور میرا دل خاص نورانی غذاء کے ساتھ۔ اور زائل فرما ظلمانی حجابات جو کہ

الظُّلُمَاتِيَّةَ الَّتِي هِيَ مَوَانِعُ لِّوُصُولِكَ وَسُدُّ لِعَدَاةِكَ وَأَعِدْ أَعْدَاءَ رُسُلِكَ وَ

مانع ہیں تیری طرف۔ وصول سے۔ اور رکاوٹ ہیں تیرے اعداء اور تیرے رسل کلام کے اعداء کے لیے (وصول حق میں) اور

سَيِّرْنِي وَطَيِّرْنِي فِي صِفَاتِكَ الَّتِي هِيَ فُرُوعُ ذَاتِكَ هَذَا أَعْظَمُ تَرْبِيَةٍ

مجھے چلا بلکہ پرواز عطا فرما اپنی صفات میں جو کہ فرع (اور اثر و اقتضاء) ہیں تیری ذات کا۔ یہی عظیم تر تربیت ہے

مِّنْ عِنْدِكَ وَلَا تُلْقِنَا فِي شِدَائِدِ أَمْرِكَ وَحَوَادِثِ دَهْرِكَ فَآكُونَ

تیری طرف سے اور نہ پھینک ہمیں شدائد امر میں اور حوادث دہر میں۔ ورنہ میں ہو جاؤں گا

مَمْنُونًا مِّنْ تَحْصِيلِ خَيْرَاتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَعَبْدٌ

محرور تیری خیرات کے حاصل کرنے سے۔ میں کوئی معبود برحق مگر تو ہی۔ جو کہ رب ہے ہر شئی اور ہر عبد کا

وَوَارِثُ كُلِّ نَفْسٍ وَمُعِيدُ كُلِّ شَخْصٍ مِّنْ تَحْتِ جَوَاهِرِ تَرَابِ هِيَ

اور ہر نفس کا وارث ہے۔ اور دوبارہ مکمل کر کے لوٹانے والا ہے ہر شخص کا جو اہر خاک کے نیچے سے اور یہ (اعادہ)

مَقْدُومًا فَلَا يَلْتَصِقُ ذَرَّةً إِلَىٰ غَيْرِ ذَرَّةٍ وَتُعِيدُ كُلًّا عَلَىٰ هَيْئَةٍ

تیری ہی قدرت میں ہے پس نہیں متصل ہوگا کوئی ذرہ (اس شخص کا) کسی دوسرے کے ذرہ سے اور لوٹانے کا تو ہر ایک کو اس کی

نَشَاةٍ أَوْ لِيَّةٍ مِّنْ غَيْرِ قُصُومِهَا فِي مَادَّةٍ وَلَا عَوَارِضِهَا فِي نَشَاةٍ ثَانِيَةٍ

نشاة اولی اور تخلیق اول کی ہیئت پر بغیر کسی کمی کے مادہ میں اور عوارض میں دوسری نشاة میں بھی

بِحَقِّ السُّبُوحِيَّةِ الْقُدُّوسِيَّةِ الْعَرْشِيَّةِ الْكُرْسِيِّ سَخَّرْنَا الْأَمْوَاحَ

صدقے میں نزاہت اور تقدس عرض و کرسی کے مسخر فرما ہمارے لیے ارواح قدسیہ



الْقُدْسِيَّةَ وَالْمَلَكَةَ لَا تَسْلَفَ إِلَى اللَّاهُوتِيَّ وَتَسْلَفَ إِلَى الْجَبَرُوتِيَّ

اور ملائکہ کو تاکہ میں ان کو وسیلہ بناؤں مقام لاہوت کی طرف اور ان سے توسل کروں مقام جبروت کی طرف رسائی کے لیے

اللَّهُمَّ وَإِنِّهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَأَبْعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِذِي وَ

اے اللہ اور عطا فرما اپنے محبوب کو مقام وسیلہ اور امتیازی فضیلت اور تمام فرما ان کو مقام محمود میں جس کا

عَدَّتْهُ وَإِنِّهِ نَهَايَةَ مَا يَتَّبِعِي أَنْ يُسْأَلَ السَّائِلُونَ اللَّهُمَّ أبلغه عَنَّا

تو نے انہیں وعدہ دے رکھا ہے۔ اور عطا کر آپ کو انتہائی وسیع ذخائر نعمتوں کے جو لائق ہے کہ سوال کریں ان کا سوال کر لیا۔ اے اللہ سبچا

السَّلَامَ وَارْدُدْ عَلَيْنَا مِنْهُ السَّلَامَ وَاتَّبِعْهُ مِنْ أُمَّتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ مَا تَقَرُّ

انہیں ہماری طرف سے سلام اور لوٹا ہم پر ان کی طرف سے سلام اور تابع بنا ان کے اُمت اور اولاد میں سے اس قدر کہ ٹھنڈی ہو جائیں

بِهِ عَيْنُهُ يَا مَدِيرُ يَا فَاطِرُ اللَّهُمَّ أَنَا الْفَقِيرُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْكَ وَلَوْ لَا

اس مقدار کے ساتھ آنکھیں ان کی۔ اے آغاز میں انجام پر نظر رکھنے والے۔ اے پیدا کرنے والے۔ اے اللہ میں تیری طرف فقیر و محتاج ہوں۔ اور

هَدَايَتِكَ وَالْإِعَّاكَ لَهْمَنِي كُلُّ شَيْءٍ بِالسُّوءِ وَالضَّرَّاءِ فِي قَضَاءِ حُكْمِكَ

اگر نہ ہو تیری ہدایت اور تیرے انعامات تو البتہ ہر چیز مغزہ کرے گی مجھے ساتھ برائی اور ضرر رسائی کے تیرے حکم کو پورا کرنے میں

أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ أُنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ صلوٰۃ بھیجے تو اور تیرے تمام ملائکہ محمد کریم پر جو تیرے عبد اور رسول و

رَبِّكَ أَفْضَلُ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ إِنَّكَ رَافِعُ الدَّرَجَاتِ

نبی ہیں ان تمام صلوٰات سے افضل ترین صلوٰات جو تو نے بھیجی ہوں کسی بھی فرد پر اپنی مخلوق میں سے۔ بیشک تو ہی درجات کو بلند کرنے والا ہے

اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَأَكْرِمْ مَقَامَهُ وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ وَأَجْزِلْ ثَوَابَهُ وَأَفْجِرْ

اے اللہ بلند فرما آپ کے درجہ کو اور عزت والا بنا آپ کے مقام کو۔ بھاری کر آپ کے میزان کو اور عظیم و جنزب بنا آپ کے ثواب کو اور روشن فرما

حُجَّتَهُ وَأَظْهِرْ مَلَّتَهُ وَأَصْنِ نَوْمًا وَأَدْمُ كَرَامَتَهُ وَالْحَقُّ بِهِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ

آپ کی حجت کو اور غالب فرما آپ کی ملت کو اور چمکا دے آپ کے نور کو اور دائمی بنا آپ کی عزت و کرامت کو اور لاحق فرما ساتھ آپ کے اولاد سے

وَأَهْلَ بَيْتِهِ مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ وَعَظْمُهُ فِي النَّبِيِّينَ الَّذِينَ خَلَوْا قَبْلَهُ

اور اہل بیت سے اتنی عظیم مقدار کو کہ ٹھنڈی ہو جائیں بسبب ان کے آنکھیں آپ کی۔ اور عظمت بخش آپ کو ان تمام انبیاء میں جو آپ سے پہلے گزر گئے ہیں

اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّدًا أَكْثَرَ التَّيْبِينَ تَبَعًا وَ أَكْثَرَهُمْ أَرْءَاءَ وَ أَفْضَلَهُمْ

لے اللہ بنا تو محمد کریم کو تمام انبیاء سے اکثر متبعین والا۔ اور ان تمام سے زیادہ وزراء والا اور افضل ترین ان تمام سے

گرامہ و نوراً و اعلاہم درجۃً و افسحہم فی الجنۃ منزلاً اللہم

از روئے کرامت اور نور کے اور بلند ترین ان سے از روئے درجات کے اور کشادہ ترین ان سب سے از روئے جنتی منزل و مسکن کے۔ لے

اجْعَلْ فِی السَّابِقِیْنَ غَايْتَهُ وَ فِی الْمُنْتَخَبِیْنَ مَنزِلَهُ وَ فِی الْمَقَرِّبِیْنَ

اللہ بنا تو سبقت لے جانے والوں میں طرف اپنی ذات کے نہایت ان کے لیے۔ اور انتخاب کئے ہوئے بزرگیدگان میں منزل ان کی اور مقربین

دَارَكَ وَ فِی الْمُصْطَفِیْنَ مَنزِلَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ الْاَكْرَمِیْنَ عِنْدَكَ

میں مکان ان کا اور چنے ہوئے لوگوں میں منزل ان کی۔ لے اللہ بنا انھیں سب عزت والوں سے زیادہ عزت والے نزدیک اپنے

مَنْزِلًا وَ أَفْضَلَهُمْ ثَوَابًا وَ اقْرُبَهُمْ مَجْلِسًا وَ اثْبَتَهُمْ مَقَامًا وَ اصْوَبَهُمْ

از روئے منزل کے اور سب سے افضل از روئے ثواب کے اور سب سے قریب تر از روئے نشست کے اور مضبوط تر از روئے مقام کے اور صواب ترین

كَلَامًا وَ اَنْجَحَهُمْ مَسْأَلَةً وَ أَفْضَلَهُمْ لَدَيْكَ نَصِيْبًا وَ اعْظَمَهُمْ فِيهَا

از روئے کلام کے اور کامیاب ترین از روئے سوال کے اور افضل ترین نزدیک اپنے از روئے نصیب کے اور عظیم تر از روئے رغبت کے

عِنْدَكَ رَغْبَةً وَ اَنْزِلْهُ فِی عُرْفَاتِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى

ان نعمتوں میں جو تیرے پاس ہیں۔ اور منزل عطا کر انھیں جنت الفردوس کے بالا خانوں میں بلند ترین درجات سے

الَّتِیْ لَا دَرَجَةَ فَوْقَهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّدًا اَصْدَقَ قَائِلٍ وَ اَنْجَحَ

کہ میں بے کوئی درجہ ان سے بلند۔ لے اللہ بنا محمد کریم کو سب سے سچا کلام کرنے والا۔ اور سب سے کامیاب و نمرغراز

سَائِلٍ وَ اَوَّلَ شَافِعٍ وَ اَفْضَلَ مُشَفِّعٍ وَ شَفِّعَهُ فِیْ اُمَّتِهِ بِشَفَاعَةِ

سوال و التجا کرنے والا۔ سب سے پہلا شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلا شفاعت قبول کیا جانے والا۔ اور انھیں اپنی امت میں شفیع بنا

يَغِيْطُهُ بِهَا الْاَوْلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ وَ اِذَا مَيَّزْتَ عِبَادَكَ بِفَضْلِ

ایسی شفاعت کے ذریعے کہ رشک کریں آپ کے ساتھ بسبب اس کے تمام پہلے اور پچھلے اور جب تو ممتاز ٹھہرائے اپنے بندوں کو

قَضَائِكَ فَاجْعَلْ مُحَمَّدًا فِی الْاَصْدَقِیْنَ قِيْلًا وَ الْاَحْسَنِیْنَ عَمَلًا وَ

اپنی جنتی قضاء کے ساتھ تو کرنا محمد کریم کو ان لوگوں میں جو سب سے سچے ہیں از روئے قول کے۔ اور جو سب سے بہتر ہیں از روئے اعمال کے اور



فِي الْمُهْدِيَيْنِ سَبِيلًا اللَّهُمَّ أبلغه عَنَّا السَّلَامُ كَمَا دَكَرَ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ

ہدایت یافتہ ہیں راہ حق کے۔ اے اللہ پہنچا آپ کو ہماری طرف سے سلام جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے سلام کا اور سلام ہو

عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ اعْطِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ

نبی مکرم پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اے اللہ عطا فرما محمد کریم کو مقام وسیلہ

وَالْفَضْلَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ اللَّهُمَّ عَظْمَ شَانِهِ وَ

اور فضل اور فضیلت اور درجہ عالیہ۔ اے اللہ عظیم بنا شان ان کی اور

بَيْنَ بَرَاهِنِهِ وَأَبْلَجِ حُجَّتَهُ وَأَبْلِغْ مَأْمُورَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَ

واضح کر برہان ان کی اور روشن کر حجت ان کی اور پہنچا انہیں ان کی آرزو تک ان کے اہل بیت میں اور

أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ ابعثه مَقَامًا مَحْمُودًا تُزَلِّفُ بِهِ قُرْبَهُ وَتُقَدِّرُ بِهِ

امت میں۔ اے اللہ پہنچا انہیں مقام محمود تک کہ نزدیک کرے بسبب اس کے قربت ان کی اور ٹھنڈی کرے بسبب اس مقام کے

عَيْنَهُ يَعْطِيهِ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ اتِ أَهْلَ بَيْتِ

آنکھیں ان کی جبکہ رشک کریں ان کے ساتھ بسبب اس کے تمام اولین و آخرین۔ اے اللہ عطا فرما اپنے نبی مکرم کے اہل

نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلَ مَا أَتَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ

بیت کو صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین جزاء اس سے جو دی ہے تو نے کسی کو مرسلین کے

بَيُوتِ الْمُرْسَلِينَ وَأَجْزِ أَصْحَابِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اہل بیت میں سے اور بدلہ دے اپنے نبی مکرم کے اصحاب کو صلی اللہ علیہ وسلم

أَفْضَلَ مَا جَانَرَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

افضل ترین بدلہ اس سے جو دیا ہے تو نے کسی کو بھی مرسلین کے اصحاب میں سے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَفْصَلِهِ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے اعضاء کے جوڑوں پر جو مضبوط ہیں

الْمُوثِقِ وَمَفْصَلِهِ السَّلْبِيِّ وَمَفْصَلِهِ الْعُسْرِ وَمَفْصَلِهِ فِي الْمَفَاصِلِ

اور آپ کے (اعضاء کے) لزم جوڑوں پر اور آپ کے سخت جوڑ پر اور آپ کے ہر جوڑ پر جوڑوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر اور آپ کے

إِصَافِيهِ وَوَصَلِهِ فِي الْأَوْصَالِ وَسَلَامِيهِ فِي السَّلَامِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تختے کے نیچے والی رگ پر اور پیوند پر تمام پیوندوں میں۔ اور آپ کے ٹھوس ہڈیوں والے حصوں پر ایسے حصوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عِظْمِهِ فِي الْعِظَامِ وَمَشَاشَتِهِ

بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی دہرا ہڈی پر ہڈیوں میں اور آپ کی ہر نرم ہڈی کے سرے پر

فِي الْمَشَاشِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نرم ہڈیوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور

وَعَلَى عِضْرُوفِهِ فِي الْغَضَارِيفِ وَنَقِيهِ فِي الْأَنْقَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کے کندھے کی ہڈی پر ان ہڈیوں میں اور آپ کی ہڈیوں کے گوشے اور بھیجے پر گوشوں اور بھیجوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَجَبِينِهِ فِي

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی پیشانی پر پیشانیوں میں اور آپ کی جبین پر

الْأَجْبَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جبینوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَعَلَى نَاصِيَّتِهِ فِي النَّوَاصِي وَقُصَّتِهِ فِي الْقُصَصِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اور آپ کی پیشانی کے بالوں پر ان بالوں میں اور آپ کے بالوں کے مجموعہ پر ایسے مجموعہ میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سِرَارِهِ فِي الْأَسَارِيرِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے (ہاتھوں اور ماتھے کی) لکیروں اور خطوط پر ان خطوط میں

وَلَطَّائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور سر کی ہڈی اور چھڑے کے درمیانی پردے پر۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے

حَاجِبِهِ فِي الْحَوَاجِبِ وَصَدَمَتَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

(ہر دو) ابرو پر ابروؤں میں۔ اور آپ کی پیشانی کی دونوں جانبوں پر۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَاجِبِيهِ وَأُسُوفِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے دونوں ابروؤں پر اور آنکھوں کے پچھلے ہر پہونے پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَفْنِهِ فِي الْأَجْفَانِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی ہر پلک پر پلکوں میں اور

حِمْلَاقِ عَيْنِهِ فِي الْحَمَالِيْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی ہر آنکھ کے پپرٹے کے اندرونی حصے پر ان کے اندرونی حصوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ هُدْبِهِ فِي الْأَهْدَابِ وَمَنْبَتِ

اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی گہی پلکوں پر ان لمبی پلکوں میں اور ان کے اگنے کے مقام پر

هُدْبِهِ فِي الْمَنَابِتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ایسے منابت و مقامات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَفْرِهِ فِي الْأَشْفَارِ وَبَصْرِهِ فِي

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی مشگان پر جملہ مشگان میں اور بصر پر

الْأَبْصَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

تمام البصاریں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَيْنِهِ فِي الْعَيُونِ وَطَبَقَاتِ عَيْنِهِ فِي الْأَعْيُنِ

محمد کی آل پر اور آپ کی ہر آنکھ پر آنکھوں میں اور ہر آنکھ کے طبقات پر آنکھوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی آنکھ کے

طَبَقَتِهِ الْمُلْتَحِمَةِ فِي الطَّبَقَاتِ وَقَرْنَيْتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

طبقة ملتحمہ پر اور طبقہ قرنیہ پر طبقات چشم میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ طَبَقَتِهِ الْعَنْبِيَّةِ وَطَبَقَتِهِ الْعَنْكَبُوتِيَّةِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی آنکھ کے طبقہ عنیبیہ اور طبقہ عنکبوتیہ پر

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شِفَاءَ بَدَنِيًّا وَقَلْبِيًّا وَقُوَّةَ ظَاهِرِيَّةٍ وَبَاطِنِيَّةٍ وَ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بدن اور قلب کی شفاء کا۔ اور ظاہری و باطنی قوت کا۔ اور (یہ کہ) کہ

تَيْسْتُنِي عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِلا مِثَالٍ خَلا مِنْ غَيْرِهِ أَحَدٌ لَنَا

مجھے ثابت قدم رکھے محمدی طریقہ پر ساتھ ایسی ثابت قدمی کے جس کی پہلے مثال موجود نہ ہو دوسرے کسی شخص میں یہ یاد فرما ہمارے

الْعَجَائِبَ وَالْبِدَائِعَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِيْنَا مُكُونَةً وَلَمْ تَكُنْ نَفْسِي

ہمارے لیے عجائب اور انوکھے امور جو کہ پہلے ہم میں موجود نہیں کئے گئے تھے۔ اور میرا نفس ان کے ساتھ

مَوْصُوفَةً بِهَا أَمَّا لِعَدَمِ الْقَابِلِيَّةِ أَوِ السَّبَبِ الْحَائِلِ أَوِ الْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَّةِ

موصوف نہیں تھا۔ خواہ اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی سبب مانع کی وجہ سے یا سبب اس علت کے جو مقتضی ہے

الصَّبَائِيَّةِ غَيْرِ الْحَامِلَةِ لِأَسْرَارِ الْعِظْمَةِ الْبَارِيَّةِ الْمَحِيطَةِ أَثَرَهَا

اس عدم اتعاف کی جو کہ یحییٰ والی علت ہے جو نہیں برداشت کر سکتے والی عظمت الیہ کے اسرار کو جو سرایت کئے ہوئے (ہر ہر موجود میں) اور احاطہ کئے ہوئے

بِالنَّفُوسِ الْمَقْدُورَةِ الْمَقْهُورَةِ الْمُدَلَّةِ تَحْتَ الْإِطَاعَةِ وَسَخِرْ لِي

ہیں آثار اس کے ان نفوس کا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قہر کے نیچے مغلوب و مقہور ہیں اور اطاعت کے لیے کمر بستہ ہیں۔ اور مسخر فرما میرے لیے

النَّفُوسَ السَّمَاوِيَّةَ وَالْأَرْضِيَّةَ مُبْلَغَةَ لِنَفْسِنَا إِلَى دَرَجَاتِهَا الدَّانِيَّةِ

آسمانی اور ارضی نفوس (مذہبہ) کو جو پہنچانے والے ہوں ہمارے نفوس کو ان کے درجات تک جو قریب ہیں

بِالْعُقُولِ ثُمَّ أَقْدِرْ لِي عَلَى جَعْلِ نَفْسِي لَطِيفَةً بِحَيْثُ تَرَى رُوحِي وَ

عقول کے درجات کے۔ پھر قدرت بخش مجھے نفس کو اس طرح لطیف بنانے پر کہ وہ مشاہدہ کرے میری روح کا۔ اور

تَتَبَّلَغْ نَفْسِي بِغَدَائِعِ الْوَاتِنِ النَّعْمِ النُّورِيَّةِ غَيْرِ الْمَفْضِيَّةِ إِلَى غَائِطٍ وَ

زاد راہ اور اسباب وصول حاصل کرے میرا نفس نوری نعمتوں کے انواع و اقسام کی غذا سے جو نہیں پہنچانے والی طرف بول و براز کے اور

نُطْفَةٍ بِلِ الْمَطْهَرَةِ عَنِ الْإِنْسَانِ وَالْفُضُولِ وَالْهَادِيَّةِ لِلْعَجَائِبِ

نطفہ و جنابت کے بلکہ مطہر اور صاف تھری ہے ایسی آلائشوں اور فضلات سے اور واصل کرنے والی ہے نئے عجائبات تک

الْحَادِثَةِ وَالْمُتَقَرَّرَةِ فِي مَقَارِرِهَا فَلَا تَسْتَعْنِي عَنْهَا بَلِ اجْعَلْنِي

اور ان کی طرف جو ثابت و برقرار ہیں ہمیشہ کے لیے اپنے مقامات قرار میں پس مجھے مستغنی نہ فرما ان دونوں سے بلکہ بنا مجھے





جَائِعًا لِرُصُولِ الْعَجَائِبِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْبَارِئُ الْمُبْصِرُ لِلنُّفُوسِ وَ

بھوکا اور شتاق، ان جدید و قدیم عجائبات تک رسائی حاصل کرنے کے لئے اللہ تو پیدا کرنے والا اور صورتگاری کرنے والا ہے نفوس کا اور

الْمَعْلَمُ لِمَا فِيهِمْ لِعَبْدٍ مُتَوَجِّهِ إِلَيْكَ بِحُسْنِ الصَّدَقِ وَالْإِطَاعَةِ

تعلیم دینے والا ہے ان کے لیے جس کی اہلیت ان میں ہے واسطے ان بندوں کے جو متوجہ ہیں طرف تیری حسن صدق اور حسن اطاعت کیساتھ

اللَّهُ هَذَا الدَّاعِي مِنْ أَمَاذِلْ عِبَادِكَ لَا يَسْتَطِيعُ تَحْمِلُ أَسْرَارِكَ

لے اللہ تیرا یہ بندہ سائل تیرے ذلیل ترین بندوں میں سے ہے نہیں طاقت رکھتا تیرے اسرار کے برداشت کرنے کی

وَلَا يَفْقَهُ مَا فِي حُكْمِكَ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَنْزَلْتَ الْخَطَابَاتِ

اور نہ صلاحیت رکھتا ہے ان اسرار کے سمجھنے کی جو تیرے حکموں میں ہے مگر ساتھ تیری توفیق و اعانت کے۔ لے اللہ تو نے نازل فرمائے خطابات اور احکامات

عَلَيْنَا مُشْرِفًا بِهَا حَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

ہم پر در آنجا لیکر مترف کئے ہوئے ہیں ان کی وساطت و برزخیت کے ساتھ تیرے حبیب و رسول محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام

وَأَمْرَتَهُ بِالتَّبْلِيغِ إِلَيْنَا وَلَيْسَ لَنَا ذَاتٌ مُسْتَعِدَّةٌ فِي صُدُورِ الْأَفْعَالِ وَفِيهِمْ

اور تر نے انھیں حکم دیا وہ احکام و خطابات ہم تک پہنچانے کا۔ اور نہیں ہماری ذات استعداد رکھنے والی افعال کے صادر کرنے کی

مَفْهُومَاتِ الْخَطَابَاتِ إِلَّا لِخَلْقِكَ لَهَا فِينَا فَيَبْقَى عَرَضِيٌّ وَجَاهِيٌّ عِنْدَ

اور خطابات کے مفہومات کو سمجھنے کی مگر سبب پیدا کرنے تیرے اس استعداد کو ہم میں تب باقی رہ سکے گی عزت و مرتبت میری نزدیک

خَلْقِكَ وَإِلَّا انْتَشَرَ عِنْدَهُمُ الْعُصْيَانُ فَيَلْحَقُ بِي الْقَضْحُ وَالذَّلَّةُ

تیری مخلوق کے۔ در نہ معروف و مشہور ہو جائے گا نزدیک ان کے، ہمارا عصیان تب لاحق ہوگی مجھے رسوائی اور ذلت

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُكْرِمُ الْمُشْرِفُ وَقَدْ أَوْجَدْتَنَا مِنْ مَاءٍ هَنِيئٍ نَمَّ صَوْرَتَنَا

لے اللہ تو ہی عزت و شرف بخشنے والا ہے اور تو نے ہمیں تخلیق فرمایا حقیر پانی سے پھر تصویر کشی فرمائی

بصُورَةٍ بَدِيعَةٍ عَجِيبَةٍ مَوْضُوعَةٍ كُلِّ عَضْوِيٍّ فِي مَحَلِّهِ وَمَرْكَزِهِ عَلَى

ساتھ انوکھی اور عجیب صورت و نقش کے جس کا ہر عضو اپنے موزوں مقام پر رکھا گیا ہے اور مرکز پر

مَا يَلِيْقُ بِحِكْمَتِكَ ثُمَّ بَلَّغْتَنِي إِلَى مَبْلَغٍ وَجَدْتُ بِهِ النِّشْمَ وَالنَّعْمِشَ

جیسے کہ لائق ہے ساتھ تیری حکمت کے پھر پہنچایا تو نے مجھے اس مقام عالی تک کہ جس کی بدولت پالیا ہے میں نے شہرت اور بلند نامی ذکر کو



وَالنَّعْمَةَ وَالهَمُّومَ وَالنَّعْمَةَ الْبَرَّاقَةَ الْبَصِيرَةَ وَالْبَصِيرَةَ

اور نعمت کو اور بلند عزائم کو اور بصارت اور بصیرت والی روشن نعمت کو

لِمُعَايَنَةِ النَّفُوسِ الْمُوَصَّلَةِ إِلَى رَبِّهَا بِمَشَاهِدَةِ الصَّنْعِ اللَّهُمَّ

واسطے مشاہدہ کرنے نفوس کے جو بصارت و بصیرت کو پہنچانے والی ہے رب تعالیٰ کی طرف اس کی صنعت کے مشاہدہ کے ذریعے۔ اے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِحَبِيبِكَ الْمُصْطَفَى عِنْدَكَ يَا حَبِيبَنَا

بیٹھک میں سوال کرتا ہوں اور متوجہ ہوتا ہوں طرف تیری ساتھ ویسے تیرے حبیب مصطفیٰ کے۔ اے ہمارے حبیب

يَا سَيِّدَنَا يَا مُحَمَّدًا إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْمَوْلَى

اے ہمارے آقا و مولیٰ دہر زمان ہر زمان اور ہر صفت کمال کے ساتھ اتنا شکر کئے ہوئے ہم تو سئل کرتے آپ کے ساتھ تمہارے رب کی طرف پس شفاعت کیجئے ہمارے

الْعَظِيمِ يَا نِعْمَ الرَّسُولَ الظَّاهِرُ اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِينَا بِجَاهِهِ

یہ اپنے عظیم مولیٰ کے پاس۔ اے بہتر و بہتر رسول ظاہر۔ اے اللہ انھیں شفیع بنا ہم میں بطفیل ان کے عز و جاہ کے جو

عِنْدَكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ خَيْرِ الْمَصْلُومِينَ وَالْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَمِنْ

زودیک تیرے ہے۔ اور بنا ہمیں بہترین مسوؤا و سلام بیچنے والوں سے آپ پر۔ اور افضل ترین

خَيْرِ الْمُقَرَّبِينَ مِنْهُ وَالْوَارِدِينَ عَلَيْهِ وَمِنْ أَحْيَارِ الْمُحِبِّينَ فِيهِ

مقربین میں سے زودیک ان کے۔ اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں میں سے۔ اور آپ کے افضل ترین محبوبوں میں سے

وَالْمُحِبُّوبِينَ لَدَيْهِ وَفَرِحْنَا بِهِ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ وَ

اور بہترین محبوبوں سے زودیک آپ کے۔ اور فرحت و مسرت عطا فرما ان کے طفیل قیامت کے عرصات اور میدانوں میں

اجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلًا إِلَى جَنَّتِ النَّعِيمِ بِدَلَامُونَةٍ وَلَا مُشَقَّةٍ

اور بنا آپ کو ہمارا رہسیر و رہنما طرف جنات النعیم کے بغیر کسی محنت و مشقت کے

وَلَا مُنَاقَشَةَ الْحِسَابِ وَاجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا وَلَا تَجْعَلْهُ

اور حساب میں تفتیش و تنقیح کے اور بنا تو آپ کو توجہ فرمانے والے ہم پر۔ اور نہ بنا آپ کو

غَاضِبًا عَلَيْنَا وَاعْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

غضب اور ناراضگی فرمانے والے ہم پر۔ اور ہمیں بخش اور ہمارے والدین کو اور تمام اہل اسلام کو

الْأَحْيَاءِ وَالْمَيِّتِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

زندہ ہوں یا فوت شدہ۔ اور ہماری آخری ندامت و پکار یہی ہے کہ بیشک سبھی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سب

أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ أَنْ تَرْتُقِنِي وَمَنْ أَحَبَّهُ وَ

جہانوں کا۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ۔ اے اللہ۔ اے اللہ کہ عطا فرمائے مجھے اور آپ کے تمام مجبین اور

اتَّبِعَهُ شَفَاعَتَهُ وَمُرَافَقَتَهُ يَوْمَ الْحِسَابِ مِنْ غَيْرِ مُنَاقَشَةٍ

متبعین کو آپ کی شفاعت اور آپ کی رفاقت حساب کے دن بغیر حساب میں مناقشہ کرنے کے

وَلَا عَذَابٍ وَلَا تَوْبِيخٍ وَلَا عِتَابٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ

اور عذاب کے اور بغیر زجر و عتاب کے۔ اور یہ کہ میرے لیے تمام گناہ بخش دے اور

تَسْتُرْ عَيْبِي يَا وَهَّابٌ يَا غَفَّارٌ وَأَنْ تُنْعِمَ عَلَيَّ بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ

میرے تمام عیبوں پر پردہ ڈالے اے بہیہ کرنے والے۔ اے بخشنے والے اور مجھے منعم ٹھہرائے اپنی ذات

الْكَرِيمِ فِي جُمْلَةِ الْأَحْبَابِ يَوْمَ الْمَزِيدِ وَالْثَوَابِ وَأَنْ تَتَقَبَّلَ

کریم کے دیدار کے ساتھ تمام احباب میں یوم مزید اور یوم ثواب میں۔ اور قبول کرے مجھ سے

مِثْرِي عَمَلِي وَأَنْ تَعْفُو عَمَّا أَحَاطَ بِكَ بِهِ مِنْ خَطِيئَتِي وَ

میرے عمل کو اور یہ کہ عفو و درگزر فرمائے ان امور سے جنہیں احاطہ کئے ہوئے ہے علم تیرا یعنی میری خطاؤں اور

نَسْيَانِي وَنَرَلِي وَأَنْ تُبَلِّغَنِي مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ

نسیان اور لغزشوں سے اور یہ کہ پہنچائے مجھے آپ کی قبر انور کی زیارت میں اور آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے میں

وَعَلَى صَاحِبِيهِ غَايَةَ أَمَلِي بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ

اور آپ کے دونوں صاحبوں کی خدمت میں سلام پیش کرنے میں میری غایت اعلیٰ تک ساتھ اپنے احسان و فضل اور جود و کرم کے

يَا سَرُوفُ يَا رَحِيمُ يَا وَدِيُّ وَأَنْ تُجَازِيَهُ عَنِّي وَعَنْ كُلِّ مَنْ

اے رؤف اے رحیم۔ اے کارساز۔ اور یہ (سوال کرتا ہوں) کہ ہزاروں سے آپ کو میری طرف سے اور آپ پر تمام ایمان لانے والے غلاموں

أَمَّنْ بِهِ وَاتَّبَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

کی طرف سے اور تمام اتباع کرنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں کی طرف سے جو زندہ ہوں ان میں سے

وَالْأَمْوَاتِ أَفْضَلَ وَأَنْتُمْ وَأَعْمَ مَا جَازَيْتَ بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ

یا وفات پانچے ہوں بہت ہی افضل اور کامل اور عام و محیط جزاء ان تمام جزاؤں سے جو عطا کی ہے تو نے کسی کو بھی اپنی مخلوق سے

يَا قَوِيُّ يَا عَزِيزُ يَا وَليُّ اللّٰهِمَّ اسْأَلُكَ بِأَفْضَلِ مَسْأَلَتِكَ

اے قوی۔ اے غالب۔ اے کارساز۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے افضل ترین سوال کے ساتھ

وَبِأَحَبِّ أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ وَأَكْرَمَهَا عَلَيْكَ وَبِمَا مَنَنْتَ

اور بظہیل تیرے محبوب ترین اور انتہائی محرم نام کے نزدیک تیرے۔ اور بظہیل اس انعام و احسان کے جو تو نے کیا ہے

عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنْقَذْتَنَا

ہم پر ساتھ نبی ہمارے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس بچا لیا تو نے ہمیں

بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَأَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَجَعَلْتَ صَلَاتَنَا

بسبب ان کے گمراہی سے۔ اور تو نے ہمیں حکم دیا ہے ان پر صلوٰۃ بھیجنے کا۔ تو نے بنا دیا ہے ہمارے صلوٰۃ

عَلَيْهِ دَرَجَةً وَكَفَّارَةً وَلُطْفًا وَمَنَامًا مِنْ إِعْطَائِكَ فَادْعُوكَ

بھیجنے کو (موجب) ہمارے درجات (کی ترقی) کا اور (گناہوں کے) کفارہ کا۔ اور بسبب لطف و کرم کا اپنی عطا کیلئے پس میں دعا کرتا ہوں تجھ

تَعْظِيمًا لِامْرُوكَ وَاتِّبَاعًا لِّوَصِيَّتِكَ وَمُنْتَجِرًا لِّلْمَوْعُودِكَ لِمَا

سے تیرے امر کی تعظیم کے لیے اور تیری وصیت کی اتباع کے لیے اور تیرے وعدے کو پورا کرتے ہوئے واسطے اس کے

يَجِبُ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آدَاءِ حَقِّهِ

جو واجب ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے اس حق کے ادا کرنے میں جو

قَبْلَنَا إِذْ آمَنَّا بِهِ وَصَدَّقْنَاهُ وَاتَّبَعْنَا النُّورَ الَّذِي

ہم پر ہے۔ جب کہ ہم ان پر ایمان لائے اور تصدیق کی۔ اور اتباع کی اس نور کی جو

أَنْزَلَ مَعَهُ وَقُلْتِ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

نازل کیا گیا ساتھ آپ کے۔ اور فرمایا تو نے "بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے صلوٰۃ بھیجتے ہیں نبی مکرم پر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَأَفْرَتِ الْعِبَادُ

اے ایمان لانے والو صلوٰۃ بھیجو ان پر اور سلام بھیجو جیسے کہ حق ہے سلام بھیجنے کا اور تو نے حکم دیا ہے بندوں کو

بِالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِمْ فَرِيضَةً افْتَرَضْتَهَا وَاَمْرَتَهُمْ بِهَا فَانْسَأْكَ

صلوٰۃ بھیجنے کا اپنے نبی پر بطور فریضہ کے جو تو نے عائد کیا ہے ان پر اور امر کیا انہیں ساتھ اس کے پس ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے

بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَنُورِ عَظَمَتِكَ وَبِمَا أُوجِبْتَ عَلَى نَفْسِكَ

تیرے جلال ذات کے طفیل اور نور عظمت کے صدقے میں اور بوسیلہ اس حق کے جو لازم کیا ہے تو نے اپنی ذات پر

لِلْمُحْسِنِينَ اَنْ تُصَلِّيَ اَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ عَلَى مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ

واسطے محسنین کے کہ صلوٰۃ بھیجے تو اور تیرے تمام ملائکہ محمد کریم پر افضل ترین صلوٰۃ ان تمام صلوٰۃ سے جو بھیجی تو نے

عَلَى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کسی بھی فرد پر اپنی مخلوق سے بے شک تو ہی ہمیتہ کے لیے سزاوار حمد اور مجید ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَشْدَقَ فِي الْاَشْدَا قِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی باچھ پر باچھوں میں اور اس سے

وَصَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا

میں ہرے گاہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَلَائِكِهِ فِي الْمَلَاغِمِ وَسَامِعِيهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر اور آپ کے منہ مبارک اور بینی پاک کے ارد گرد پر اور آپ کے منہ کی دونوں چلی جانوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى لِحْيَتِهِ فِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی چلنے جڑے والی ہڈی پر (جہاں ڈاڑھی اکتی ہے) ایسی ہڈیوں

الدُّخَى وَفِيهِ فِي الْفُكُوكِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

میں اور آپ کے جڑے پر جڑوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى فِكِّهِ الْاَعْلَى وَفِيهِ الْاَسْفَلِ

اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے اوپر والے جڑے پر اور نچلے جڑے پر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لِحِيَّتِهِ فِي اللَّحْمِ وَذَقْنِهِ فِي الْأَذْقَانِ اللَّهُمَّ

اور آپ کی ڈاڑھی مبارک پر ڈاڑھیوں میں اور ٹھوڑی مبارک پر ٹھوڑیوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَعَلَىٰ عُنُقُونِهِ فِي الْعُتَابَيْنِ وَشَجَرِهِ فِي الْأَشْجَابِ اللَّهُمَّ

اور آپ کی ڈاڑھی پر ڈاڑھیوں میں اور جیڑوں کی درمیانی جگہ پر ان جگہوں اور مقامات میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَعَلَىٰ إِمْرَادَتِهِ وَصَبِيْبِهِ وَغَبِيْبِهِ وَنُونِيْتِهِ اللَّهُمَّ

اور آپ کے ارادہ پر۔ آپ کے پسینہ پر۔ آپ کی ٹھوڑی کے نیچے لٹکے ہوئے گوشت پر اور ٹھوڑی پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سِيْنَتِهِ فِي الْأَسْنَانِ وَثَنِيْتِهِ فِي الثَّنَائِيَا

آل پر۔ اور آپ کے ہر دانت پر دانتوں میں اور سامنے والے دو دانتوں پر ثنا یا میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ نَابِهِ فِي الْأَنْيَابِ وَمُرْبَاعِيَّتِهِ فِي الرُّبَاعِيَّاتِ اللَّهُمَّ

اگلی ڈاڑھ پر ڈاڑھوں میں۔ اور سامنے کے چاروں دانتوں پر ان (رباعی) دانتوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی

ضَرْسِيْهِ فِي الْأَضْرَاسِ وَطَاحِنِهِ فِي الطَّوَّاحِنِ وَنَاجِدِيْهِ فِي النَّوَاجِدِ

ہر ڈاڑھ پر ڈاڑھوں میں۔ اور چیلے والی ڈاڑھوں پر ان ڈاڑھوں میں۔ اور آپ کی آخری ڈاڑھوں پر آخری ڈاڑھوں میں

وَيَبَاضُ سِنْتَهُ فِي الْأَسِنَّةِ وَلَمَعَانِ أَسْنَانِهِ فِي الْأَسْنِ وَسُنْجِهِ

اور آپ کی ڈاڑھوں کی سفیدی پر تیز اور کائنات والی ڈاڑھوں میں اور آپ کے دانتوں کی چمک پر دانتوں میں اور آپ کے دانت اگنے کی جگہ

فِي الْأَسْنَانِ وَدُرْدُرِهِ فِي الدَّرَادُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر ان کی جگہوں میں۔ اور آپ کے بچپن میں دانت اگنے کی جگہ پر ان جگہوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عُمَرَاءِ فِي الْعُمُورِ وَلَثَّتِيهِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے دانتوں کے درمیانی گوشت پر ان گوشتوں میں۔ اور آپ کے موڑے پر

فِي اللِّثَاتِ وَلِسَانِهِ فِي الْأَلْسُنِ وَذَبْذِبِهِ فِي الذَّبَابِ وَ

موڑوں میں۔ اور آپ کی زبان پر زبانوں میں اور آپ کی زبان پر زبانوں میں۔ اور

مِسْرِدِهِ فِي الْمَسَارِدِ وَعَذْبَتِهِ فِي الْعَذَابَاتِ وَشَمْرِهِ فِي

آپ کی زبان پر زبانوں میں اور آپ کی نوک پر نوکوں میں اور آپ کی زبان کے سرے پر

الْأَثْمَارِ وَحَنَكِهِ فِي الْأَحْنَاكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ان کے سروں میں اور آپ کے تالو پر تالوؤں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عُنْدُوْبِهِ وَسَاكِبِي

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے حلق کے ارد گرد کے سخت گوشت پر اور آپ کے لمبے

لُعَابِهِ وَعُمَرَاتِيهِ وَضَرْدِيهِ وَنَعْنَعْتِيهِ وَتُرْسِيهِ وَ

کو پلٹنے والی دونوں گلٹیوں پر۔ اور آپ کے دونوں موڑوں پر اور زبان کی دونوں رگوں پر اور حلق کے اندر کی دو گلٹیوں پر۔ اور گلے کے اندر کی

عَكْبِيهِ وَلَوْنَاتِيهِ وَعُلْصَمَاتِيهِ وَقُرْدُوحَاتِيهِ وَكَيْتِيهِ وَعَظْمِيهِ

سخت جگہ پر اور آپ کے جڑے کو دو موڑے حصوں پر اور آپ کے گلے کی دونوں گلٹیوں پر اور آپ کے سر اور گردن کی دونوں جانب کے گوشت پر اور حلق کی کانٹھ پر

الْأُدْمِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور گردن کے دونوں پہلوؤں پر اور دماغ والی ہڈی پر اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَى نَطْعِهِ فِي النُّطُوعِ وَلَهَاتِهِ فِي اللِّهَوَاتِ وَلَعْدُوْدِهِ

آل پر اور آپ کے تالو کے اگلے حصے پر اگلے حصوں میں۔ اور حلق کے کوسے پر حلق کے کوسوں میں۔ اور حلق کے گوشت پر ان

فِي اللِّغَادِيْدِ وَحَنْجِرِهِ فِي الْحَنَاجِرِ وَاعْلَاهُ وَغَارِ اسْفَلِهِ

گوشتموں میں۔ اور آپ کے نرخرہ پر نرخروں میں اور نرخرہ کے بالائی حصہ پر اور اس کے نچلے گہرے حصے پر

وَحُلُقُومِهِ فِي الْحَلَاقِيْمِ وَحَلْقِهِ فِي الْحُلُوْقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور آپ کے حلقوم پر حلقوموں میں اور حلق پر گلوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی كَطْمِهِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے سانس کی نالی پر

فِي الْاَكْظَامِ وَنَعْنَعِهِ فِي التَّغَانِعِ وَمَرِيَّتِهِ فِي الْمَرِيَّاتِ وَبَلْعُومِهِ

ان نالیوں میں۔ اور اس کے پھیلے ہوئے حصے پر ایسے حصوں میں اور آپ کی مری پر مریوں میں اور آپ کے حلقوم پر

فِي الْبَلَاعِيْمِ وَعُنُقِهِ فِي الْاَعْنَاقِ وَمَقْبِتِهِ فِي الرَّقِيَّاتِ وَجِيْدِهِ

حلقوموں میں۔ اور آپ کی گردن پر گردنوں میں۔ اور رقبہ پر رقاب میں اور آپ کی گردن پر

فِي الْاَجْيَادِ وَقَفَائِهِ فِي الْاَقْفَاءِ وَقَافِيَّتِهِ فِي الْقَوَافِيْ وَحَقِّ

گردنوں میں۔ اور آپ کی گڈی پر گڈیوں میں۔ سر کی پچھلی جانب پر ایسی جانبوں میں۔ اور آپ کی گڈی

قَفَائِهِ فِي الْحَقَائِقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

کی گڈی جگہ پر ایسی گڈیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی صَلِيْفِهِ فِي الصَّلَفِ وَدَلِيَّتِهِ فِي الدَّلِيَّاتِ

سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی گردن کے پہلو پر پہلوؤں میں۔ اور آپ کے نشان پر نشانوں میں

وَدَاخِلِهِ فِي الْاَدْوَاخِ وَفَهْقَتِهِ فِي الْفَهَاقِ وَوَمِيْدِهِ فِي الْاَوْمَادَةِ

اور آپ کی دونوں خون والی رگوں پر ان رگوں میں۔ اور آپ کی گردن کی جڑ والی ہڈی پر ان ہڈیوں میں اور شہرہ رگ پر

وَعَلْبَانِيَّتِهِ فِي الْعَلَابِيْ وَعَاتِقِهِ فِي الْعَوَاتِقِ اَللّٰهُمَّ

شہرہ رگوں میں۔ اور آپ کی گردن کے پہلو والے پٹھے پر ان پٹھوں میں۔ اور آپ کے کندھے پر کندھوں میں صلوٰۃ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر



وَعَلَى عُرْوَةِ السَّبَاتِيَّةِ وَتَرْقُوتِهِ فِي التَّرَاقِي وَقَدْ إِلَيْهِ فِي

اور آپ کی دراز یا نند اور اونگھ لاسنے والی رگوں پر۔ اور آپ کی ہر ہنسی پر ہنسیوں میں۔ اور آپ کی گڈی پر

الْقَدَالِ وَكُظْرِهِ فِي الْأَكْظَارِ وَحَاقِنْتِهِ فِي الْحَوَاقِنِ وَمُلْتَقَى

گڈیوں میں اور آپ کی ہنسی کی ہڈی کی درمیانی جگہ پر ایسی جگہوں میں۔ اور آپ کی ہنسی کی درمیانی جگہ پر ان جگہوں میں اور آپ کی

تَرْقُوتِيهِ وَنَضِيهِ فِي الْأَنْضِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

دو ہنسیوں کے مقام اتصال پر۔ اور آپ کے کان کے درمیانی حصے پر ان حصوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى فَقْرَتِهِ فِي الْفُقَارِ وَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ (کی پیٹھ کے) ہر مہرہ پر ان مہروں میں اور

نَخَاعِهِ فِي النَّخَعِ وَجَنَاحِيهِ فِي الْأَجْنَحَةِ وَشَاخِصِهِ

ریڑھ کی ہڈی کے مغز پر ان مغزوں میں۔ اور آپ کے دونوں بازوؤں پر بازوؤں میں اور آپ کے بازو کی قوت اور اس سے

فِي الشَّوَاخِصِ وَمَنْكِبِهِ فِي الْمَنَاكِبِ وَأَسَدَ رَأْيِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اخبار پر اجماروں اور اٹھانوں میں۔ اور آپ کے کندھے پر کندھوں میں۔ اور آپ کے دونوں شانوں پر۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عِظْفِهِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے پہلو پر

فِي الْأَعْطَافِ وَكَيْفِهِ فِي الْأَكْتِافِ وَحَقِّ كَيْفِهِ فِي الْحَقَاقِ وَ

پہلوؤں میں۔ اور کندھے پر کندھوں میں۔ اور آپ کے بازو اور شانے کے درمیانی بلند حصے پر ان بلند حصوں میں اور

نُعْضُ كَيْفِهِ وَقَلَّةِ كَيْفِهِ فِي الْقَلَاتِ وَمِنْقَابِ عُرَابِهِ وَ

شانے کی باریک ہڈی پر اور آپ کے شانے کی ہڈیوں اور کھال پر ان ہڈیوں اور کھالوں میں۔ اور آپ کے سر کے پچھلے حصے کی نوبلی ہڈی

كَاهِلِهِ فِي الْكَوَاهِلِ وَكَاثِبَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر آپ کی گردن کے قریبی بالائی پٹھے پر ان پٹھوں میں اور آپ کی پیٹھ کے بالائی حصہ پر۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَادِرَتِهِ فِي الْبَوَادِرِ وَمَنْسَجِهِ فِي

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے مونڈھے اور گردن کے درمیانی گشت پر ان گشتوں میں اور آپ کے رگوں پٹھوں کے باہمی



الْمَنَاسِجِ وَرَابِطِهِ فِي الْأَبَاطِ وَبَادِلَتِهِ فِي الْبَادِلِ وَسَحْرِهِ فِي الْأَسْحَارِ

رابط و ضبط والے مقام پر ایسے مقامات ہیں، اور آپ کی ہر ہڈی پر لہجوں میں اور آپ کی نبل اور پستان کے درمیانی گوشت پر ان گوشوں میں اور آپ کے پھیپھے پر پھیپھے پر

وَحِضْنِهِ فِي الْأَحْضَانِ وَعَضْدِهِ وَقِيْحِهِ فِي الْقَبَائِحِ وَوَابِلَتِهِ

میں۔ اور آپ کے پلو پر پلووں میں اور آپ کے بازو پر۔ اور بازوں کی ہڈی کے کنارے پر ان کناروں میں۔ اور بازو کے اور پرواے حصے پر

فِي الْأَوَابِلِ وَمَرْفِقِهِ فِي الْمَرَافِقِ وَسَاعِدِهِ فِي السَّوَاعِدِ وَتَرْتِدُ

ان حصوں میں اور آپ کی کہنی پر کہنیوں میں۔ اور آپ کی کلانی پر کلانیوں میں اور آپ کے ہاتھ

أَعْلَهُ وَأَسْفَلَهُ وَرُسُغِهِ فِي الْأَرْسَاعِ وَيَدِهِ فِي الْإِيَادِي يَا إِلَهَ

کے بالائی گٹے اور زیریں گٹے پر اور آپ کے پتھے پر پیچوں میں اور ہر ہاتھ پر ہاتھوں میں لے مسمو

الْإِلَهَةِ الرَّفِيعِ جَلَّالَهُ أَنْتَ إِلَهُ الْأَنْوَارِ الْمَشْرِقَةِ فِي أَطْبَاقِ

برحق معبودات مشرکین کے بھی کہ بلند ہے جلال اس کا۔ تو ہی الہ ہے ان انوار کا جو روشن ہیں آسمانوں کے

السَّمَوَاتِ الْمُتَجَلِّيةِ بِالْأَنْوَارِ الْجَلِيَّةِ الْبَرَّاقَةِ الْمُسْتَجِنَّةِ مِنْهُ

تمام طبقات میں جو منور ہیں ایسے واضح انوار کے ساتھ جو برق کی مانند چمکنے والے ہیں کہ پوشیدہ ہو جائیں والے ہیں ان کی تجلی سے

الْأَنْوَارِ الظُّلْمَانِيَّةِ الْكَدْرَةِ الْجَهَنَّمِيَّةِ الْمُخْلَقَةِ الْمُحَلَّةِ وَيَارَبِّ

ظلمانی اور گدے انوار جہنم والے جو بوسیدہ اور ویران کرنے والے ہیں۔ اور اے رب

الْفَلَكَ الْكَلْبِيِّ الْأَطْلَسِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي رَكَدَتْ

فلک کلی کے جو ستاروں سے خالی ہے اور رب ان کے جو اس میں ہیں یعنی وہ آٹھ ملائکہ کہ فرار پڑے ہوئے ہیں

أَرْجُلُهُمْ إِلَى تَحْتِ الثُّرَى وَرَعْوُ سُهُمْ تَحْتِ قَوَائِمِ الْعَرْشِ حَبِيبِي

پاؤں ان کے زمین کے گیلے حصے سے بھی نیچے اور ان کے سر عرش کے پایوں کے نیچے ہیں مجھے محبوب بنا

فِي الْمَلَكُوتِ بِالرَّفْعَةِ وَأَشْغَلْنِي عَنِ النَّاسُوتِ بِالْجَبْرُوتِ مَعَ

عالم بالا میں ساتھ رفعت درجات کے۔ اور مشغول کر مجھے عالم اجسام سے ساتھ جبروت کے بمع

الْجَلَالَةِ وَسَلِّطْنِي عَلَى مُشَافَهَةِ الْعُلُويَّاتِ فِي مُشَاهَدَةِ الْحَقَائِقِ

جلالت کے اور مسلط فرما مجھے علویات کے روبرو ہو کر حقائق کا مشاہدہ کرنے پر



وَالْمَغِيَّبَاتِ الْجَلَالِيَّاتِ وَالْجَمَالِيَّاتِ وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِالْحَتْفِ

اور غیبی امور کے مشاہدہ کرنے پر جلالی ہوں یا جمالی۔ اور نہ مؤاخذہ فرما مجھ سے ساتھ موت طاری کر کے

عَنْ تَحْصِيلِ الْكَمَالَاتِ وَلَا أُخْلَفُ مِنْ وَعْدِكَ وَلَا أُخْلَفُ مِنْ

کمالات کے حصول سے (محروم کرنے) کے پس نہیں خلاف کروں گا میں تیرے وعدے کا۔ اور نہ محروم رکھا جاؤں گا

الْأَسْرَارِ الْخَفِيَّةِ مِنْ فَوَائِدِ حُبِّكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَصْحَابِ

اسرار خفیہ سے جو تیرے محاببات کے فوائد و ثمرات ہیں۔ اور بنا مجھے دائیں جانب والوں سے

الْيَمِينِ وَلَا تُزْهِقْ دَعْوَاتِي وَكَلَامَاتِي يَا صَادِقَ الْوَعْدِ وَالْقَوْلِ

اور نہ دور کر میری دعاؤں کو اور کلاموں کو لے اس پستے وعدے اور قول والے کہ

مِنْ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أَرْزُقْنِي عِنْدَ الْبَرَّةِ السَّجَّادَةِ

قبول کرتا ہوں میں ہر دعا کرنے والے کی دعا جبکہ دعا کرے مجھ سے اقرب کر مجھے اپنے نیکوکاروں کے جو سجدہ کرنے والے

وَالرَّكَاعَةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَى الَّتِي حَوْلَ السِّدْرَةِ الْمَرْفُوعَةِ الْمَنْزُوعَةِ

اور رکوع کرنے والے ہیں ساتھ ملا اعلیٰ کے جو بلند مقام سدہ کے گرد ہیں۔ جن سے سلب کر لی گئی ہیں

عَنْهَا الشَّهَوَاتُ النَّفْسِيَّةُ وَالذَّاتُ الرُّوحِيَّةُ أَخِذْ الْفَيْضَ الرَّبَّانِيَّ

نواہشات نفسانیہ اور لذات روحانیہ در آنحالیکہ میں حاصل کرنے والا ہوں فیض ربانی

التَّوْبَرِيَّ وَبِهِ الْحَيَاةُ وَالْهُدَايَةُ كَأَنَّكَ فِي عَالَمِ الْأَمْرِ سَائِرًا إِلَى

توہرانی کا جبکہ ساتھ اسی کے حیوۃ اور ہدایت ہے در آنحالیکہ موجود ہونے والا ہوں عالم امر میں۔ سیر کر نیوالا ہوں پیچھے

وَرَأَى الْفَلَكَ الْكَلْبِيَّ الْأَطْلَسَ فِي الْخَلَائِفِ الْأَبْعَدِ مُنْقَلِبَةً وَهَمَاتِي

فلک کل ابلس کے اس خلد میں جس کا بعد بعید ہے در آنحالیکہ پھرنے والے ہوں میرے اوہام

إِلَى الْحَقِّ اللَّهُمَّ لَا تُبْقِنِي فِي الْأَسْجَافِ الظُّلْمَانِيَّةِ أَنْتَ الْمُخْرِجُ

طرف حق کے۔ لے اللہ نہ باقی رکھ مجھے ظلمانی پردوں میں۔ تو ہی نکالنے والا ہے

الْجَزَارِ مِنْهَا إِلَى التَّوْبَرِ اللَّامِعِ الْهَادِي الْكَشَّافِ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ

کھینچنے والا ہے ان سے طرف نور کے جو چمکنے والا اور رہنمائی کرنے والا ہے اور کھولنے والا ہے (حقائق کا) اللہ تعالیٰ مددگار ہے ان لوگوں کا



أَمْوَايُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الرَّفِيعُ الْغَنِيُّ

جو ایمان لائے نکالتا ہے انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف۔ اے اللہ تو ہی بلند مرتبت، بے نیاز

الْوَهَّابُ وَأَنَا الْفَقِيرُ الدَّلِيلُ الْمَحْتَّاجُ لَا إِلَهَ سِوَاكَ اجْعَلْنِي فَارِعًا

اور ہمہ کرنے والا ہے جبکہ میں فقیر محتاج اور ذلیل ہوں۔ نہیں کوئی معبود برحق سوا تیرے بنا مجھے خالی دل والا

الْقَلْبُ مَجْمُوعُ الْهَمِّ وَوَارِثُ الْإِعْمَالِ وَالْخَيْرَاتِ الْعِلْمِيَّةِ اللُّوْحِيَّةِ

(اپنے غیر سے) اور مجتمع عزم و ارادہ والا۔ اور وارث تمام اعمال اور خیرات علمیہ کا جو لوح (محفوظ) میں ہیں اور

الْمُنْتَقِشَةِ فِي الصُّورِ الْكَلْبِيَّةِ مِنَ الْمَظَاهِرِ الرَّفِيعَةِ فِي مَقَامِ الْجَمْعِ وَ

نقش ہونے والے ہیں مظاہر رفیعہ کے صور کلبیہ میں مقام جمع اور

الْكُلِّ وَارْفَعْنِي مَرْتَبَةً بِأَعْطَاءِ طُعْمَةٍ وَلَقْمَةٍ نُورِيَّةٍ جَمَالِيَّةٍ لِرُوحِي

کل میں۔ اور بلند فرما میرے مرتبہ کو بسبب عطا کرنے ایسے طعام اور لقمہ کے میرے روح کو جو کہ نوری اور جمالی ہے

أَخَذَا مَنْ نَصِيبِ نَفْسِي فَتَسْتَفْرِقُ فِي الْمَطَالَعَاتِ الْجَدَلِيَّةِ

شروع ہونے والا ہے میرے نفس کے نصیب اور حصہ سے پس ہم (روح اور نفس کے ساتھ) مستغرق ہو جائیں (تیرے) اجلال کے مطالعات میں

وَالْمَلَا حَظَاتِ الْجَمَالِيَّةِ بِاشْتِرَاقِ سِرَاجِ الْكَائِنَاتِ الْمَحِيطَةِ

اور تیرے شان اجمال کے ملاحظات میں بسبب روشن ہو جانے کائنات کو متور کرنے والے چراغ کے کہ احاطہ کرنے والی ہیں

أَضْوَاءُهَا بَادِرُ كَانِ الْعَالَمِ وَأَطْرَافِهِ مِنْ غَيْرِ أَطْفَاءِ يَأْمَدِبَرِ

اس کی ضیائی تمام عالم کے ارکان و اطراف کا بغیر کسی لمحہ بجھنے اور بے نور ہونے کے۔ اے تدبیر اور انتظام فرمانے والے

الدَّوَّارِ الْأَعْظَمِ الْمَحِيطِ بِكُلِّ الْأَدْوَارِ اجْعَلْنِي قَعِيدًا مَعَ جُلَسَاءِ

عظیم ترین فلک دائر کے جو احاطہ کئے ہوئے ہے تمام ادوار کا بنا مجھے ہم نشین حق اور

الْحَقِّ مَعَ الصِّدِّقِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الْحَرَّانِ إِلَى مُشَاهَدَتِكَ مِنْ

صدق والے جلساء کا یعنی ان اولیاء کرام کا جو پرواز کرنے والے ہیں تیرے مشاہدہ ذات کی طرف

غَيْرِ الْحَرَمَانِ يَا ذَا الْإِحْسَانِ ارْفَعْ دَرَجَاتِي إِلَى اللَّاهُوتِيِّ مِنْ

بغیر حرمان اور محرومی کے۔ اے مالک احسان کے۔ بلند فرما میرے درجات کو لاہوتی بلندیوں

الرَّفَعَاتِ الْمَشْمُولَةِ الْأَنْوَاعِ تَحْتَ هَذَا الْإِسْمِ الرَّفِيعِ

تک جو تمام اقسام کی بلندیوں کا احاطہ کرنے والی ہیں نیچے اس اسم رفیع و

الْجَلِيلِ حَتَّىٰ أَكُونَ مُسَامِرًا فِي سَطَوَاتٍ وَمُتَصَرِّفًا بِعَوَارِضِ

جلیل کے حتیٰ کہ ہو جاؤں میں اپنے ساتھ ہرکلام ساتھ سطوات اور غلبہ کے اور متصرف ہو جاؤں ہرگز والے

الْمَلِكَةِ فِي عَيْنِ نَعْوَتِ الْكَمَالِ ثُمَّ عَرَّجْنِي وَالْحَقْنِي بِالرُّوحِ

عوارض و صفات (حاصل کرنے کے) ذریعے صفات کمال میں۔ پھر مجھے بلندی پر چڑھا اور لائق فرما اس روح اقدس کی سیاق

الَّذِي هُوَ أَبُو الْأَرْوَاحِ الْمُحَمَّدِيَّ بِالطَّاعَةِ وَالْإِنْقِيَادِ وَحُصُولِ

جو کہ تمام ارواح کی اصل ہے یعنی روح محمدی کے ساتھ سب اطاعت گزار اور تابعداری کے اور حاصل ہونے

الْصِّفَاتِ فِي الْمَرَاتِبِ الْإِضَافِيَّاتِ وَالْكَثْرَاتِ مُتَوَجِّهًا

صفات کے مراتب اضافیہ اور مراتب کثرت میں درآئنا لیکہ توجہ کرنے والا ہو جاؤں

إِلَىٰ عَالَمِ الْقُدْسِ فِي اقْتِنَاءِ الْعَجَائِبِ وَإِسْعَافِ الْحَاجَاتِ

طرف عالم قدس کے عجائبات کے حاصل کرنے میں اور حاجات کے پورا کرنے میں۔

مَعَ إِشْرَافِ الْخَوَاصِّ إِلَيْهِ يَاتِ بِضَمْنِ الْبَدَنِ وَالرُّوحِ اللَّهُمَّ

مع منکس ہونے اور پر توکل ہونے خواص النبیہ کے میرے بدن اور روح کے اندر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی ہر دو کلابوں پر

فِي الْأُزْرَعِ وَنَاشِرْتَهُ فِي النَّوَاشِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

کلابوں میں اور آپ کے ہاتھوں کے رگوں پھولوں پر تمام ایسے پھولوں اور رگوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ رَاحَتِهِ فِي الرَّاحِ وَكِفِّهِ فِي

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی ہتھیلی کے اندرونی حصہ پر ایسے تمام حصوں میں اور ہتھیلی پر ہتھیلیوں میں

الْكُفُوفِ وَبَطْنِ كِفِّهِ فِي الْبُطُونِ وَظَهْرِ كِفِّهِ فِي الْأَكْفِ اللَّهُمَّ

اور آپ کی ہتھیلی کے اندرون پر ہتھیلیوں کے اندرونی حصوں میں اور اس کی پشت پر ہتھیلیوں کی پشتوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَقْبِهِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی پیچھے کے مہروں پر

وَرَأْسَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور آپ کے کندھوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِصْبِعِهِ فِي الْأَصَابِعِ وَرَأْسَيْهِ فِي الرَّوَاجِبِ اللَّهُمَّ

محمد کی آل پر اور آپ کی ہر انگلی پر انگلیوں میں۔ اور آپ کی ہر انگلی کے ہر جوڑ پران کے جوڑوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى شَتْرِهِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی ہر دو انگلیوں کے

فِي الشَّتَائِرِ وَخَنْصِرِهِ فِي الْخَنَاصِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

درمیانی حصے پر۔ اور آپ کی ہر ہر چھنگلی پر چھنگلیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَنْصِرِهِ فِي الْبَنَاصِرِ وَوَسْطِيهِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی چھنگلی کے ساتھ والی انگلی پر ان انگلیوں میں اور آپ کی ہر دو درمیانی انگلیوں پر

فِي الْوَسْطِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

درمیانی انگلیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُسَبِّحَتَيْهِ فِي الْمُسَبِّحَاتِ وَرَأْسَيْهِ فِي الرَّأْسِ

محمد کی آل پر۔ اور آپ کی دونوں شہادت والی انگلیوں پر شہادت والی انگلیوں میں۔ اور آپ کے دونوں اٹھوٹھوں پر اٹھوٹھوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور

عَلَى كَوْعِهِ وَبَنَاتِهِ فِي الْبَنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ کی کلانی کے جوڑ پر اور آپ کے ہر لورے پر انگلیوں کے لپروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أُنْسَانِهِ فِي الْأُنْسَانِ وَكَعْبِهِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی آنکھ کی تیلی پر آنکھوں کی تیلیوں میں اور آپ کے جوڑوں کی ہڈی پر

فِي الْكَعَاسِ وَبُصْبِهِ وَعَعْتَبِهِ وَعَسْنِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ان ہڈیوں میں اور آپ کی چھتگی اور اس کے ساتھ والے درمیانی فاصلے پر اور ان دونوں کے درمیانی حصے پر اور آپ کی چربی پر یا ریشائی پر۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ رَتْبِهِ وَفَتْرَةِ وَفَوْتِهِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر۔ اور آپ کی خضر و نضر کے درمیانی فاصلے پر اور آپ کی آفتاب شہادت اور انگوٹھے کی کشادگی کی حالت میں درمیانی فاصلے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

پر اور کوئی سی دو انگلیوں کے درمیانی فاصلے پر۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور

عَلَىٰ أَمْرَبِهِ فِي الْأَرَابِ وَفَرَجَتِهِ فِي الْفَرْجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

آپ کے ہر ہر عضو پر اعضاؤں میں۔ اور آپ کے اعضاء کی درمیانی کشادگی پر کشادگیوں میں لے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَشْجَعِهِ فِي الْأَشْجَعِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی ہر انگلی کی جڑ پر ان کی جڑوں میں

وَبُرْجَمَتِهِ فِي الْبُرْجِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور جڑوں کے خطوط اور گہروں پر ان گہروں میں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أُنْمَلَتِهِ فِي الْأُنْمَلِ وَشَبْرِهِ فِي

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی ہر انگلی کے سرے پر انگلیوں کے سروں میں اور آپ کی بالشت پر

الْأَشْبَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بالشتوں میں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَعَلَىٰ يُمْنِيهِ فِي الْيُمْنِيَّاتِ وَيُسْرِيهِ فِي الْيُسْرِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آپ کے دائیں انگلیوں پر دائیں انگلیوں میں اور بائیں انگلیوں پر بائیں انگلیوں میں۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ طَفْرِهِ فِي

و سلام بھیج سیدنا محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے ہر ناخن پر

الْأَطْفَارِ وَفَوْفِهِ فِي الْأَفْوَافِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ناخنوں میں۔ اور ہر ناخن کے ابتدائی سفید حصے پر ان سفید حصوں میں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر



وَعَلَى قَلَامَتِهِ فِي الْقَلَامَاتِ وَوَبَشْتِهِ فِي الْأَوْبَاشِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کے ناموں کے ہر تراشہ پر تراشوں میں۔ اور آپ کے ناموں کے سفید نشانات پر سفید نشانوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِكْلِيبِهِ فِي الْأَكْلِيلِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے ناموں کے ارد گرد کے گوشے پر ایسے گوشوں میں

وَوَظْرِهِ فِي الْأَظْهِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور آپ کی پشت اقدس پر پشتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَطَائِعِهِ فِي الْأَمْطَاءِ وَحَاذِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد کی آل پر اور آپ کی پشت اقدس پر پشتوں میں اور آپ کی پیٹھ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعُضُدِي ظَهْرِهِ وَكِتَابِهِ فِي الْأَكْتَادِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی پشت اقدس کے دو مضبوط چھوں پر۔ اور آپ کے دونوں کندھوں کی درمیانی جگہ پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی

مَتْنِهِ فِي الْمَتُونِ وَعَظْمِهِ الْعَرِيضِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

پیٹھ مبارک پر پیٹھوں میں اور آپ کی چوڑی ہڈی مبارک پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ضُلُوعِهِ فِي الْأَضْلَاعِ وَأَضْلَاعِ صَدْرِهِ فِي الصُّلُوعِ

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی ہر پسلی پر پسلیوں میں۔ اور آپ کے سینے کی پسلیوں پر پسلیوں میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور

عَلَى ضُلُوعِهِ الْقَصِيرِيِّ وَنَافِجِهِ فِي التَّوَافِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آپ کی چھوٹی پسلی پر اور آپ کی آخری پسلی پر آخری پسلیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عِشَائِهِ الْمُسْتَبْطِنِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے اس لمبی پردے پر





لَا ضَلَاةَ لَهُ وَعِشَاءَ الْمُسْتَظْهِرِ لِضَلَاةِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيَّ

جو آپ کی پسلیوں کی اندرونی جانب ہے اور اس پردے پر جو آپ کی پسلیوں کی بیرونی جانب ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَنَّتِهِ فِي الْجَنُوبِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے پہلو پر پہلوؤں میں اور

شَرُّوْفِهِ فِي الشَّرَاسِفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

آپ کی پسلیوں کے پیٹ مبارک کی جانب والے حصے پر ان پسلیوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سِنِّيَّتِهِ فِي السَّنَائِسِ وَفَرَشِيَّتِهِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے سینہ کی ہڈیوں کے سرے پر سینوں کی ہڈیوں کے سروں میں اور آپ کی زبان مبارک کے نیچے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ طِفْطِفَتِهِ فِي

کی دورگوں پر۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی کمر پر

الطَّفَاطِفِ وَصَدْرِهِ فِي الصُّدُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

کمروں میں اور آپ کے سینہ پر سینوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَظْمِهِ الزُّرُوقِي وَجَنَجِنِهِ فِي

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی کشتی نما سینہ کی ہڈی پر اور آپ کے سینہ کی ہڈیوں پر

الْجَنَاجِنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

ان ہڈیوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ثَغْرَتِهِ فِي الثُّغُرِ وَبَرْقِهِ فِي الْبُرُوقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ


محمد کی آل پر۔ اور آپ کے سامنے والے مبارک دانتوں پر ان دانتوں میں اور ان کی چمک پر چمکوں میں۔ اے اللہ صلوات و

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَيْرُومِهِ فِي الْحَيَازِيمِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی چھاتی کے درمیانی حصے پر چھاتیوں کے درمیانی حصوں

وَبَلَدَاتِهِ فِي الْبَلَدَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

میں۔ اور آپ کے سینے پر سینوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور



إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَانِحَتِهِ فِي الْجَوَانِحِ وَجَوْشِنِهِ فِي الْجَوَاشِنِ

سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی جانب پر جوانب میں اور آپ کے سینہ پر سینوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے

حَبَابِ صَدْرِهِ فِي الْحُجُبِ وَزُورَاتِهِ فِي الْأَزْوَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سینہ کے لمبی پردہ پر۔ اور آپ کے سینہ کے بالائی حصے کی حمیدگی پر سینوں کی حمیدگیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَرْيُوبَتِهِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی چنبر والی ہڈیوں پر ان

فِي التَّرَائِبِ وَقَصِّهِ فِي الْقِصَاصِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہڈیوں میں اور آپ کے سینہ کی ہڈی پر سینہ کی ہڈیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ اور سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَسْرِيَّتِهِ وَشَرِّحْ صَدْرَهُ يَا إِلَهِي كَفَى عِلْمُكَ عَنِ الْمَقَالِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے سینہ سے شروع ہونے والی بالوں کی باریک نگیں پر اور سینہ کی کشادگی پر۔ اے میرے خدا کا

وَكَفَى كَرَمُكَ عَنِ السُّؤَالِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ يَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ

ہے علم تیرا قول و کلام سے۔ اور کفایت کر نیوالا ہے جو دردم تیرا سوال سے۔ اے مہربان حق تمام جہانوں کے۔ اے سب مددگاروں سے بہتر مددگار

بِرَحْمَتِكَ أَسْتَعِيثُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ سِرِّ هَذِهِ

تیری رحمت کے ساتھ استغاثہ کرتا ہوں میں اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ اے اللہ بظیفیل حق ان اسرار کے

الْأَسْرَارِ وَبِحَقِّ كَرَمِكَ الْخَفِيِّ وَبِحَقِّ الْإِسْمِ الْأَعْظَمِ أَنْ تَقْضِيَ

متر کے۔ اور بظیفیل تیرے حق کرم کے جو مخفی در مخفی ہے اور بظیفیل حق اسم اعظم کے (سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تو پورا فرمائے

حَاجَتِي وَتُهْلِكَ عَدُوِّي وَتُوصِلْنِي إِلَى مُرَادِي وَتُدْفِعْ عَنِّي شَرَّ

میری حاجت کو اور ہلاک کرے میرے دشمن کو اور مجھے واصل کرے میری مراد تک۔ اور دور کرے مجھ سے شر و فساد

جَمِيعِ عِبَادِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ

اپنے تمام بندوں کا۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ مہربان۔ اے اللہ مجھے بچا فتنوں کے شر سے

وَعَافِنِي مِنْ جَبِيحِ الْمَحْنِ وَأَصْدِحْ مِنِّي مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ وَتَقِّ قَلْبِي

اور مجھے ممانیت بخش تمام مشقتوں سے اور اصلاح فرما میرے ظاہر کی اور میرے باطن کی اور پاک فرما میرے قلب کو

مِنَ الْحَقْدِ وَالْحَسَدِ وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ تَبَاعَةً إِلَّا حِدَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

کینہ اور حسد سے۔ اور نہ ڈال مجھ پر تاوان کسی کے لیے۔ اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

الْأَخْذَ بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ وَالْتَرُكَ لِسَيِّئِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ التَّكْفُلَ

قبول کرنے اور لینے کا جو خوب تر ہے ان تمام لاعمال سے جو تیرے علم میں ہیں اور ترک کرنے کا میرے اعمال میں سے ابدتر کا جو تیرے علم میں

بِالرِّزْقِ وَالرُّهْدَ فِي الْكُفَافِ وَالْمَخْرَجَ بِالْبَيَانِ مِنْ كُلِّ شَبْهَةٍ وَ

ہیں۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کفیل بننے کا ساتھ رزق کے اور رہد کا گزران میں۔ اور خلاصی پانے کا بیان کے ذریعے ہر قسم کے شبہات سے اور

الْفَدَجَ بِالصَّوَابِ فِي كُلِّ حُجَّةٍ وَالْعَدْلَ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى وَالسَّلَامَ

کشادگی کا ساتھ صواب کے ہر حجت و دلیل میں۔ اور عدالت کا تاراضگی اور رضا مندی میں

لِمَا يَجْرِي بِهِ الْقَضَاءُ وَالْإِقْتِصَادَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَالتَّوَاضُّعَ فِي

اور دل و جان سے ماننے کا ہر اس چیز کو کہ جاری ہوتی ہے ساتھ اس کے تیری نضاء اور درمیانہ روی کا نقر اور غنا میں۔ اور تواضع کا

الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ وَالصَّدَقَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ذُنُوبًا

قول و عمل میں اور سچائی کا ارادی کلام اور سنجیدہ سخن میں اور استہزائی کلام اور غیر سنجیدہ سخن میں۔ اے اللہ میرے کچھ گناہ ایسے ہیں

فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَذُنُوبًا فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ مَا كَانَ

جو میرے اور تیرے درمیان ہیں اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو میرے اور تیری مخلوق کے درمیان ہیں۔ اے اللہ جو ان میں سے

لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ وَمَا كَانَ مِنْهَا لِخَلْقِكَ فَتَحْمِلْهُ عَنِّي وَأَعِزَّنِي

تیرے حق میں ہیں وہ صحت فرما اور ان میں سے جو تیری مخلوق کے حق میں ہیں تو انہیں بھی مجھ سے اٹھالے اور مجھے غنی کر دے

بِفَضْلِكَ إِنَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے فضل کے ساتھ (اپنے ماسوا سے) بیشک تو وسیع مغفرت والا ہے اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى شِقِّ صَدْرِي فِي الصُّدُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے شق صدر پر سینوں میں۔ اے اللہ صلوات



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی ثَنَدٍ وَتَبَةٍ فِي

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے پستان پر

الثَّنَادِي وَحَلَمَتَيْهِ فِي الْحُلُمَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پستانوں میں اور پستانوں کے سروں پر ان کے سروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی رِيَابِهِ فِي الرِّيَّاتِ وَفُوَادِهِ فِي الْاَفْعَادَةِ

اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے پھیپھڑے پر پھیپھڑوں میں اور آپ کے دل پر دلوں میں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے

سُوَيْدِ اَيْدِيهِ فِي السُّوَيْدَاتِ وَغُلْفِ قَلْبِهِ فِي الْغُلْفِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

دل انور کے وسط پر دلوں کے اوساط میں اور آپ کے دل انور کے بیرونی غلاف اور پردہ پر دلوں کے غلافوں میں۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی يَطْنِيْ قَلْبِهِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے دل اقدس کے اندرونی دونوں حصوں پر

فِي الْبُطُوْنِ وَدِهْلِيْزِهِ فِي الدَّهَالِيْزِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

ان اندرونی حصوں میں۔ اور دل منور کی لمبی نالی پر لمبی نالیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی قَاعِدَةِ قَلْبِهِ فِي الْقَوَاعِدِ وَحِجَابِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے دل انور کے ابتدائی بنیادی حصے پر بنیادی حصوں میں۔ اور دل

قَلْبِهِ فِي الْحُجْبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

انور کے حجاب پر حجابوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی شِغَافِهِ وَابْهَرِيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

محمد کی آل پر اور آپ کے دل مقدس کے وسطی حصے پر۔ اور آپ کے دل مبارک کی دو بڑی رگوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اُذُنِيْ قَلْبِهِ فِي الْاُذَانِ

بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے دل انور کے دونوں کانوں پر کانوں میں



وَنُجِفِهِ فِي الْأَنْجَافِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور آپ کے دل اقدس کی وسطی موٹی اور بھری ہوئی جگہ پر ان جگہوں میں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَبَّةِ قَلْبِهِ فِي حَبَاتِ الْقُلُوبِ وَوَتِينِهِ فِي الْوَتَنِ

پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے دل اقدس کے اندرونی تہہ اور نقطہ پردلوں کے نقطوں میں اور آپ کے دل اقدس کی بڑی رگ پر ان بڑی رگوں میں اور

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

سارے بدن کو خون پہنچاتی ہیں لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے

عَلَى كَيْدِهِ فِي الْأَكْبَادِ وَسَوَادِ بَطْنِهِ فِي الْبَطْنَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جگر پر جگروں میں۔ اور آپ کے بطن اقدس کے اندرونی اجزاء پر ان اندرونی اجزاء میں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَدَّبِ كَيْدِهِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے جگر کے بیرونی ڈھلوان حصہ پر

وَمُقَعَّرِ كَيْدِهِ وَنَمْرٍ وَأَيْدِ كَيْدِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور آپ کے جگر کی گرائی پر۔ اور اس کے بڑھے ہوئے حصوں پر۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَابِهِ فِي الْأَبْوَابِ وَأَجُوفِيهِ وَمَرَامَاتِهِ

سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے (دل یا جگر) کے باب اور آغاز پر ابواب میں۔ اور آپ کے جگر کے اندرونی دو خالی اجزاء پر اور آپ کے پٹھے پر

فِي الْمَرَامَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پٹھوں میں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

مُحَمَّدٍ وَعَلَى طِحَالِهِ فِي الطَّحْلِ وَفَمِ مَعْدَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی تلی پر تلیوں میں۔ اور آپ کے فم معدہ پر۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَعْدَتِهِ فِي الْمَعْدِ وَأَمِّ طَعَامِهِ فِي

محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے معدے پر معدوں میں۔ اور آپ کے معدے میں طعام والی جھلی پر

أَمَاتِ الطَّعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ان جھلیوں میں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَطْنِهِ فِي الْبُطُونِ وَعُكْنَتِهِ فِي الْعُكْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد کی آل پر۔ اور آپ کے بطن اقدس پر بطون میں اور پیٹ مبارک کی سلوٹوں پر پیٹوں کی سلوٹوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى لِبْطْنِهِ وَمَا سَارِيقَاؤُهُ

سیدنا محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی جلد پر۔ اور آپ کی ماساریقاؤں پر یعنی دل کی باریک رگوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی

حَشَائِهِ فِي الْأَحْشَاءِ وَمَرْقِيهِ فِي الْمَرَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

انتریلوں پر انتریلوں میں اور آپ کے پیٹ کے ناف متصل حصے پر ان حصوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ثُرْبِهِ فِي الثُّرُوبِ وَصِفَاقِهِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی اونچھڑی اور انتریلوں کی چربی پر ان چربیوں میں۔ اور جلد کے اندر والی باریک جھلی پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سُرِّهِ فِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے بچپن کے دور کی ناف پر

الْأَسْرَةِ وَسُرَّتِهِ فِي السَّرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور بعد والے ادوار میں آپ کی نال اور ناف پر نافوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ثُنْتَيْهِ فِي الثَّنَيْنِ وَمَا كَيْدِهِ فِي الرِّكَابِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے پاؤں کے بالوں پر ان بالوں میں۔ اور آپ کے زانو پر زانوؤں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَا نَيْتِهِ فِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی ناف اور اس کے

الْمَانَاتِ وَخَثَلَتِهِ فِي الْخَثَلَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور گرد کے حصے پر نافوں میں۔ اور آپ کے پیڑوں پر پیڑوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَصْبِهِ فِي الْأَقْصَابِ وَمَصِيرِهِ فِي

اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے حلق سے معدہ تک کی نالی پر ایسی نالیوں میں اور آپ کی آنت پر



الْمَصَارِيرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آنٹوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَعَلَى مَعَائِدِهِ فِي الْأُمْعَاءِ وَكَرُشَتِهِ فِي الْكُرُوشِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی انتڑی پر انتڑیوں میں۔ اور آپ کے معدہ پر معدوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِثْنَيْ عَشْرِيَّتِهِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے بارہ طبقات جسم پر یا بارہ اجزاء اور اعضاء ظاہرہ پر یا بارہ اندرونی اجزاء

صَاتِبِهِ وَدُقَاقِهِ وَأَعْوِرَهُ وَقَوْلُونِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر اور بڑی مضبوط ہڈیوں پر اور باریک ہڈیوں پر اور آپ کے مفرد اجزاء پر اور مرکب اجزاء پر لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَعَائِدِهِ الْمُسْتَقْلِمِ وَكُلِّيَّتِهِ فِي

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی سیدھی آنت پر۔ اور آپ کے گردے پر

الْكُلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

گردوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَعَلَى مَثَانَتِهِ فِي الْمَثَانَاتِ وَخَاصِرَتِهِ فِي الْخَوَاصِرِ وَخَصْرِهِ

اور آپ کے شانے پر مثانوں میں۔ اور آپ کے پہلو پر پہلوؤں میں اور آپ کی کمر پر

فِي الْخُصُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کمروں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَظْمِ حَرْقَفَتِهِ وَكَشْحِهِ فِي الْكَشُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد کی آل پر اور سرین والی ہڈی پر۔ اور آپ کے پہلو پر پہلوؤں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَرْكِهِ فِي

و سلام بھیج سیدنا محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی سرین پر

الْأُورَالِ وَحَقِّ وَرْكِهِ فِي الْحَقَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سرینوں میں۔ اور سرین کے سرے پر سرینوں کے سروں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَصَائِهِ فِي الْعَصَائِعِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور سرین کی ہڈی کے سرے پر ایسی ہڈیوں کے سروں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور

عَلَىٰ قُرْبِهِ فِي الْأَقْرَابِ وَفَخِيذِهِ فِي الْأَفْخَاذِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کی کوکھ پر کوکھوں میں۔ اور آپ کے ران پر رانوں میں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ كَاذِبِهِ فِي الْكَاذِبَاتِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی ران کے اُبھرے ہوئے گوشت پر ان کے اُبھرے ہوئے گوشتوں میں

وَمَغْبِنِهِ فِي الْمَغَابِنِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رَاغِبَتِي إِلَيْكَ فَوْقَ رَغْبَةِ

اور آپ کی بغل پر بغلوں میں۔ لے اللہ بنا میری رغبت کو طرف اپنی ذات کے بلند تر تمام رغبت کرنے

الرَّاغِبِينَ وَحَمْدِي إِلَيْكَ فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِينَ وَلَا تَخْذُلْنِي

واولوں کی رغبتوں سے۔ میری حمد و ستائش اپنی بارگاہ میں رہنا بلند تر سب حمد کرنے والوں کی حمد سے۔ اور مجھے محروم التفات نہ

عِنْدَ فَاقَتِي إِلَيْكَ وَلَا تُهْدِكُنِي بِمَا أَسْدَيْتَهُ إِلَيْكَ وَ

رکھنا وقت میری محتاجی کے طرف تیرے اور مجھے نہ ہلاک کرنا بسبب اس کے جو میں نے (تیرے احکام کو ادا نہ کرنا) چھوڑا اور

وَلَا تَجْبِهْنِي بِمَا جَبِهْتَ بِهِ الْمُعَانِدِينَ لَكَ فَإِنِّي لَكَ مُسَلِّمٌ

نہ سختی سے پیش آنا مجھے ساتھ اس شدت اور سختی کے جس کے ساتھ تو نے اپنے معاندین کے ساتھ سلوک کیا کیونکہ میں تو یقیناً تیرے لیے سلام لا نیوالا

أَعْلَمُ أَنَّ الْحُجَّةَ لَكَ وَأَنَّكَ أَوْلَىٰ بِالْفَضْلِ وَأَعُوذُ بِالْإِحْسَانِ

ہوں میں جانتا ہوں کہ بیشک حجت و برہان تیرے لیے ہے اور دریں بھی یقین رکھتا ہوں کہ تو زیادہ لائق ہے ساتھ فضل کے

وَأَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ وَأَنَّكَ بَأْسٌ تَعْفُو أَوْلَىٰ

اور بہت عادی ہے ساتھ احسان کے اور سزاوار ہے اس کا کہ ڈرا جائے تجھ سے اور لائق ہے بخشش کے ہم پر۔ اور یہ کہ تجھے غفور و درگزر زیادہ

مِنْكَ بِأَنَّ تَعَاقِبَ وَأَنَّكَ بِأَنَّ تَسْتُرُ أَقْرَبُ مِنْكَ إِلَىٰ أَنْ تَشْهَرَ

لائق ہے نسبت عقاب و عذاب دینے کے اور یہ کہ تیری پردہ داری زیادہ قریب ہے تجھ سے نسبت ہمارے جرموں کی تشہیر کرنے کے





فَإِحْيَىٰ حَيَوَةَ طَيِّبَةً تَنْتَظِمُ بِهِمَا مَا أُرِيدُ وَتُبَلِّغُ بِهِمَا مَا أَحَبُّ مِنْ

پس مجھے زندگی عطا کر انہما کی پاکیزہ زندگی کو انتظام پذیر ہو بسبب اس کے میری ہر اور رسائی بخشنے مجھے بسبب اس کے

وَصَلِّكَ وَلَا آتِي مَا تَكْرَهُ وَلَا أُرْتَكِبُ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ وَ أَمْتَنِي

جو میں محبوب رکھتا ہوں یعنی اپنے مثل کسا اور نہ کروں میں جو تجھے ناپسند ہے۔ اور نہ ارتکاب کروں میں ایسے امور کا جن سے تو نے مجھے منع کیا ہے اور

مِيْتَةً مَنْ كَسَعِي نَوْمًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَذَلَّلْتَنِي بَيْنَ يَدَيْكَ

مجھے وفات دے ان لوگوں جیسی کہ دوڑتا ہوگا نوران کا ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب اور مجھے متواضع و منکسر بنا اپنے آگے

وَأَعَزَّنِي عِنْدَ خَلْقِكَ وَضَعْنِي إِذَا اخْلَوْتُ بِكَ وَأَرْفَعْنِي بَيْنَ

اور مجھے عزت اور سر بلندی بخش نزدیک اپنی مخلوق کے۔ اور مجھے پست بنا جب میں تیرے ساتھ خلوت میں ہوں۔ اور رفعت بخش مجھے اپنے

عِبَادِكَ وَأَعَزَّنِي عَمَّنْ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي وَرَزَقْنِي إِلَيْكَ فَاقَةً وَفَقْرًا

بندوں کے درمیان۔ اور غنی فرما مجھے ان سے جو مجھ سے بے پروا ہوں۔ زیادہ فرما اپنی طرف میرے فاقہ اور فقر کو

وَأَعَدَّنِي مِنْ شِمَاتِهِ الْأَعْدَاءِ وَمِنْ حُلُولِ الْبَلَاءِ وَمِنَ الدُّلِّ وَ

اور مجھے پناہ دے دشمنوں کی مسرت و شادمانی سے۔ اور بلیات کے نزول سے اور بے سرو سامانی اور

الْعَنَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مشقت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَعَلَى حَالِيهِ وَرَبْلَتِهِ فِي الرَّبَابَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور ان کے مشائخ و پسرین والی ہر رگ پر اور ان کے ہر ران کی جڑ پر رانوں کی جڑوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى نَرَأَيْدَتِهِ الْعُظْمَىٰ وَنَرَأَيْدَتِهِ


محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے کچلیوں کے قریب والے بڑے دانت اور چھوٹے

الصُّغْرَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دانت پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَأْسَيْهِ فِي الرَّكَبَاتِ وَمَا بِيضُهُ فِي الْمَابِضِ اللَّهُمَّ

آل پر۔ اور آپ کے گھٹنے (کے بیرونی حصے پر) گھٹنوں میں اور گھٹنے کے اندرونی حصے پر اندرونی حصوں میں۔ اے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے

كُرْدُوْسِيَهٗ فِي الْكَرَادِيْسِ وَرَضْفَتِيَهٗ فِي الرَّضْفَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

کنده کی ہڈی پر کندھوں کی ہڈیوں میں۔ اور آپ کے گھٹنے کی ہڈیوں پر گھٹنوں کی ہڈیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی خِيْبِيَهٗ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے ناک مبارک کے ہر نتھنے پر

فِي الْاَخْتَابِ وَسَاقِيَهٗ فِي السُّوْقِ وَطَرْفِيَهٗ فِي الْاَطْرَافِ اَللّٰهُمَّ

ناکوں کے نتھتوں میں اور آپ کی پنڈلی پر پنڈلیوں میں۔ اور ہر طرف اور عضو کے کنارے پر اطراف میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل امجاد پر۔ اور

عَلٰی قَصْبَتِيَهٗ الْكُبْرٰى وَقَصْبَتِيَهٗ الصَّغْرٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کے سانس کی بڑی نالی اور چھوٹی نالی پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی رِجْلِيَهٗ فِي الْاَرْجُلِ وَ

بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے ہر ایک پاؤں پر پاؤں میں اور

كَعْبِيَهٗ فِي الْكَعُوْبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

آپ کے ہر ایک نتھنے پر ٹخنوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی عَقْبِيَهٗ فِي الْاَعْقَابِ وَعَرْقُوْبِيَهٗ فِي الْعَرَاْقِيْبِ اَللّٰهُمَّ

محمد کی آل پر اور آپ کی ہر ایک ایڑی پر ایڑیوں میں۔ اور آپ کے ایڑی سے اوپر والے پٹھے پر ان پٹھوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی زُوْرَتِيَهٗ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے وسط صدر پر

وَنُرْدِيَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

اور سینہ کے سارے ڈھانچے پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَحْبَبِهِ فِي الْأَخَامِصِ وَقَدَمِهِ فِي الْأَقْدَامِ وَظَهْرٍ

محمد کی آل پر۔ اور آپ کے قدم کے تلوے کی حمیدگی پر ان کی حمیدگیوں میں۔ اور آپ کے ہر قدم پر اقدام میں اور ہر قدم کی پشت پر

قَدَمِهِ فِي الظُّهْرَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

قدموں کی پشتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مُشْطِهِ فِي الْأَمْشَاطِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

محمد کی آل پر اور آپ کی پشت پاپریاس کی باریک ہڈی پر ان ہڈیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ إصْبِعِ رَجُلِيهِ فِي الْأَصَابِعِ وَكَفِّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے دونوں پاؤں کی ہر انگلی پر انگلیوں میں۔ اور آپ کے پاؤں

رَجُلِيهِ فِي الْكُفُوفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

کے تلووں پر تلووں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَعْضَائِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَأَعْضَائِهِ الْمَفْرَدَةِ

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے اعضاء اصلیہ پر اور آپ کے مفرد اعضاء پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور

عَلَىٰ أَعْضَائِهِ الْمُرَكَّبَةِ وَالرَّئِيسَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

آپ کے اعضاء مرکبہ پر اور اعضاء رتیبہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَعْضَائِهِ الْخَادِمَةَ لِلرَّئِيسَةِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے ان اعضاء پر جو اعضاء رتیبہ کے خادم ہیں

وَالْمَرْوُوسَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور مخدوم اعضاء پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَعْضَائِهِ الْغَيْرِ الْمَرْوُوسَةِ وَلَا الرَّئِيسَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد کی آل پر اور آپ کے اعضاء غیر مخدوم اور غیر رتیبہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اَعْضَائِهِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے اعضاء

الْخَادِمَةِ وَاَعْضَائِهِ الْمَوْلَدَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

خادمہ پر اور اعضاء تولد پر ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی رُطُوْبَتِهِ الْغَرِيْزِيَّةِ وَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی رطوبت غریزیہ پر اور

حَرَارَتِهِ الْغَرِيْزِيَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حرارت غریزیہ پر ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اُمُوْرِهِ الطَّبَعِيَّةِ فِي الطَّبَايِعِ وَ

اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے امور طبیعیہ پر طبائع کے امور میں اور

رُكْنِهِ الشَّبَكِيَّةِ وَطَبَقَتِهِ الْمَشِيْمِيَّةِ وَالصُّلْبِيَّةِ وَرُطُوْبَتِهِ الْبَيْضِيَّةِ

آپ کی آنکھ کے طبقہ شبکیہ پر اور طبقہ مشیمہ پر اور طبقہ صلبیہ پر اور رطوبت بیضیہ پر

وَالجَلِيْدِيَّةِ وَالرُّجَاجِيَّةِ فِي الرُّطُوْبَاتِ وَعَصِيْنَتِهِ الْمَجُوْفَةِ فِي الْاَعْصَابِ

اور رطوبت جلیدیہ پر اور رطوبت زجاجیہ پر رطوبات میں اور آپ کی آنکھوں سے مجمع النور کی طرف جانے والے اندر سے خالی پٹھے پر پتھوں میں

وَمَجْمَعِ نُوْرِهِ فِي الْمَجَامِعِ وَمُقْلَتِهِ فِي الْمُقْلَاتِ وَمَا قَعِيْنِهِ فِي الْاَمَاقِ

اور آپ کے مجمع النور پر جہاں دونوں آنکھوں کی صورتیں بیچ کر ایک بن جاتی ہیں اور آپ کی آنکھ کے ڈھیلے پر ڈھیلوں میں اور آپ کی آنکھ کے اندرونی

وَمُقَدَّمِ عَيْنِهِ فِي الْمَقَادِيْمِ وَمَوْخَرِ عَيْنِهِ فِي الْاٰخِرِ وَنُقْرَةَ عَيْنِهِ فِي

کنارہ پران کناروں میں ۔ اور آپ کی آنکھ کے مقدم حصہ پر مقدم حصوں میں ۔ اور آپ کی آنکھ کے موخر حصے پر موخر حصوں میں اور آپ کی آنکھ کے گڑے پر

التَّقْرِوَاتِ وَشَحْمَةَ عَيْنِهِ فِي الشُّحُوْمِ وَاَنْسَانَ عَيْنِهِ فِي الْعِيُوْنِ وَمَرْمَعِهِ

گڑھوں میں ۔ اور آپ کی آنکھ کے ڈھیلے پر ڈھیلوں میں ۔ اور آپ کی آنکھ کی پتلی پر آنکھوں میں اور آنکھ کے سفید کشادہ حصے پر

فِي الْمَرَامِعِ وَحَدَقَتِهِ فِي الْاَحْدَاقِ وَجَنْدَرَهُ فِي الْجَنْادِيْرِ وَكَلِيْلِهِ فِي

کشادہ حصوں میں اور آپ کی آنکھ کے سیاہ پتلی پر سیاہ پتلیوں میں ۔ اور آنکھ کے نورانی حصے پر نورانی حصوں میں اور نورانیت سے خالی حصے

الْكَالِيلِ وَشَهْلَتِهِ فِي أَشْهَلِ الْأَعْيَانِ وَأَزْدَ بَرِيهِ وَلِخُصَّتِهِ

پر نورانیت سے خالی حصوں میں۔ اور آپ کی ہر آنکھ کے سیاہ سرخی مائل حصے پر ایسے حصوں میں۔ اور ہر آنکھ کے گرد کی ہڈیوں پر۔ اور آنکھوں کے پوٹوں کی

فِي الْإِنْيَاصِ وَصُدُغِهِ فِي الْأَصْدَاغِ وَعَظْمِ نَرُوجِهِ وَأَصْدَاغِيهِ

پیدائشی مٹائی اور ابھار پر ان کی مٹائی اور ابھاروں میں۔ اور آپ کی کپٹی پر کپٹیوں میں اور دونوں کپٹیوں کی ہڈی پر اور کپٹیوں کی دونوں

وَأُذُنِهِ فِي الْأُذَانِ وَخِتَارِ أُذُنِهِ فِي الْخِتْرِ وَشَحْمَةِ أُذُنِهِ فِي الشُّحُومِ

رگوں پر اور آپ کے ہر کان پر کانوں میں۔ اور کانوں کے نرم اور ڈھیلے حصے پر ڈھیلے حصوں میں۔ اور کانوں کے نرموں پر نرموں میں

وَعُصْنِ أُذُنِهِ فِي الْعُصُونِ وَغَفِيرَتِهِ فِي الْغَفَائِرِ وَصِمَاخِهِ فِي

اور آپ کے کان کی شاخ پر ان کی شاخوں میں اور اس کے بڑھے ہوئے حصے پر ان بڑھے ہوئے حصوں میں۔ اور اس کے ہر سوراخ پر

الْأَصِيخَةِ وَجُوبَتِهِ وَوَشِيحَتِهِ فِي الْوَشَائِحِ وَذَفْرِيهِ فِي الدَّفَائِرِ

سوراخوں میں اور ہر کان کے گڑھے اور گہرائی پر اور کانوں کی ہر گ پر اور کانوں کے پیچھے والی ہڈیوں پر ان ہڈیوں میں

وَكَفَافِهِ وَلَهْزَمَتِهِ وَاللَّهَارِمِ وَمَحَارِمَتِهِ فِي الْمَحَارِمِ وَوَتْدَاهِ

اور ہر کان کے محیط اور گہرے پر۔ دونوں جبڑوں پر جبڑوں میں اور کانوں کے گڑھے پر گڑھوں میں اور کان کے سامنے والے ابھرے حصے

فِي الْأَوْتَادِ وَوَجْهِهِ فِي الْوُجُوهِ وَخَدَّهِ فِي الْخُدُودِ وَعَارِضِهِ فِي الْعَوَارِضِ

حصے پر ان ابھرے حصوں میں۔ اور آپ کے چہرہ پر چہروں میں اور رخسار پر رخساروں میں گالوں پر گالوں میں۔

وَوَجْنَتِهِ فِي الْوَجْنَاتِ وَعَظْمِ وَجْنَتِهِ فِي الْعِظَامِ وَوَافِدِيهِ

اور ہر رخسار پر رخساروں میں۔ اور رخساروں کی ہڈیوں پر ان ہڈیوں میں۔ اور رخساروں کے نرم اور ملائم

دِيْبَا جَتِي خَدَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

حصوں پر جو طعام جیتاتے وقت ابھرائیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَدْعِيَةِ الْأَدْوِمِ الْأَمْرَجِ الْأَدْعِيَةِ وَ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کرسیاہ مومنی اور اپنے مرکز میں گھومنے والی آنکھوں والے ہیں اور باریک لمبے ابروؤں پر چہرے

غَبَبِ ذَقْنِ الْأَبْلَجِ وَعِيَابِ ذَا قِنِ الْأَبْرَجِ بِحُرْمَةِ

والے اور سیاہ رنگ ہیں اور ٹھوڑی کے نیچے نلکے روشن اور چمکیلے حصے پر۔ اور ٹھوڑی کے گنبد نما ابھار پر

سَيِّدِ الْأَحْسَنِينَ وَعِذَارِہٖ وَشَاكِلَتِہٖ وَعَضَلَتِہٖ الْعَرِضَتَيْنِ

بطفیل حرمت حسینوں کے سردار کے۔ اور آپ کے رخسار پر۔ اور آپ کی شکل اور انداز تخلیق پر۔ اور دونوں مضبوط چوڑے ٹپھوں پر

وَأَنْفِہٖ وَأَرْبَابَتِہٖ وَمَارِنِہٖ وَصَفْحَہٖ وَجْہِہٖ وَسِمَانِہٖ وَعَرْنِیْنِہٖ

اور آپ کی ناک پر۔ اور آپ کی ناک کے سرے پر اور اس کے نرم و ملائم حصے پر۔ چہرے کے کنارے اور عارض رخ پر اور اس کے اجمار پر اور

وَمَصَافِتِہٖ وَمَنْخَرِہٖ وَنَاظِرِیْہٖ وَنَخْرَہٖ أَنْفِہٖ وَوَتْرَ أَنْفِہٖ وَ

ناک کی نوک پر اور نوک مبارک کی ڈھلوان اور آپ کے ناک مبارک کے ہر نکتے پر اور آنکھوں کی دونوں رگوں پر جو نرمک پہنچتی ہیں۔ اور آپ کے ناک کے لگے حصے

أَسْہَرِیْہٖ وَخَنَابَتِیْہٖ وَخِشُومِہٖ وَتَفْرِتِہٖ وَأَنْفِہٖ فِی الْأَنَافِ

پر اور ناک کے بانسے اور ٹپھوں کی درمیانی جگہ پر۔ اور ناک کی دونوں رگوں پر۔ اور اس کے دونوں نکتوں پر۔ اور اس کے بانسے پر اور اوپر والے ہونٹ کے گڑھے پر اور

وَحَلْمَتِیْ تَدْبِیْہٖ وَشَارِبِہٖ وَسَبَلَتِہٖ وَشَفْتِہٖ الْعُلْیَا وَ

آپ کی ناک پر ناکوں میں۔ اور پستانوں کے سروں پر۔ اور ٹپھوں پر۔ اور ٹپھوں کے بڑھے ہوئے کناروں پر۔ اور آپ کے ہر دو ہونٹ پر اور بالائی ہونٹ اور

السُّفْلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمْرَہٖ شَفْتِیْہٖ وَعَنْفَقَتِہٖ وَ

زیریں ہونٹ پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہونٹوں کی گلابی رنگت پر۔ اور لب زیریں اور ٹھوڑی کے درمیانی بالوں پر۔ اور

مَغْفَلِہٖ وَفُوْہِہٖ وَإِطَارِ شَفْتِہٖ اللَّهُمَّ أَصْعِدْ رُوحِیْ إِلَى

لب زیریں کے بالوں پر اور آپ کے منہ مبارک پر۔ اور ہونٹ کے کنارے پر۔ اے اللہ بلند فرما میری روح کو

سَمَاءِ الْقُدْسِ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ فِی الصُّعُودِ وَبِصْرِنِی حَقِیْقَۃً کُلِّ

آسمانِ قدس تک بغیر کسی آفت اور رکاوٹ کے بلند ہونے میں اور مجھے بصیرت عطا فرما ہر فرشتے کی حقیقت کی

مَلِكٍ ظَلَمَانِیْ أَوْ نُورَانِیْ نَفَّاءِ أَوْ خَيْرَیْنِیْ عَنِ إِشَارَاتِہٖ

وہ فرشتہ ظلمانی ہو۔ نوحہ نورانی۔ نفع دینے والا ہو۔ یا ضرر دینے والا ہو۔ اور مجھے باخبر بنا ان کے اشارات سے

وَلِحَظَاتِہٖ ثُمَّ اجْعَلْنِی دَثِیْرًا عِنْدَہُمْ حَتَّىٰ أَسْكُنَ لَدَیْہُمْ وَأَعْلَمَ

اور انھیں پھیرنے سے بچھڑنا مجھے انہیں سے پٹنے اور قریب رہنے والا حتیٰ کہ میں سکون حاصل کروں ان کے پاس اور معلوم کروں

بِأَنْوَاعِ تَسْبِیْحَاتِہُمْ وَكَيْفِیَّةِ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ بَیْنَهُمْ وَأَسْتِیْلَاءِ

ان کی تسبیحات کے انواع و اقسام۔ اور ان میں قوت اور ضعف کی کیفیت کو اور بعض کے بعض پر غلبہ



الْبُعْضُ عَلَى الْبُعْضِ وَتَشْبِيهِهُمْ فِي جُودَتِهِمْ وَتَمْوُجِهِمْ عِنْدَ وَعْدِهِمْ

پانے کو۔ اور ان کے باہمی اختلاط کو اور ان کے لہروں کی مانند چلنے کو وعدہ کے وقت میں

فَلَا أَخَافُ وَلَا أَرْهَبُ عِنْدَ السَّمَاءِ بَلْ أَكُونُ قَائِمًا

پس میں نہ خوف کھاؤں اور نہ ڈروں (ان کی کیفیات افعال) سُننے پر بلکہ میں قائم رہوں تیری توفیق کے

بِكَ عِنْدَ حَضْرَتِكَ فَكُلُّ هَوْلٍ وَدَهْشَةٍ وَهَيْبَةٍ عَرَضَتِي

ساتھ تیری بارگاہ میں۔ پس جو ہول و دہشت اور ہیبت مجھے پیش آئے

فَادْفَعَهُ عَنِّي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْرِيَ فِي الْوَجَلِ فَأَقْهَرُ قَهْقَرِي

پس اسے مجھ سے دور کر دینا بغیر اس کے کہ سراپت کرے مجھ میں ڈر اور خوف پس میں اٹلے پاؤں پھروں

وَلَا النَّجَلَ فَأَمْتَعُ عَنْ خَيْرِهَا وَبِرِّهَا اللَّهُمَّ لَا تَهْدِنِي إِلَّا

اور یا شرمندگی پس میں محروم کر دیا جاؤں اس بارگاہ میں کی خیر اور بھلائی سے۔ اے اللہ میری رہنمائی نہ فرما مگر

عَلَى مُطَالَعَاتِ خِدْمَتِكَ وَمَسَاهِرَاتِ حَضْرَتِكَ وَ

اپنی بارگاہ کے مطالعہ و مشاہدہ پر اور اپنی بارگاہ میں بیداریوں پر اور

النَّفْسُ إِنْ بَغَتْ عَنْ إِطَاعَتِهَا وَأَعْرَضَتْ فَلَا تَجْعَلْهَا

میرا نفس اگر بناوٹ کرے اطاعت سے اور اعراض کرے تو اسے نہ بنا

بِأَغْيَةِ ظَالِمَةٍ بَلْ اجْعَلْهَا طَائِعَةً عَادِلَةً بِحَيْثُ تُصِيرُ رُوحِيَّةً

باغی اور ظالم بلکہ (اپنی قدرت کاملہ سے) اس کو بنا دینا طاعت گزار اور عادل اس انداز میں کہ وہ روح کی مانند ہو جائے

فَلَا يَفْرُقُ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا بِصِفَةٍ مِّنْ صِفَاتِ فَارِقَةٍ بَيْنَهُمَا فِرَّةً

پس نہ جدائی پیدا کرے ان میں کوئی جدائی پیدا کرنے والا ساتھ ایسی صفت کے جو ان میں فرق اور تمیز پیدا کرنے والی ہو پس کبھی

تُصِيرُ بِصِفَاتِ رُوحِيَّةٍ وَمَرَّةً بِنَفْسَانِيَّةٍ وَمَرَّةً تُصِيرُ بِهِمَا فَلَا

تو اس کو ڈھالے روحانی صفات میں۔ اور کبھی نفسانی میں اور کبھی دونوں میں۔ پس نہ

يَمْنَعُ مَلِكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ لَهَا بِقَوْلِهِ إِذْ هَبِي لَيْسَ لَكَ وَصُولٌ

روکے عالم بالا کا کوئی فرشتہ اس کو یہ کہہ کر چلے جاؤ تم مقام وصول کے لائق نہیں



أَنْتِ نَفْسٌ بَاغِيَةٌ ظَالِمَةٌ أَيْبَةٌ مِنْ أَبْنَاءِ مَنْ ظَلَمَ أَوْلَادَ رَبِّنَا

تو تو باغی نفس ہے اور ظالم اور انکار کرنے والا (تعمیل حکام سے) اور اس شخص کی اولاد سے ہے جس نے پہلے ظلم (ظلمت) اولیٰ کیا۔ اے رب ہمارے

لَمْ تَطْهَرْنَا وَتَهْدِنَا لِنَكُونَنَّ مِمَّنْ لَمْ يُهْدَ إِلَىٰ رَبِّنَا فَتَنْقَلِبَ خَاسِرًا

اگر تو ہمیں (اپنے) نفس پر غالب نہ کرے اور ہدایت عطا نہ کرے (البتہ ضرور ہو جائیں گے ہم ان سے جو نہیں ہدایت دے گئے) طرف پروردگار کے

غَيْرَ مَا أَشِدُّ فَأَرْشِدْنَا وَأَرْبَانَا مَا أَمَلْنَا مِنْ كُشُوفِ مَا غَابَ عَنَّا

پس جو ہمیں گے رسوا اور بے راہ پس ہمیں راہ دکھلا اور ہمیں ہماری تمنائیں دکھلا یعنی اتمشات فرما ان امور کا جو ہم سے غائب ہیں اپنے

بَلِّغْهُ الْخَفِيَّ الْخَفِيَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

خفی الخفی لطیف و کرم کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَزَاجِهِ فِي الْأَمْزَجَةِ وَخَلْطِهِ فِي

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے مزاج مقدس پر مزاجوں میں۔ اور آپ کی ہر خلط پر

الْأَخْلَاطِ وَمَرْوَجِهِ النَّفْسَانِيَّةِ فِي النَّفُوسِ وَمَرْوَجِهِ الطَّبِيعِيَّةِ فِي

اخلاط میں۔ اور آپ کے روح نفسانی پر نفوس میں۔ اور آپ کے روح طبعی پر

الطَّبَائِعِ وَمَرْوَجِهِ الْحَيَوَانِيَّةِ فِي الْحَيَوَانَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

طبیعی میں۔ اور روح حیوانی پر جانداروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ فِعْلِهِ فِي الْأَفْعَالِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے ہر فعل پر افعال میں

وَقُوَّتِهِ فِي الْقُوَىٰ وَقُوَّتِهِ الْغَازِيَةِ وَالنَّامِيَّةِ وَالْمَوْلِدَةِ وَالْمُصَوَّرَةِ وَالْجَاذِبَةِ وَ

اور آپ کی قوت پر قوتوں میں اور آپ کی قوت غازیہ پر اور قوت نامیہ پر۔ اور قوت مولدہ پر اور قوت مصورہ پر۔ اور خوراک کو جذب کرنے والی قوت پر

الْمَأْسُكَةِ وَالْمَهَاضِمَةِ وَالِدَّافِعَةِ وَالْمَحْرِقَةِ وَالشُّوقِيَّةِ وَالشَّهَوَانِيَّةِ

اور اے مدد سے وغیر میں روکے رکھنے والی قوت پر اور قوت ہاضمہ پر اور فضلات کے دور کرنے والی قوت پر۔ اور جلائی والی اور شوق والی قوت پر اور شہوانی

وَالْغَضَبِيَّةِ وَقُوَّتِهِ الْمُدْرِكَةِ وَقُوَّةَ بَصَرِهِ فِي الْمُبْصِرَاتِ وَقُوَّةَ

اور غضبی قوت پر۔ اور آپ کے علوم و ادراک والی ہر قوت پر۔ اور قوت بصر پر مبصرات میں آپ کے





سَمِعَهُ فِي السَّمُوعَاتِ وَشَبَّهَهُ فِي الْمَشْمُومَاتِ وَذَوَّقَهُ فِي الْمَذُوقَاتِ

سننے کی قوت پر مسموعات میں۔ اور سونگھنے کی قوت پر سونگھی جانے والی چیزوں میں اور چکھنے کی قوت پر چکی جانے والی چیزوں میں

وَلَمَسَهُ فِي الْمَلْمُوسَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور چھونے کی قوت پر چھوئی ہوئی چیزوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَوَائِجِهِ الظَّاهِرَةِ فِي الظَّوَاهِرِ وَالْبَاطِنَةِ

سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے حواس ظاہرہ پر ظاہری حواس میں۔ اور حواس باطنہ پر

فِي الْبُاطِنِ وَحِسِّهِ الْمَشْتَرِكِ فِي الْحَوَائِصِ وَوَهْمِهِ فِي الْأَوْهَامِ وَ

باطنی حواس میں۔ اور آپ کی حس مشترک پر حواس مشترکہ میں اور حس وہم پر حواسے وہم میں۔ اور

حَافِظَتِهِ فِي الْحَافِظَاتِ وَخَيَالِهِ فِي الْخَيَالَاتِ وَمُتَصَرِّفَتِهِ

حافظہ حفظ پر حواس حفظ میں اور حواس خیال پر حواس خیال میں۔ اور آپ کی قوت متصرفہ پر

فِي الْمُتَصَرِّفَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

قوائے متصرفہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى كَوْنِهِ فِي الْأَلْوَانِ وَصُورَاتِهِ فِي الصُّورِ

محمد کی آل پر۔ اور آپ کی رنگت پر الوان میں اور صورت مبارکہ پر صورتوں میں اور

حَلِيَّتِهِ فِي الْحَلِيِّ وَهَيْئَتِهِ فِي الْهَيْئَاتِ وَشَكْلِهِ فِي الْأَشْكَالِ وَ

آپ کے حلیہ مبارک پر حلیوں میں۔ اور آپ کی ہیئت پر ہیئتوں میں اور شکل مبارک پر شکلوں میں اور

جَمَالِهِ فِي الْأَجْمَلِينَ وَحُسْنِهِ فِي الْجِسَانِ وَنُورِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَ

آپ کے جمال پر ارباب جمال میں۔ اور آپ کے حسن پر ارباب حسن میں۔ اور آپ کے نور پر انوار میں اور

نَظَرِهِ فِي التَّوَاطُرِ الْأَنْظَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

آپ کی نظر پر دیکھنے والی نظروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى لِحَظَّتِهِ فِي اللَّحَظَاتِ وَطَرَفَتِهِ فِي الطَّرَفَاتِ

سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے آنکھ کے کنارے سے دیکھنے پر اور آنکھ چھپکنے پر آنکھیں چھپکنے میں۔



وَلَمَحْتِهِ فِي اللَّمَحَاتِ وَبَصِيرَتِهِ فِي الْبَصَائِرِ وَرَائِحَتِهِ فِي الرِّوَائِحِ

اور آپ کے نظر اٹھا کر دیکھنے پر اور آپ کی بصیرت پر بصیرتوں میں اور آپ کی خوشبو پر خوشبویوں میں

وَعَطْسَتِهِ فِي الْعَطْسَاتِ وَصَوْتِهِ فِي الْأَصْوَاتِ وَلِحْنِهِ فِي الْأَلْحَانِ

اور آپ کی چھینک پر چھینکوں میں اور آواز پر آوازوں میں اور آپ کی خوش آوازی پر خوش آوازوں میں

وَلَفْظِهِ فِي الْأَلْفَاظِ وَكَلِمَتِهِ فِي الْكَلِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور آپ کے تلفظ پر تلفظوں میں اور آپ کے ہر کلمہ پر کلمات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ كَلَامِهِ فِي الْمَتَكَلِمِينَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے کلام پر کلام کرنے والوں میں۔

وَقَوْلِهِ فِي الْأَقْوَالِ وَنَفْسِهِ فِي النَّفُوسِ وَالْأَنْفَاسِ وَنَفْسِهِ

اور آپ کے قول پر اقوال میں اور آپ کے نفس پر نفوس میں (اور سانس پر) سانسوں میں اور آپ کے نفس

النَّاطِقَةِ فِي النَّاطِقِينَ وَسُكُوتِهِ فِي السَّاكِتِينَ وَصَمْتِهِ فِي

ناطقہ پر نفوس ناطقہ میں اور آپ کے سکوت پر خاموش رہنے والوں والوں میں اور آپ کے چپ رہنے پر

الصَّامِتِينَ وَبُكَائِهِ فِي الْبَاكِينَ وَضِحْكِهِ فِي الضَّاحِكِينَ وَتَبَسُّمِهِ

چپ رہنے والوں میں اور آپ کے رونے پر رونے والوں میں اور آپ کے ہنسنے پر ہنسنے والوں میں اور تبسم پر

فِي الْمُبْتَسِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

تبسم کرنے والوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَشْيِهِ فِي الْمَشَاةِ وَخُطْوَتِهِ فِي الْخُطُوتِ وَ

آل پر اور آپ کے چلنے پر چلنے والوں میں اور آپ کے قدموں کے درمیانی فاصلے پر قدموں میں اور

حَرَكَتِهِ فِي الْحَرَكَاتِ وَسُكُونِهِ فِي السَّكَنَاتِ وَوَسْخِهِ فِي الْأَوْسَاحِ وَ

آپ کی ہر جنبش پر جنبشوں میں اور ہر سکون پر سکانات میں اور آپ کی میل پر میلوں میں اور

عَرَقِهِ فِي الْأَعْرَاقِ وَدَمِهِ فِي الدِّمَاءِ وَمَهْجَتِهِ فِي الْمَهْجِ وَبَلْغَمِهِ فِي

پسینہ پر پسینوں میں اور آپ کے خون پر خونوں میں اور آپ کے دل کے خون پر ان خونوں میں اور بلغم پر

الْبَدَائِعِ وَصَفْرَائِهِ فِي الصَّفْرَاءِ وَيُنْ وَسُودَ آيَةٍ فِي السُّودِ أَوْ مِنْ أَللَّهُمَّ

بلغموں میں۔ اور آپ کی خلط صفراء پر ارباب صفراء میں اور خلط سوداء پر ارباب سوداء میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ رِيحِهِ فِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی خوشبو پر

الرِّيَاحِ وَدَمْعِهِ فِي الدَّمُوعِ وَعَبْرَتِهِ فِي الْعَبْرَاتِ وَصَلْوُوحِهِ فِي

خوشبوؤں میں اور آنسو پر آنسوؤں میں۔ اور آپ کے ہتے آنسو پر ہتے آنسوؤں میں۔ اور آپ کے اندرونی میل پر

الصَّالِيخِ وَذَنِينِهِ فِي الذَّنِينِ وَبُرَاقِهِ وَرَيْقِهِ فِي الْأَمْرِيَاقِ وَ

ان میلوں میں۔ اور آپ کے ناک کی ریزش پر ناک کی ریزشوں میں۔ اور آپ کے لعاب دہن اور تھوک پر تھوکوں میں اور

نُفَاتِهِ فِي النُّفَاتَاتِ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

لعاب دہن سے آمیزاں پھونک پر ایسے پھونکوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُرِيدٍ كُلِّ مُزِيدٍ وَمُزِيدٍ كُلِّ مُرِيدٍ وَرُوحِ الْعِبَادِ

سیدنا محمد کی آل پر جو ارادہ فرمانے والے ہیں ہر کمال میں ترقی کا اور زائد بخشنے والے ہیں ہر ارادت مند کو

وَرُوحِ الْعِبَادِ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور بندگان خدا کا سرو سامان راحت ہیں۔ اور عبادت گزاروں کی روح ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ عَظْمَ خَلْقِهِ وَعَظْمَ خَلْقِهِ وَعَيْنِ كُلِّ عَيْنٍ وَعَيْنِ كُلِّ

محمد کی آل پر جن کی خلقت عظیم ہو گئی اور جن کے خلق کو عظیم بنایا گیا جو آنکھ ہیں ہر تابعدار کی اور حجاب و پردہ ہیں ہر

عَيْنٍ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

معاہد کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر

مَّظْهَرِ تَجَلِّيَاتِ الْعَبْدِيَّةِ وَالْجَنَانِ الْعَبْدِيَّةِ وَوَعِيدِ كُلِّ شَقِيٍّ

جو آقا مظہر ہیں عبدیت کے انوار و تجلیات کے اور قربت والی جنات کے اور وعیدنا ہر شقی کے لیے

وَوَعِيدِ كُلِّ نَقِيٍّ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور وعدہ جنت ہیں ہر پاکیزہ کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْمُخْلِصِينَ وَالْمُخْلِصِينَ وَدُرَّةِ الْمَجْدِ وَكَمَالِهِ

سیدنا محمد کی آل پر جو خاتم ہیں خالص کئے ہوئے لوگوں کے اور ارباب اخلاص کے اور مجدد کمال کا دُرّہ بیتا ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر جس آقا کے

جَعَلْتَ رَأْسَهُ مِنَ الْهُدَىٰ وَسَمِعَهُ مِنَ الطَّاعَةِ وَحَوَاجِبَهُ مِنْ

سرناز کو بنایا ہے تو نے ہدایت سے۔ اور سمع مبارک کو طاعت سے۔ اور بھنوں کو

التَّفَكُّرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تفکر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي جَعَلْتَ عَيْنَهُ مِنَ النُّورِ وَأَنْفَهُ مِنَ الزُّهْدِ وَفَمَهُ مِنَ الْحِكْمَةِ

کہ جس آقا کی آنکھ کو تو نے نور سے بنایا ہے اور آپ کی ناک کو زہد سے۔ اور منہ مبارک کو حکمت سے

وَأَسْنَانَهُ مِنَ اللُّوْلُؤِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور دانتوں کو موتیوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَ لِسَانَهُ مِنَ الصِّدْقِ وَلِحْيَتَهُ مِنَ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کی زبان مبارک کو تو نے صدق سے بنایا ہے۔ اور ڈاڑھی مبارک کو

الرِّضَا وَعُنُقَهُ مِنَ التَّوَاضُّعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رضا سے اور گروں مبارک کو تواضع سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَ صَدْرَهُ مِنَ الْحَيَاةِ وَيَدَا

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے سینہ کو بنایا ہے تو نے حیواۃ سے۔ اور ہاتھوں کو

مِنَ السَّخَاوَةِ وَبَطْنَهُ مِنَ الْقَنَاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سخاوت سے اور پیٹ مبارک کو قناعت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَ قَلْبَهُ مِنَ الْإِخْلَاصِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جن کے دل نور کو تو نے اخلاص سے بنایا

وَرَبَّتْكَ مِنَ السَّكِينَةِ وَكَبِدَاكَ مِنَ الْحَنَانَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور پھیلنے کو سکینت و وقار سے۔ اور جگر کو شفقت و رحمت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَ بَشْرَتَكَ مِنْ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ جن کی جلد مبارک کو تو نے

الْعِصْمَةِ وَفَخِذَاكَ مِنَ الْوَرَعِ وَقَدَمَهُ مِنَ الْإِسْتِقَامَةِ اللَّهُمَّ

عصمت سے بنایا۔ اور ہر ران کو تقویٰ سے اور ہر قدم کو استقامت و ثبات قدمی سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ اسْرَارِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو تیرے راز مخفی کے ستر الاسرار ہیں

سِرِّكَ وَمَحَلِّ بَرِّكَ وَأَنْسَانَ كُلِّ انْسَانٍ وَمَوْضِعِ الْأَمَانِ اللَّهُمَّ

اور تیرے بڑا احسان کا محل ہیں اور ہر انسان کی آنکھ کی پتلی اور امان کی جگہ ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ پھوٹے

تَفَقَّتْ مِنْ نُورِهِ جَمِيعُ الْأَنْوَارِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا نُورَ الْمُصْطَفَىٰ

ابھیں کے سرچشمہ نور سے سبھی انوار۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما نور مصطفیٰ

وَسُرُورِ الْمُصْطَفَىٰ وَظُهُورِ الْمُصْطَفَىٰ وَشَفَاعَةِ الْمُصْطَفَىٰ وَلَطَافَةِ

اور سرور مصطفیٰ۔ ظہور مصطفیٰ اور شفاعت مصطفیٰ لطافت

الْمُصْطَفَىٰ وَعِنَايَةِ الْمُصْطَفَىٰ وَإِعَانَةِ الْمُصْطَفَىٰ وَإِيمَانِ الْمُصْطَفَىٰ


مصطفیٰ عنایت مصطفیٰ اور اعانت مصطفیٰ۔ ایمان مصطفیٰ

وَإِسْلَامِ الْمُصْطَفَىٰ وَبِهَاءِ الْمُصْطَفَىٰ وَلِقَاءِ الْمُصْطَفَىٰ وَإِخْلَاصِ

اور اسلام مصطفیٰ بہاء مصطفیٰ اور لقاء مصطفیٰ۔ اخلاص

الْمُصْطَفَىٰ وَبُرْهَانَ الْمُصْطَفَىٰ وَحُجَّةِ الْمُصْطَفَىٰ وَفَقْرِ

مصطفیٰ اور دلیل و برہان مصطفیٰ۔ حجت و استدلال مصطفیٰ۔ درویشی و فقر



المُصْطَفَى وَبِرَكَّةِ الْمُصْطَفَى وَاجْرَ الْمُصْطَفَى وَقُوَّةِ الْمُصْطَفَى

مصطفیٰ برکت مصطفیٰ اور جزاء و اجر مصطفیٰ۔ قوت و طاقت مصطفیٰ

وَنُصْرَةِ الْمُصْطَفَى وَتَوَابِ الْمُصْطَفَى وَتَوَكُّلِ الْمُصْطَفَى وَشُكْرِ

اور نصرت و اعانت مصطفیٰ۔ ثواب مصطفیٰ اور توکل مصطفیٰ شکر

الْمُصْطَفَى وَصَبْرِ الْمُصْطَفَى وَجَمِيلِ الْمُصْطَفَى وَجَمَالِ الْمُصْطَفَى

مصطفیٰ اور صبر مصطفیٰ۔ اجر جمیل مصطفیٰ اور حسن و جمال مصطفیٰ

وَجَنَّةِ الْمُصْطَفَى وَصَلَاةِ الْمُصْطَفَى وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ

جنت مصطفیٰ اور صلوٰۃ مصطفیٰ بطور تبعیت و نطفہ کے اور عس و پر تو سے محبوب اور صلوٰۃ بھیجے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے

مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

مہتر اور سردار محمد پر اور آپ کی آل پر اور تمام اصحاب کرام پر ساتھ اپنی رحمت کے اے سب رحم کرنے والوں سے بہت زیادہ رحم کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیجے سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي كَانَ لَا يَجْلِسُ إِلَّا عَلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِذَا انْتَهَىٰ إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ

کہ جو نہیں تشریف فرما ہوتے تھے کسی مجلس میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذکر پر۔ اور جب پہنچتے کسی قوم کی مجلس تک تو بیٹھ جاتے

حَيْثُ يَنْتَهَىٰ بِهِ الْمَجْلِسُ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ وَيُعْطَىٰ كُلَّ جُلُوسَاتِهِ

جہاں پر مجلس اور محفل کی انتہاء ہوتی (اور لوگوں کی گردنیں پھیلائی کر آگے نہ بڑھتے تھے) اور اسی طریق پر عمل کا حکم دیتے تھے اور عطا فرماتے تھے اپنے

بِنَصِيْبِهِ وَلَا يَحْسِبُ جَلِيْسَهُ أَنْ أَحَدًا اَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهُ مِمَّنْ

تمام ہم نشینوں کو ان کا حصہ اور نہ گمان کرتا آپ کا ہم نشین کہ کوئی شخص اس سے آپ کے نزدیک زیادہ اکرام والا ہے

جَالَسَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اہل مجلس سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیجے سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ وَاسِعَ النَّاسِ بَسْطَةً وَخَلَقَهُ فَصَارَ لَهُمْ أَبَاؤُ

محمد کی آل پر کہ اعلا کئے ہوئے تھے سب لوگوں کو آپ کی محوش مزاجی اور آپ کا حسن خلق پس آپ ان کے لیے باپ کی مانند تھے



صَارُوا عِنْدَكَ فِي الْحَقِّ سَوَاءً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور وہ سبھی آپ کے نزدیک استحقاق میں برابر تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ مَجْلِسُهُ مَجْلِسَ عِلْمٍ وَحَيَاءٍ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کی محفل مبارک سراسر علمی محفل تھی اور حیا

وَصَبْرٍ لَا تَرْفَعُ فِيهِ الْأَصْوَاتُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و صبر والی جس میں آوازیں بلند نہیں کی جاتی تھیں (آپ کے ادب و احترام کی وجہ سے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ جُلْسَانُهُ مُتَعَادِلَيْنِ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی بارگاہ ناز میں بیٹھنے والے باہم عدل و انصاف سے کام لینے والے تھے

يَتَفَاضَلُونَ فِيهِ بِالتَّقْوَىٰ مُتَوَاضِعِينَ يُوقِرُونَ فِيهِ

اور مجلس شریف میں ان کی فضیلت تقویٰ کے ذریعے ہوا کرتی تھی باہم تواضع سے پیش آنے والے تھے تعظیم کرتے تھے

الْكَبِيرَ وَيَرْحَمُونَ فِيهِ الصَّغِيرَ وَيُؤْتِرُونَ ذَا الْحَاجَةِ وَ

اس میں بڑے کی اور رحمت کرتے تھے چھوٹے پر اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے محتاجوں کو اور

يَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

مسافر کی حفاظت کرتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَوْقَاتُهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءٌ لِلَّهِ وَ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کے اوقات تین حصوں پر منقسم تھے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے

جُزْءٌ لِأَهْلِهِ وَجُزْءٌ لِنَفْسِهِ ثُمَّ جُزْءٌ كَابَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ اللَّهُمَّ

دوسرا حصہ اہل و عیال کی خیر گیری کے لیے۔ اور تیسرا حصہ اپنے لیے پھر آپ والا حصہ آپ کے اور عام لوگوں کے درمیان مشترک تھا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا نے

قَسَمَ الْوَقْتَ عَلَىٰ قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ وَحَوَائِجِهِمْ

تقسیم فرمایا وقت کو (غلاموں میں) ان کے دینی فضائل اور ان کے ضروریات کے مطابق



فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ وَيُشْغِلُهُمْ فِيَمَا يُصَدِّحُهُمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پس آپ ان کے ساتھ (تبلیغ و تعلیم میں) مشغول رہتے، اور انہیں مشغول رکھتے ان کے اصلاحی امور میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَشْغُلُ بِالْأُمَّةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا مشغول رہتے تھے اُمت کے ساتھ

مِنْ مَسْئَلَتِهِمْ عَنْهُ وَإِخْبَارِهِمْ بِالَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ وَيَقُولُ لِيُبَلِّغُ

ان کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے اور انہیں ایسے امور کی خبریں دینے کی وجہ سے جو ان کے لیے موزوں تھے اور فرماتے "چاہیے کہ

الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبِ وَأَبْلَغُونِي حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهُ

پہنچائے تم میں سے حاضر مجلس غائب کو اور پہنچاؤ مجھے حاجت اس شخص کی جو براہ راست پیش کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ

الَّذِي كَانَ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ وَالْفِكْرَةَ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ اللَّهُمَّ

جو محبوب ہمیشہ قلبی طور پر حالت حزن و ملال میں رہتے تھے اور تفکر کی حالت میں اور نہیں تھی (جو جو عجز امت کے آپ کے لیے راحت

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب (ظاہری طور پر مخلوق کے ساتھ)

كَانَ دَائِمَ الْبَشْرِ وَعَظِيمِ الْخُلُقِ إِنْ صَبَتْ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ وَإِنْ

ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملتے اور آپ کے اخلاق عظیم تھے۔ اگر خاموشی اختیار فرماتے تو بھی پر وقار انداز ہوتا تھا اور اگر

تَكَلَّمَ سَبَّأَ وَعَلَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کلام فرماتے تو آپ سب سے بلند و بالا ہوتے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَنْ رَأَاهُ بِدَاهَةٌ هَابَةٌ وَمَنْ خَالَطَهُ نَعُورَةٌ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہیں کسی نے اچانک دیکھا تو آپ کی تھلاوا ویریت، مڑوب ہو گیا اور جس نے صحیح پہچان اور عرفان کے ساتھ میل جول

أَحَبَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

رکھا تو آپ کا محب بن گیا اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا





مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ لَا يَدَّ خُرْشِيًّا لَلْغَدِّ وَأَشْجَعَهُمْ

محمد کی آل پر کہ جو محبوب سب لوگوں سے زیادہ جواد اور سخی تھے نہیں ذخیرہ فرماتے تھے کوئی چیز اگلے دن کیلئے اور سب بہادر

صَدْرًا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تھے دل کے لحاظ سے اور حسین تھے آواز کے لحاظ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَصْدَقَ النَّاسِ قَوْلًا وَوَعْدًا وَأَحْلَاهُمْ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب قول اور وعدہ میں سب سے سچے تھے۔ اور تمام سے شیریں تر تھے

وَأَصْوَبَهُمْ كَلَامًا وَأَوْضَحَهُمْ بَيَانًا وَأَفْصَحَهُمْ لَهْجَةً وَوَسَانًا وَأَوْفَاهُمْ

اور صائب تھے کلام میں۔ اور سب سے واضح بیان والے تھے۔ اور فصیح ترین زبان اور لہجے والے تھے۔ اور سب زیادہ وفا کرنے

عَهْدًا وَأَجْمَلَهُمْ صَبْرًا وَأَكْثَرَهُمْ شُكْرًا وَطَاعَةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

والے تھے عہد کی۔ اور سب زیادہ صبر جمیل والے تھے۔ اور سب زیادہ شکر گزار اور اطاعت گزار تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو سب سے زیادہ نرم طبع تھے اور

كَانَ فِي صَوْتِهِ سَهْلٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِل

آپ کی آواز میں نرمی اور دھیما پن تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ طَوِيلَ السَّكْتِ لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ يَفْتَتِحُ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب زیادہ تر حالت خاموشی میں رہتے تھے نہیں کلام فرماتے تھے بغیر ضرورت کے کلام

الْكَلَامِ وَيَخْتَمُ بِاسْمِ اللَّهِ وَيَبْتَكَلِمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کا آغاز فرماتے اور اس کا اختتام فرماتے اللہ تعالیٰ کے نام پر اور آپ کلمات جامعہ کے ساتھ کلام فرماتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کا دل انور نہیں سوتا تھا

إِنْ نَامَتْ عَيْنَاهُ وَكَانَ صَلَّى حَتَّىٰ انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

اگرچہ آنکھ سو جاتی تھی اور آپ نماز ادا کرتے ہوئے اس قدر قیام فرماتے کہ سوچ جاتے قدم مبارک آپ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَعُوذُ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو شہد کو نہیں مریضوں کی

الْمَرِيضِ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

عیادت فرماتے تھے اور غلاموں کے جنازوں میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِالْجَافِي

سیدنا محمد کی آل پر کہ جو مالک دوسرا قبول فرماتے تھے غلاموں کی دعوت کو۔ آپ نہ جفا کار تھے

وَلَا الْمُرِيضِ مَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ اِلَّا اَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا

اور نہ ضعیف و ناتواں نہیں مارا آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو کبھی بھی مگر یہ کہ آپ جہاد کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور نہ

ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْرَاةً اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

آپ نے خادم کو اور نہ کسی عورت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يُضْحِكُ مِمَّا يَضْحَكُ الصَّحَابَةُ مِنْهُ وَيَتَعَجَّبُ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جو ہنستے تھے اس امر سے جس سے صحابہ کرام ہنستے تھے۔ اور تعجب

مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ وَيَضْرِبُ لِلْغَرِيبِ عَلٰی الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَسَأَلْتِهِ

فرماتے اس امر پر جس سے وہ تعجب کرتے تھے اور درگزر فرماتے مسافروں جہنی کے لیے اس کی جفا کاری پر خواہ کلام میں ہوتی یا سوال میں

وَيُكْتَبُ الصَّوْمُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

اور آپ بخت روزے رکھتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ لَا يَقْطَعُ عَلٰی اَحَدٍ حِدِيَّتَهُ حَتّٰى يَجُوزَ فَيَقْطَعُ

محمد کی آل پر کہ جو آتا نہیں قطع فرماتے تھے کسی پر اس کی بات کو حتیٰ کہ وہ تجاوز کرتا حد سے تو قطع فرماتے اس کی

بِنَهْيِ اَوْ قِيَامِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بات کو نہی کے ساتھ یا اٹھ کھڑے ہونے کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔

الَّذِي قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنَ الرِّيَاءِ وَالْاِكْبَارِ وَمَا سَأَلَ شَيْئًا قَطُّ

کہ جس اکرم غلام نے دور رکھا اپنے نفس کو ریا کاری سے اور بڑائی ظاہر کرنے سے اور ہر بے مقصد امر سے اور نہ سوال کیا گیا کسی چیز کا آپ سے کبھی بھی

فَقَالَ لَا وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَلَا تَغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَمَا كَانَ لَهَا اللَّهُمَّ

رحم کے جواب میں ایسے نہیں کا لفظ فرمایا ہو۔ اور جب آپ غضبناک ہو جاتے کسی پر تو اس سے منہ مڑ لیتے اور نہیں غضب میں لاتی تھی آپ کو دنیا اور نہ ہی

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا تَعَدَّى

آپ دنیا کیلئے (رغبت رکھتے تھے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو خلیفہ و خدا اس شان والے تھے کہ جب تعدی کی

الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ بِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ وَلَا يَغْضِبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ

جاتی تھی سے تو آپ کے بغض و غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی کوئی شئی یہاں تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لیتے اور نہیں ناراض ہوتے تھے اپنی ذات کے لیے اور نہ اپنے لیے

لَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

بدل لیتے تھے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو مخدوم و خلائق

كَانَ يَقْبَلُ الْهَدْيَةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا وَيَعْظُمُ النِّعْمَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ

قبول فرماتے تھے ہدیہ کو اور اس پر بدلہ دیتے تھے اور نعمت خداوندی کی تعظیم فرماتے تھے اگرچہ نہیں ہی کیوں نہ ہوتی) لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ لَمْ يَشْبَعْ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس زاہد ترین خلق نے نہیں سیر ہو کر کھایا

مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ وَلَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ غَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ مِّنْهُمَا إِلَّا عَلَى

روٹی کو اور نہ گوشت کو۔ اور نہ ہی جمع ہوا (بیک وقت) آپ کے پاس صبح کا کھانا اور شام کا ان دونوں سے مگر

ضَعْفٍ يَا حَيُّ أَنْتَ الَّذِي تُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَتُحْيِي الْأَمْوَاتَ يَا حَيُّ يَا

قلیل مرتبہ۔ لے بہ تقاضائے ذات زندہ رہنے والے تو ہی فوت کرتا ہے زندوں کو اور زندہ کرتا ہے مرووں کو لے زندہ۔ لے

مُنْعِمٌ أَنْتَ الَّذِي تَعْجِزُ الْخَلَائِقَ مِنْ شُكْرِ نِعْمَتِهِ يَا مُنْعِمُ يَا غَفَّارُ

انعام فرمانے والے تو ہی ہے کہ تمام مخلوقات عاجز و قاصر ہے جس کے شکر نعمت سے اسے انعام کرنے والے۔ لے بخشنے والے

أَنْتَ الَّذِي تَغْفِرُ ذُنُوبَ عِبَادِهِ بِفَضْلِهِ وَتَعْفُو عَنْهَا بِرَحْمَتِهِ يَا غَفَّارُ

تو ہی بخشتا ہے گناہ اپنے بندوں کے اپنے فضل سے اور درگزر کرتا ہے ان سے اپنی رحمت کے ساتھ۔ لے بخشنے والے

يَا مَالِكُ أَنْتَ الَّذِي تُؤْتِي الْمَلَكَ لِمَنْ تَشَاءُ بِلُطْفِهِ يَا مَالِكُ يَا قَادِرُ

لے مالک تو ہی عطا کرتا ہے اپنا مالک جس کو چاہتا ہے ساتھ اپنے لطف و کرم کے۔ لے مالک۔ لے قادر



أَنْتَ الَّذِي إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ مَوْجُودًا بِالسَّرْعَةِ يَا

تو ہی ایسا قادر ہے کہ جب ارادہ کرے کسی شئی کا پس کہے اسے ہو جا تو وہ موجود ہو جاتی ہے قوری طور پر لے

قَادِرٌ يَا قَاهِرُ أَنْتَ الَّذِي تُفْنِي مَا شِئْتَ وَتُبْقِي مَا شِئْتَ بِمَشِيئَتِهِ

قدرت والے لے قہار تو ہی ایسا قادر ہے کہ فنا کرتا ہے جسے چاہے اور باقی رکھتا ہے جسے چاہے اپنی مشیت کیساتھ

يَا قَاهِرُ يَا حَافِظَ أَنْتَ الَّذِي تَحْفَظُ لِمَنْ أَرَدْتَ مِنْ أَفْتِهِ وَ

لے قاہر۔ لے حافظ تو ہی حفاظت فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اپنی آفات اور بلیات سے

بَلِيَّتِهِ بِرَحْمَتِهِ يَا قُدُّوسَ أَنْتَ الَّذِي تَقْدَسَتْ الْمَلَكَةُ الْمُقَرَّبُونَ

ساتھ اپنی رحمت کے۔ لے قدوس تو ہی وہ پاک ذات ہے کہ مقدس ہو گئے ملائکہ مقربوں

وَالْأَنْبِيَاءُ الْمُرْسَلُونَ بِقُدْسِهِ يَا قُدُّوسَ يَا وَكِيلَ أَنْتَ الَّذِي تَرْفَعُ

اور انبیاء مرسلین اس کے تقدس و طہارت سے لے قدوس لے کار ساز تو ہی اٹھاتا ہے (زوم واری)

أُمُورَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ بِقُدْرَتِهِ وَقُوَّتِهِ يَا وَكِيلَ يَا مُؤْمِنَ أَنْتَ

اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کے امور کی اپنی قدرت اور قوت کے ساتھ لے کار ساز۔ لے امن و ایمان دینے والے تو ہی

الَّذِي تُعْطِي الْإِيمَانَ وَالْأَمَانَ لِلْمُؤْمِنِ بِكَرَمِهِ وَمِدَّةَ يَوْمٍ مِنْ يَأْخِذُكُمْ

عطا فرماتا ہے ایمان اور امان اہل ایمان کو اپنے کرم اور احسان سے۔ لے مومن۔ لے عظیم تو ہی وہ حکمت والا ہے کہ

أَنْتَ الَّذِي تَحَيَّرْتَ الْفُقَهَاءَ وَالْحُكَمَاءَ مِنْ حِكْمَتِهِ يَا حَكِيمَ يَا خَالِقَ

حیرت زدہ ہو چکے ہیں فقہاء اور علماء جس کی حکمت سے لے عظیم۔ لے خالق

أَنْتَ الَّذِي تَخْلُقُ أَصْنَافَ الْخَلَائِقِ بِقُدْرَتِهِ يَا خَالِقَ يَا كَرِيمَ أَنْتَ

تو ہی پیدا فرماتا ہے مخلوقات کے اقسام و اقسام کو اپنی قدرت سے لے خالق۔ لے کریم تو ہی

الَّذِي تُكْرِمُ الْإِنْسَانَ عَلَى سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ بِعِنَايَتِهِ يَا كَرِيمَ يَا وَهَّابَ

کرامت دیتا ہے انسان کو تمام حیوانات پر اپنی عنایت سے لے کریم۔ لے ہب کرنے والے

أَنْتَ الَّذِي تَهَبُ لِمَنْ تَشَاءُ الدُّكُومَ بِعَوْنِهِ يَا وَهَّابَ يَا مَالِكَ الْمُلْكِ

تو ہی ہب فرماتا ہے جس کو چاہے اولاد زینہ اپنی اعانت سے لے ہب کرنے والے لے مالک ملک

أَنْتَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ مُلْكُهُ وَلَا يَزَالُ عِزُّهُ وَعُلُوُّهُ يَا مَالِكُ يَا غَنِيَّ أَنْتَ

تو ہی وہ ذات ہے کہ ہمیشہ سے ہے ملک جس کا۔ اور ہمیشہ رہے گی عزت اور برتری جس کی لے مالک۔ لے غنی تو ہی

الَّذِي تَوَرَّتِي الْمَلِكُ لِمَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَمْ تَرَ إِلَّا حَتَّى آجِر بِحُكْمِهِ

عطا کرتا ہے ملک سے چاہے اپنے بندوں سے اور نہیں دیکھی تو نے محتاجی اور مجبوری اپنے حکم میں

يَا غَنِيَّ يَا صَدُّ أَنْتَ الَّذِي تُثَبِّتُ ضَمَائِرَ عِبَادِهِ عَلَى وَحْدِ أَيْدِيهِ

لے غنی۔ لے صمد بے نیاز تو ہی برقرار رکھتا ہے اپنے بندوں کے دلوں کو اپنی وحدانیت پر

بِلُطْفِهِ يَا صَدُّ يَا رَوْفُ أَنْتَ الَّذِي لَا تَرُدُّ الْمُحْتَاجِينَ مَحْرُومًا

ساتھ اپنے لطف کے لے صمد۔ لے رءوف تو ہی ہے جو نہیں لوٹاتا محتاجوں کو محرومی کی حالت میں

مَنْ بَابِهِ يَا رَوْفُ يَا رَشِيدُ أَنْتَ الَّذِي تَرْتُقِي لِأَهْلِ مَعْرِفَتِهِ

اپنے دروازا سے لے رءوف۔ لے رشد و ہدایت کے مالک تو ہی بخشتا ہے اپنے اہل معرفت کو اپنا

قُرْبَةً وَوَصَالَهٖ يَا رَشِيدُ يَا قَدِيمُ أَنْتَ الَّذِي لَمْ تَبْلُغِ الْأَوْهَامَ إِلَى

قرب اور وصل۔ لے مالک رشد۔ لے قدیم تو ہی وہ ذات والا ہے کہ نہیں پہنچے مخلوق کے وہم و گمان

أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ يَا قَدِيمُ يَا هَادِيَّ أَنْتَ الَّذِي تَهْدِي إِلَى مَعْرِفَتِهِ لِمَنْ

جس کے اول و آخر کو لے قدیم۔ لے ہدایت دینے والے تو ہی رہنمائی فرماتا ہے اپنی معرفت کی طرف جس کو

تَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يَا هَادِيَّ يَا رَحِيمُ أَنْتَ الَّذِي نُجِيبُ الْبُضْطَرَّ وَنُعِينُ

چاہتا ہے اپنے بندوں سے لے ہادی۔ لے رحیم تو ہی ہے جو مجبوروں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مظلوموں کی امانت فرماتا ہے

وَنُحِبُّ الْعِبَادَ بِرَأْفَتِهِ لَا يَرْحَمُ أَحَدًا وَوَلَدًا كَمَا رَحِمْتَ بِمَغْفِرَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا رَحِيمُ

اور محبت رکھتا ہے اپنے بندوں سے اپنی رافت سے نہیں رحم کرتا کوئی اپنی اولاد پر جیسے تو نے رحم کیا ہے اپنی مغفرت کیساتھ اپنی مخلوق پر لے رحیم

يَا غَفُورَ أَنْتَ الَّذِي تَظْهَرُ الْحَسَنَاتِ وَتَسْتُرُ السَّيِّئَاتِ وَتَعْفُو عَنْهَا بِمَغْفِرَتِهِ وَبِرَأْفَتِهِ

لے غفور تو ہی ہے جو ظاہر فرماتا ہے ہماری نیکیوں کو اور چھپاتا ہے ہماری برائیوں کو اور دگر دگر کرتا ہے ان سے اپنی مغفرت اور رافت کے ساتھ

يَا غَفُورَ يَا كَبِيرَ أَنْتَ الَّذِي تَعَالَى وَتَكَبَّرَتْ عَظَمَتُهُ وَجَلَّالَهُ يَا كَبِيرَ يَا عَلِيَّ أَنْتَ

لے غفور۔ لے کبریا ہی والے تو ہی ہے جو بلند و بزرگ ہے اور بڑی ہے عظمت اور جلالت کی لے کبریا ہی والے۔ لے بلند شان والے تو ہی ہے

الَّذِي أَعْلَى شَانِهِ وَأَعْظَمَ سُلْطَانَهُ يَا عَلِيُّ يَا مَصُورَ أَنْتَ الَّذِي تُصَوِّرُ

کہ جس کی شان بلند ہے اور جس کی سلطنت عظیم ہے اے بلند شان والے۔ اے مصور تو ہی ہے جو بناتا ہے حسین ترین

أَحْسَنَ الصُّورِ بِكَمَالِ صُنْعَتِهِ وَبِلَاغَتِهِ يَا مَصُورَ يَا جَلِيلُ أَنْتَ الَّذِي لَا

صورتیں اپنی صنت کے انتہائی کمال و انجام کے ساتھ اے مصور اے جلیل تو ہی ہے جس کا

يَزَالُ جَلَالُهُ وَمُلْكُهُ وَبِقَاعُهُ يَا جَلِيلُ يَا عَلِيمُ أَنْتَ الَّذِي تَرْزُقُ الْعِلْمُ

جلال۔ ملک اور بقاء دائمی ہے اے جلیل۔ اے علیم تو ہی ہے جو عطا کرتا ہے علم

لِمَنْ تَشَاءُ بِكَرَمِهِ يَا عَلِيمُ يَا قَرِيبُ أَنْتَ الَّذِي أَقْرَبُ مِنْ كُلِّ قَرِيبٍ

جسے چاہے اپنے کرم سے اے علیم۔ اے قریب تو ہی ہے جو قریب تر ہے ہر قریب سے

يَعْلَمُهُ وَقَدْ رَاتِهِ يَا قَرِيبُ يَا وَاحِدًا أَنْتَ الَّذِي عَدَبْتَ لِمَنْ أَشْرَكَ وَأَنْكَرَ

اپنے علم اور قدرت کے ساتھ اے قریب۔ اے واحد تو ہی ہے جس نے عذاب دیا مشرکین کو اور انہی وحدانیت کے

وَحْدَانِيَّتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَا وَاحِدًا يَا عَظِيمَ أَنْتَ الَّذِي لَمْ تُبَلِّغْ خَطَرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ

منکرین کو اپنے عدل کے ساتھ اے واحد۔ اے عظیم تو ہی ہے کہ نہیں پہنچے خطرات و نجات مؤمنین کے

بِكُرْمِهِ وَعَظَمَتِهِ يَا وَرِيَّ أَنْتَ الَّذِي تَرْزُقُ لِرَبِّهِ مَقَامَ الْوَالِيَةِ

اس کی حقیقت اور عظمت تک اے عظیم۔ اے ولی و کار ساز تو ہی ہے کہ بخشا ہے اپنے ولیوں کیلئے مقام ولایت کا

بَيْنَ عِبَادِهِ بِشَيْئَةٍ يَا وَرِيَّ يَا نُورَ أَنْتَ الَّذِي تُنَوِّرُ أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اپنے بندوں کے درمیان اپنی مشیت سے اے ولی۔ اے نور تو ہی ہے جو منور کرتا ہے آسمان و زمین والوں کو

بِنُورِهِ يَا نُورَ يَا عَزِيزَ أَنْتَ الَّذِي تُدَلُّ الْكُفْرَانَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَعْرِضُ الْمُؤْمِنِينَ بِفَضْلِهِ

اپنے نور سے اے نور۔ اے عزیز و غالب تو ہی جو ذلیل کرتا ہے کفار کو اپنے عدل سے اور عزت دیتا ہے مؤمنین کو اپنے فضل سے

يَا عَزِيزُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَعَظَمَتِهَا وَشَرَفِهَا وَكَمَالِهَا وَ

اے عزیز۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ان اسماء کی عزت و حرمت اور عظمت و شرافت اور کمال و

جَلَالِهَا وَسُلْطَانِهَا وَيُرْهَانَهَا وَذِكْرُهَا وَأُسْمَاءُهَا وَنُورِهَا وَبِحَقِّ أَسْرَارِهَا وَ

جلال اور سطوت و سلطان اور ان کی حجت و برہان۔ اور ان کے ذکر اور اس و نور کے نوسل سے۔ اور بطریق ان کے حق اسرار و

تَعُدُّ إِدْهَاءَ وَكِبِيرَهَا وَصَغِيرَهَا وَدَرَجَاتِهَا وَدَعْوَاتِهَا وَخَوَاصِّهَا وَتَأْتِيرَهَا

تعداد کے اور ان کے کبیر و صغیر کے اور ان کے درجات و دعوات کے اور خواص و تاثیر کے

وَتَفْسِيرِهَا وَمَعَانِيهَا وَظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا وَرُسُومِهَا وَكُسُورِهَا وَسَطَوَاتِهَا وَ

اور بوسیلہ ان کی تفسیر و معانی کے اور ظاہر و باطن کے اور ان کے رسوم اور نقوشوں کے اور ان کے کسور اور عددی تقسیم کے صدقے میں اور

أَبْنَاتِهَا وَخَدَّامِهَا وَأَقْلَامِهَا وَعُظْمِهَا جَمِيعِ اسْمَائِهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

ان کی سطوت اور شدتوں اور ان کے خدام اور ان کے رکھنے والی قلموں کے طفیل اور تمام اسماء کی عظمت کے طفیل (رسول کریمؐ) کو سلام بھیجے پھر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَرُنُّ قِنِي دِينًا ثَابِتًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَإِخْلَاصًا

محمدؐ پر اور آل محمدؐ پر اور عطا کرے مجھے پائیدار دین - کامل یقین اور کامل اخلاص اور

كَامِلًا وَسَوْقًا وَاشْتِيَا قًا غَالِبًا وَأَرْزُقْنِي بِجَمِيعِ أَوْلِيَاءِكَ وَأَصْفِيَاءِكَ

غالب آنے والا شوق و اشتیاق اور رزق عطا فرما مجھے بطفیل اپنے تمام اولیاء و اصفیاء کے

وَاحْفَظْنِي مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَالنَّفْسِ الْأَمَّارَةِ وَمِنْ شَرِّ جَمِيعِ الْعُقُوبَاتِ

اور محفوظ رکھ مجھے شیطان اور نفس امارہ کے شر سے - اور تمام

الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ وَعَفْوِكَ يَا عَفُوًّا

دنوی اور اخروی سزاؤں کے شر سے ساتھ اپنے فضل و کرم کے اور رحم و عفو کے لے درگزر فرمانے والے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَرَمِكَ التَّوْحِيدَ وَرَحْمَتِكَ التَّوْحِيدَ

اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے کرم کے صدقے میں توحید کا اور رحم کے صدقے میں توحید کا

وَعَفْوِكَ التَّوْحِيدَ وَبِكَمَالِكَ التَّوْحِيدَ وَبِوَسَائِلِكَ

اور عفو کے صدقے میں توحید کا - اور تیرے کمال کے صدقے میں توحید کا اور تیرے وصال کے صدقے میں

التَّوْحِيدَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ

توحید کے حصول کا - فرمادیجئے وہ اللہ بیکتا ہے - اللہ بے نیاز ہے - اس نے کسی کو جنم نہیں دیا

وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

وہ کسی سے نہیں جنا گیا اور نہیں اس کے لیے رشتہ دار کوئی -

